

Z
6621
C77
07
pars. 2

HANDBOUND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS

CODICES ORIENTALES

BIBLIOTHECAE REGIAE HAFNIENSIS

JUSSU ET AUSPICIS REGIS

ENUMERATI ET DESCRIPTI.

PARS ALTERA.

CODICES HEBRAICOS ET ARABICOS CONTINENS.

HAFNIAE.

EX OFFICINA SCHULTZIANA.

1851.



978196.

7
6621
C77
21
1152

CODICES HEBRAICI ET ARABICI

BIBLIOTHECAE REGIAE HAFNIENSIS

JUSSU ET AUSPICIS REGIS

ENUMERATI ET DESCRIPTI.

HAFNIAE.

EX OFFICINA SCHULTZIANA.

1851.

PRAEFATIO.

Quae incrementa litterae orientales in Europa quotannis ceperunt, ea catalogos codicum manuscriptorum, quibus thesauri bibliothecarum nemini aut perpaucis cogniti in lucem proferantur, quam maxime exigunt, quare descriptio codicum manuscriptorum orientalium, quorum et copia et praestantia *bibliotheca regia Hafniensis* plurimis bibliothecis occidentalibus antecellit, jam temporibus b. regis *Frederici VI.* constituta erat. Ea quidem ratione bibliotheca nostra plerisque alienis longe praestat, quod, quae ex codicibus orientalibus alibi saepissime casu, sive ut spolia ex bellis reportata sive alio modo congesta, inveniuntur, hic maximam partem certo consilio et summo labore acquisita sunt. Quibus igitur praecipuis rationibus copia codicum Hebraicorum et Arabicorum in bibliothecam nostram olim confluerit, paucis commemorare nobis liceat. Eximium ante omnia locum tenet expeditio illa orientalis a viro immortali *Niebuhr* et itineris sociis auspiciis b. m. R. *Frederici V.* a. MDCCLXI—VI. eo consilio suscepta, ut nova adjuncta, quibus studia litterarum sacrarum et orientalium in patria alerentur, undique congererentur. Qui uberrimi fructus inde percepti sint, omnibus notum est: CL. fere codices Hebraici, Arabici, Persici maxime in Aegypto cura viri celeberrimi *Frid. Chr. de Haven* coempti ad bibliothecam regiam accesserunt. Ex codicibus Hebraicis in hoc itinere acquisitis *Kennicottius* ad opus suum

criticum in vetus Testamentum conscribendum VIII. codicibus, ut in singulis catalogi numeris adnotatum est, liberalitate regia sibi commodatis usus est.

A. MDCCLXXIX. cel. *Suhm* collectionem apographorum Arabicorum, cel. *Reiskii* emptam bibliothecae regiae annua pecunia sibi et viduae superstiti constituta tradidit, quae quamquam pretium codicum in oriente transcriptorum minime habent, cum aliis conjuncta materiem criticae perutilem exhibent.

A. MDCCLXXXV. bibliotheca regia codices Arabicos et Persicos CCLVIII maximam partem argumenti historici et medici, qui *Christ. Gottlob Kratzensteinio*, in Universitate Hafniensi Professori Physices et Medicinae, titulo hereditatis ex India orientali venerunt, accepit, et eodem fere tempore vir cel. *Georgius Höst* ex civitate Maroccana in patriam redux nonnullis codicibus Arabicis bibliothecam ditavit.

A. MDCCCXXIII. cel. *Dan. Gotth. Moldenhawer* Bibliothecae regiae Praefectus meritissimus codices Hebraicos et Arabicos XXIII. legavit, et a. MDCCCXXX. liberalitate Proconsulis Hafniensis *I. H. Mundtii*, Regi a consiliis status, et *B. Wolfi*, domini praedii Engelholm in Siclandia, bibliotheca regia codices nonnullos Arabicos et Persicos in oriente collectos accepit. A. MDCCCXLV. omnes codices Hebraici et Arabici in bibliotheca Universitatis servati, annuente Rege augustissimo, in regiam bibliothecam translati sunt.

Nulla occasione codicum orientalium copiae augendae praetermissa, duobus annis abhinc auctoritate *E. C. Werlauffi*, praefecti bibliothecae, codices IX. Arabici et Turcici, a b. *C. T. Falbio* in civitate Tunetana et regno Graeciae olim summo mercaturae procuratore (General-Consul) relictis, acquisiti sunt, inter quos Cod. Arab. sub No. CCLXXXVI optimae notae prae ceteris notandus est.

His de comparatione codicum praemissis jam ad viros, qui de codicibus describendis bene meriti sunt, transeamus.

Codicum Hebraicorum et Arabicorum descriptio brevissima a S. Rev. *Adlero*, rerum sacrarum in Ducatu Slesvicensi antistite, in usum bibliothecae elaborata et Catalogo Manuscriptorum Collectionis veteris inserta per longum tempus unicum fere hujus generis litterarum praesidium fuit. (cfr. *J. Erichsen*, Udsigt over den gamle Ma-

manuscriptsamling i det store Kongelige Bibliothek, Hafniae 1786. p. 4—9.) Cujus vestigia vir eximia doctrina b. *M. H. Hohlenberg* in Universitate Hafniensi Dr. & Prof. Theologiae persecutus catalogum codicum Hebraicorum, codicibus Arabicis in hoc opere antepositum, diligentissima cura confecit ejusque editionem paravit. Quae ne ad finem perduceretur, mors tristis et immatura effecit.

Inter codices Arabicos codices caractere Cufico exaratos idem S. R. *Adlerus* libello, qui inscribitur: „Descriptione codicum quorundam Cuficorum partes Corani exhibentium in bibliotheca regia Hauniensi et ex iisdem de scriptura Cufica observationes novae, Altonae 1780 4to“, diligenter perscrutatus est; quae studia Rev. Mag. *Jac. Chr. Lindberg* continuavit et in epistola Francogallice scripta: „Lettre à M. le Chev. P. O. Brøndsted sur quelques médailles cufiques dans le cabinet du Roi de Danemark . . . et sur quelques *Manuscrits cufiques*, Copenh. 1830 4to“, eximia diligentia et doctrinae copia de antiquissima Arabum scriptura disputavit.

Codicum Arabicorum caractere recentiore exaratorum catalogum in usum bibliothecae privatum conscriptum vir doctissimus b. m. *Janus Lassen Rasmussen*, in Universitate Hafniensi Prof. LL. Orientalium, exhibuit et excerpta in opere: *Fundgruben des Orients* T. IV. p. 325—29 publici juris fecit, quem successor in munere secundus b. m. *Car. Theod. Johannsen* castigavit ejusque editionem auspiciis regis b. m. *Frederici VI.* a. MDCCCXXXVII paravit. Quod ne prospere eveniret, infirmissima valetudo et mors a. MDCCCXL litteris funesta effecerunt. Jacuit aliquamdiu opus inceptum usque ad tempora regis b. m. *Christiani VIII.* Augustissimi litterarum fautoris, qui consilio quatuor virorum constituto: b. m. *C. F. de Rumohri*, *E. C. Werlauffi*, *J. Olshauseni* in Universitate Kiloniensi LL. Oriental. Professoris, *Joh. Nie. Madvigii*, tunc in Universitate Hafniensi L. Lat. Professoris, catalogos codicum omnium manuscriptorum in bibliotheca regia servatorum edi jussit. Quorum catalogorum prima pars, codices Indicos amplectens, in lucem jam a. MDCCCXLVI. prodiit, quam haec altera pars, praeter descriptionem codicum Hebraicorum ab *Hohlenbergo* relictam codices Arabicos continens, studiis assiduis cl. *Olshauseni* denuo castigata et ea ratione tractata, quam status hodiernus litterarum Arabicarum in occidente culturarum postulat, mox secuta esset, nisi

tempora et belli casus humanitatis studiis infaustissimi intervenissent. Septemdecim plagulis typis excusis et a cl. *Olshauseno* emendatis inde ab a. MDCCCXLVIII. usque ad hunc annum opus intermissum est, quum *A. F. Mehren*, in Universitate Hafniensi Lector Litterarum Semiticarum, auctoritate illustrissimi *J. N. Madrigii*, rerum sacrarum et scholasticarum omnium praesidis, permotus ex voluntate praefecti bibliothecae et auctoris opus ad finem perducendum et edendum suscepit.

Quam partem ultima pars catalogi codicum orientalium, quae codices Persicos, Turcicos ceterosque linguarum orientalium nondum descriptos continebit, auspice deo O. M. non longo intervallo temporis interjecto excipiet.

Hafniae. Pridie Idus Septemb. a. MDCCCLI.

Conspectus Argumenti.

I. Codices Hebraici. Pag. 1—31.

- I.-XXVIII. Codices vetus testamentum vel partes v. testamenti continentes.
- XXIX. Epistola ad Hebraeos in linguam Hebr. translata.
- XXX. Machsor.
- XXXI. Id.
- XXXII. Preces, benedictiones, etc.
- XXXIII. Midrasch in Threnos.
- XXXIV. Observationes criticae et grammaticae.
- XXXV. Commentarius in quinque Megilloth.
- XXXVI. Tria opuscula Aben Esrae: epistola poëtica de sabbatho, libellus de nomine tetragrammato, area sapientiae et hortus cogitationis.
- XXXVII. R. Mosis Majemonidae Doctor perplexorum.
- XXXVIII. R. Mosis Mikkotzi Libri praeceptorum magni pars.
- XXXIX. R. Josephi fil. Gekatiljae portae lucis.
- XL. R. Jacobi fil. Ascher libri Joreh de'ah pars.
- XLI. R. Samuelis fil. Se'adjah comment. super comment. Aben Esrae in Pentateuchum.
- XLII. Spicilegium explicationum ad R. Salomonis commentarium in Pentateuchum.
- XLIII. Liber cabbalisticus "Arbor vitae," Isaaci Loriae.
- XLIV. Carmen egregium secundum nomina filiorum hominis auct. Mose Zachuth.
- XLV. Jacobi fil. Ruben narratio de Judaeo Salman ben Wolf.
- XLVI. Instrumentorum et formularum exemplaria.

II. Codices Arabici.

- I.-XLIII. et CCCVIII. 1) *Corani, corani partes, fragmenta.* Pag. 35—44.
- 2) *De interpretatione Corani.* Pag. 44—46.
- XLIV. Commentarii in coranum fragmenta.
- XLV. 'Iszâm ed-Dini Annotationes ad Beidhâwii comment.
- XLVI. E's-'Sirwânii appendix ad comment. Beidhâwii.
- XLVII. E's-'Satibii comment. in loca difficiliora Corani.
- 3) *Codices preces aut continentes aut spectantes.* Pag. 46—48.
- XLVIII. Tractatus de arcanis invocationis dei.
- XLIX. et L. { el-G'uzûlii commentatio de formulis bene precandi;
Introductio in carmen el-Burde;
Preces variae.
- LI. Preces Ja'hjae e's-'Sirwâni.
- LII. Preces Abd el-Qâdiri el G'ilâni.
- LIII. Rotulus continens preces magicas.
- 4) *De traditione prophetica.* Pag. 48—50.
- LIV. el-Mârdinii Gemma pura.
- LV. el-Baghawii corpus traditionum el Maszâbî'h.
- LVI. Ibn el-Meleki commentarius in corpus traditionum esz-Szaghâni.
- LVII.-VIII. Fragmenta.
- 5) *De doctrina fidei.* Pag. 51.
- LIX. El-Ghazâlii Quadragenarius de principiis religionis.
- LX. Liber de mirabilibus mundi invisibilis.

- 6) *De doctrina officiorum, jurum, morum.* P. 52—56.
- LXI-II. Abū Mu'hammed el-Qairawānii compendium officiorum;
 Comment. Mu'hammedis b. A'ḥmed in poëma didacticum „el-Mur'sid“.
 Comment. in poëma jambicum el-Hebtii.
 Comment. in tractatum 'Aqide es-Senūsii.
 Comment. in carmen astrologicum es-Sūsii el-Merghati.
- LXIII. Fragmentum libri de officiis.
- LXIV. Ibn el-Melcki comment. in Ibn es-Sā'ātii librum de institutionibus juris Mu'hammedani.
- LXV. el-Qudūrii compendium juris.
- LXVI. G'ewābir el-fiqh auct. Ṭāhir b. Islām.
- LXVII. Neg'm ed-dini en-Nesefi poëma jambicum de quaestionibus juridicis controversis.
- LXVIII-IX. el-Kutbii de virtutibus et vitiis commentarius.
- 7) *De arte homiletica et libri paraenetic.*
 Pag. 56—58.
- LXX. Abū-l-Fereg'i b. el-G'auzi liber de arte homiletica.
- LXXI. } Illuminans corda.
 } Conciones Ibn-Nubbātae.
- 8) *De theologia mystica.* Pag. 58—59.
- LXXII. Commentarius in carmen Mu'hammedis el-'Alemi.
- LXXIII. 'Atā allahi liber: „et-tanwīr fi isqāt et-tedbīr“.
- 9) *De doctrina Druzorum.* Pag. 59.
- LXXIV. Catechismus doctrinae Druzorum.
- 10) *Codices bibliorum versiones continentes.*
 Pag. 60—61.
- LXXV. Pentateuchi versio Arabica.
- LXXVI. Fragmenta duo vet. Testamenti.
- LXXVII. Liber Psalmorum.
- LXXVIII. Fragmentum Psalmorum.
- 11) *Codices theologici christiani.* Pag. 61—63.
- LXXIX. Pharetra christiana catholica.
- LXXX. Catechismus Lutheri minor.
- CCCVIII. Ignatii Loyolae liber exercitationum.
- 12) *Codices Mathematici, Astronomici, Chronologici, Astrologici.* Pag. 63—73.
- LXXXI. Euclidis Elementorum libri V.—XV.
- LXXXII. Liber de arithmetica, geometria, stereometria.
- LXXXIII. Abū-l'ḥuseini esz-Szūfi er-Rāzi liber de stellis fixis.
- LXXXIV. Qādhizādei notae in el-G'aghlminii compendium astronomicum.
- LXXXV. Tabulae multiplicationis ad calculum sexagesimalem pertinentes.
- LXXXVI-VII. Bedr ed-Dini Summa compendiorum de operationibus cum quadrante circulorum ad horizontem parallelorum et tractatus minores similis argumenti.
- LXXXVIII. Ridhwāni Efendi tabulae astronomico-chronologicae.
- LXXXIX. Mu'hammedis Laodiceni tabulae astronomico-chronologicae.
- XC. Mu'hammedis el-Maghribi Ephemerides anni solaris.
- XCI. Abū 'Abd-allahi b. Sa'id es-Sūsī commentarius uberior in carmen suum astrologicum.
- 13) *De Geographia et historia naturali.* Pag. 73—77.
- XCII. Mu'hammedis b. 'Abd-er-Ra'ḥim el-Qaisi compendium de rebus mundi mirabilibus.
- XCIII-V. Ibn el-Werdii compendium geographiae et historiae naturalis.
- XCVI. Mu'hammedis b. Abi Ṭālib Flores selecti de rebus mirandis in terramarique.
- XCVII. Margaritae bene ordinatae auct. aonym.
- XCVIII. Abulfedae Geographia.
- XCIX-C. Jāqūti Mu'g'im el-buldān.
- CI-II. Fragmenta de Nigritia et Africa septentrionali.
- CIII. Descriptio itineris per Africam septentrionalem.
- CIV. Fragmentum descriptionis Hispaniae.
- 14) *De historia animalium.* Pag. 78.
- CV-VI. Ed-Ḍemirīi vita animalium.
- CVII. Aszma'i liber camelorum et liber ovium.
- 15) *De Medicina.* Pag. 78—81.
- CVIII. Mu'hammedis er-Rāzi de sanatione prompta.
- CIX. Ibn el-G'ezzāri Zād el Mosāferi.
- CX. Davidis Antiocheni liber memorialis cordatorum et collectio mirandorum.

- CXI. Quaestiones Schihâbicae.
- CXII-XIII. Ibn G'azlae liber pharmacologicus.
- CXIV. Ibn el-Beitâri tabulae pharmacologicae.
- CXV. Margarita selecta de medicamentis probatis auct. Naszr b. Naszr.
- 16) *De historia.* Pag. 81—104.
- CXVI.-VII. Ibn-Qotaibae Notitiae et origines.
- CXVIII. Excerpta e Mas'ûdii pratis aureis; Excerpta e libro Ibn es-Subkii: classes Schafitarum.
- CXIX. Hamzah Ispahanensis rationarium temporum.
- CXX. { Excerpta e libro: Speculum temporum auct. Abû l-Fereg' Ibn el-G'auzi.
Fragmentum lexicæ geographici ez-Zamachscharii.
- CXXI. Abul-farag'ii compendium historiae dynastiarum.
- CXXII. Abulfedae annales Islamici.
- CXXIII. Excerpta e Prolegomenis hist. Ibn-Chaldûni.
- CXXIV-V. Ibn Schihnae opus histor.
- CXXVI-VII. Schihâb ed-Dini A'hmed el-Maqarri compendium historiarum.
- CXXVIII. Abû l-'Abbâs A'hmed ed-Dimaschqii historiae dynast. et monumenta rerum priorum.
- CXXIX. Excerpta e Nuweiri Encyclopaedia Arab.
- CXXX.-II. Huseini ed-Diârbekri vita Mu'hammedis.
- CXXXIII. ed-Dehebi historia Islamismi. Pars I.
- CXXXIV. Ibn-Challikâni vitae virorum illustrium.
- CXXXV. el-Chutabii compendium historiae chalifarum.
- CXXXVI. es-Sujûtii historia chalifarum.
- CXXXVII. el-Wâqidii expugnatio Mesopotamiae, Armeniae, regni Persici.
- CXXXVIII. el-Muqrii expugnatio oppidi Belnesae.
- CXXXIX. Taqij ed-Dini el-Fâsi historia urbis Mekkae.
- CXL. Quṭb ed-Dini historia expugnationis terrae Jemen.
- CXLI. Ibn er-Rebi'i historia urbis Zebid.
- CXLII. Ibn-Chatîbi historia regni Halebensis.
- CXLIII. es-Sujûtii virtutes templi remotissimi i. e. Hierosolymitani.
- CXLIV.-V. Ibn-Abi-Ilag'alaе Saccharotheca.
- CXLVI. Particula operis Maqrizii: descriptio historica et topographica Aegypti.
- CXLVII. 'Omari b. Jûsuf el Kindi historia Aegypti et tractatus de administratione regni Aegyptiaci auct. 'Abd esz-Szamad.
- CXLVIII. es-Sujûtii historia Aegypti et Cahirae.
- CXLIX. Ibrahimi Ibn Waszif Shah historia Aegypti.
- CL. Margaritae filis junctae de dynastiis Aegypti.
- CLI.-II. Mar'ii historia Aegypti.
- CLIII. Mu'hammedis b. 'Abd el-Mu'ti de dynastiis Aegypti.
- CLIV.-VI. Abû-Schâmei historia principum Nûr ed-Dini et Szalâ'h ed-dini.
- CLVII. Contractus matrimonialis.
- CLVIII. esz-Sziddiqii historia Aegypti, ab Utmanidis expugnatae.
- CLIX. Historia Aegypti ab a. h. 1100—1152. auct. Musztafâ b. Ibrahim.
- CLX. el-Qartâs minus i. e. historia regni Marocani.
- CLXI. Compendium historiae Idrisidarum.
- CLXII. Fragmentum libri de historia Mauritaniae auct. Ibn-Bessân.
- CLXIII. edh-Dhabbi historia virorum illustrium Andalusiae.
- CLXIV. Ibn-Arabschahi oratio finalis historiae Timûri.
- 17) *De Genealogia et Eponomastice.* Pag. 105—106.
- CLXV. Ibn-Dureidi lexicon genealogicum.
- CLXVI. Stemma 'Adnâni et Qa'ltâni.
- CLXVII. es-Sujûtii lib. de nominibus relativis Lubb-el-lubâb.
- 18) *De historia litterarum et bibliographia.* Pag. 106—109.
- CLXVIII. Abu-l-Fereg' el-Iszbahâni libri cantilenarum pars extr.
- CLXIX. 'Imâd ed-dini appendix.
- CLXX. Mu'hammedis el-Mu'hibbi appendix.
- CLXXI. Ibn Abi Uszeibi'ae historia medicorum illustrium.
- CLXXII. Catalogus librorum ex Hag'i-Chalfa excerptus.
- 19) *De Politica.* Pag. 109.
- CLXXIII. Ibn Abi-Rendaqa de administratione rei publicae.
- 20) *De Logica.* Pag. 110.
- CLXXIV. Commentarius in Atir ed-dini Isâghûg'i.

- 21) *Codices Grammatici.* Pag. 110—117.
- CLXXV. el-G'urg'anii centum regentes.
- CLXXVI. Commentarius el-Idhā'h in Zamachscharii el-Mufaszszil.
- CLXXVII. Hasan Pāschae comment. in Mutarrizii Miszbā'h.
- CLXXVIII. Ibn el-'Hāg'ibi Cāfiah, Mutarrizii Miszbā'h, G'urg'anii centum regentes.
- CLXXIX.—Ibn el-'Hāg'ibi Cāfiah et comment. fragmenta.
- CLXXXIII. et Tekūnii annotationes: „el-Fawāid el-'alijet“; comment. Mu'hji ed-dini in 'Husām ed-dini comment. in Atir ed-Dini Isagogen; Quṭb ed-dini comment. in esch-Schemsijje.
- CLXXXIV. Comment. in Ibn el-'Hāg'ibi esch-Schāfia.
- CLXXXV. Ibn-Māliki Alfija.
- CLXXXVI. Comment. in Ibn Māliki Alfjam.
- CLXXXVII. Bedr'ed-dini el-'Aini comment. in dicta probantia.
- CLXXXVIII. Ibrāhimi b. A'hmed el-'Halebi poēma.
- CLXXXIX. esz-Szinbāg'ii Agrumia.
- CXC. Comment. in Agrumiam.
- CXCI. et CCCIX. Merā'h el-arwā'hi, 'Izzi, el-Maqsūd.
- CXCII. Comment. in Merā'h el-arwā'h.
- CXCIII. Dinqūzi comment. in Merā'h.
- CXCIV. Gabrielis Far'hāt grammatica Arab.
- CXCV. Exercitationes grammaticae.
- 22) *Codices Lexicales.* Pag. 117—119.
- CXCVI. G'auharii lexicon Arabicum.
- CXCVII. Particula lexicī G'auharii.
- CXCVIII. Firūzābādii el-Qāmūs.
- CXCIX. A'hmedis b. Mu'hammed el-Maqarri lexicon: „el-Miszbā'h el-munir“.
- 23) *Codices Rhetorici.* Pag. 119—124.
- CC. Et-Teftāzānii el-Mutawwel.
- CCI. Et-Teftāzānii el-Miichtaszar.
- CCII. Ibn el-'Abbāsi commentarius in versus a Qazwinio allegatos.
- CCIII. Sujūtii 'Uqūd el-G'umān.
- CCIV.—V. Ibn 'Ing'gae comment. in Bedi'iah. P. I.—II.
- CCVI. El-Munāwii columna eloquentiae.
- CCVII. Et-Ta'alibi de miraculis eloquentiae et de breviter dictis; sententiae 'Alii b. Abi Tālib.
- CCVIII. Exordia epistolarum et contractuum specimina.
- CCIX. Ibn Zhāfiri „Ex tempore dicta insignia“.
- 24) *Anthologiae et collectiones.* Pag. 124—134.
- CCX. Raudh el-achjār i. e. Prata optimorum.
- CCXI. Excerpta e libro anthologico: rei'hān el-albāb.
- CCXII. Nūr ed-dini anthologia: Kitāb el-Murgisz wel-Mu'trib; pars 'Hamāsae.
- CCXIII. Excerpta e Nuweirii Encyclopaedia.
- CCXIV. Ibn Abi 'Hag'alae anthologia erotica.
- CCXV. Ibn 'Hug'gae Fructus foliorum.
- CCXVI. Ka'bi b. Zuheir poēma in laudem prophetae; collectio carminum; carmen jambicum de historia chalifarum.
- CCXVII. Carmen el-Bāunii, Ibn el-Werdii certatio gladii et calami, Ibn Dureidi carmen Maqsūra.
- CCXVIII. Anthologia Jūnusi.
- CCXIX. Ibn 'Āszimi anthologia.
- CCXX. Quaestiones theologicae Ibn et-Tūsii; Schihāb ed-dini „hortus puerorum“ et „stellae currentes“.
- CCXXI. Diwanus Ibn Chafāgae.
- CCXXII. Diwanus Ibn-'Afif ed-dini et-Tilimsāni.
- CCXXIII. Diwanus Ibn-Sūdūni el-Beschbaghāwi.
- 25) *Codices narrationes et similia continentes.* Pag. 134—140.
- CCXXIV. Consessus el-'Hamadānii.
- CCXXV.—XXVIII. Consessus el-'Haririi.
- CCXXIX.—Ibn Nubbātae commentarius in Ibn-Zeiddūni epistolam.
- CCXXXI. *Mu'hammedis el-Azheri* „Margarita splendens de certatione pontis cum insula“; descriptiones lepidae duae contentionis duarum urbium sanctarum; *Sujūtii* „argumenta dilucida de praeferenda Mekka aut Medina“; *Zamachscharii* en-Nawābigh; *ed-Deuānii* et *Qanālii* tractatus de calamo; *Ibn-'Hug'gae* tractatus de scalpro; *Ibn el-Werdii* et *Ibn Nubbātae* tract. de certatione gladii et calami; Abū 'Hanīfae praecepta.
- CCXXXII. Mu'hammedis b. A'hmed el-Muqri collectio narrationum lepidarum.
- CCXXXIII. Collectio narrationum lepidarum.
- CCXXXIV. Narrationes fabulosae.

- CCXXXV. Abu Bekri el-Wälībii historia Meg'nūni et Leilae.
- CCXXXVI. Historia fabulosa 'Haiqāri; vigiliae in honorem S. virginis et hymni.
- 26) *Codices Poëticae*. Pag. 140—160.
- CCXXXVII. Abū-Temmāni 'Hamāsa.
- CCXXXVIII. — VIII.
- CCXXXIX. El-Bu'hterīi 'Hamāsa posterior.
- CCXL. Diwānus Hudeilitarum cum commentario es-Sukkariī.
- CCXLI. Septem Mo'allaqāt.
- CCXLII. Tantarānii carmen; el-Burde; carmen Taqijj ed-dini es-Subki; Ka'abi b. Zuheir carmen; Surata psalterii; Qasidah el-Munfarig'ah; poëma el-Bustii; poëma theologicum Amāli; poëmata 'Alii b. Abi Tālib; Szafijj ed-dini el-'Hilli el-Bedi'ijah.
- CCXLIII. Anthologia poëtica.
- CCXLIV. Diwanus Ibn el-'Alifi.
- CCXLV. — VII. Collectanea poëtica.
- CCXLVIII. Carmina Imru-l-Qaisi; Epicedia vetusta ex recensione Ibn el-A'rābii.
- CCXLIX. Sujūtiī commentarius in poëma Ka'abi b. Zuheir.
- CCL. Diwanus G'eriri b. 'Atijja; Schanfarāe poëma: Lāmiat el-'Arab; diwanus Tahmāni b. 'Amr.
- CCLI.—LII. Diwanus Ibn el-Mu'tazzi.
- CCLIII. Ibn Dureidi carmen Maqszūrah.
- CCLIV. Diwanus Mutanabbii.
- CCLV. Id. cum commentario Wā'hidiī.
- CCLVI.—IX. Diwanus Mutanabbii.
- CCLX. Anthologia e carminibus Ibn el-'Ilag'g'āg'i.
- CCLXI.—XII. Abū-l-'Alāi Siqt uz-Zendi cum comment. Tebrizii.
- CCLXIII. Esz-Szafedii commentarius in Tughrāi poëma „Lāmiat-el-'Ag'em“.
- CCLXIV. Diwanus Ibn el-Chajjāti.
- CCLXV. — el-Arrag'ānii.
- CCLXVI. — Abū-l-'Hasani 'Umāre el-Jemeni.
- CCLXVII. Diwanus Ibn en-Nebihī.
- CCLXVIII.—XIX. — 'Omari Ibn-el-Fāridhī.
- CCLXX. — Zuheiri Behā ed-din.
- CCLXXI. Mu'hammedis b. Abi Bekr poëmata in laudem prophetāe: el-Witriāt.
- CCLXXII. Commentarius Scheichzādej in carmen el-Burdeh.
- CCLXXIII.—IV. Carmen el-Burdeh.
- CCLXXV. Diwanus Szafijj ed-dini el-'Hilli.
- CCLXXVI. El-Chaffāfi poëmata in laudem prophetāe.
- CCLXXVII. Diwanus Mu'hammedis bin Wefā.
- CCLXXVIII. — 'Abd el-Qādiri ed-Dināszī.
- CCLXXIX. — Schihāb ed-dini el-Qusantīni.
- CCLXXX. — Qānszūhi el-Ghauri.
- CCLXXXI. — Mamāi er-Rūmi.
- CCLXXXII. Mu'hammedis Schems-ed-din poëmata in laudem prophetāe.
- CCLXXXIII. Diwanus el-Chafāg'ii.
- CCLXXXIV. — Ibn el-Chalūfi.
- CCLXXXV. — Ibn Meng'ek Bāschae.
- CCLXXXVI. 'Hāzimi Maqszūra cum commentario Mu'hammedis b. A'hmed Granadensis.
- 27) *De Amore et re Venerea*. Pag. 160—162.
- CCLXXXVII. Zein ed-dini Davidis „Fora amantium condicionibus belle expositis ornata“.
- CCLXXXVIII. Et-Teg'ānii tu'hfet el-'Arūs i. e. domus sponsi.
- CCLXXXIX. En-Nefzāwii „hortus fragrans de deliciis animi“.
- CCXC.—I. Afflictio querentis et lacrima flentis auct. esz-Szafedi.
- CCXCII. Et-Taifāschii Nuzhatel-albāb i. e. 'oblectamentum cordium.
- 28) *De Arte Physiognomica et Oneirocritice*. Pag. 162—163.
- CCXCIII.—IV. Esz-Szafedii liber de naevis.
- CCXCV. Fragmentum libri de oneirocritice.
- 29) *Codices varii argumenti*. Pag. 163—166.
- CCXCVI. 'Izz ed-dini Exhortatio fidelium ad habitandam Syriam.
- CCXCVII. Esz-Szafedii liber de lacrimis.
- CCXCVIII. Ibn Quteibae et Ibn el-Mu'tazzi libri de potulentis.
- CCXCIX. Mu'hammedis en-Nawwāg'ii 'Halabat el-Kumeit i. e. hippodromus equi fuscī.
- CCC. Collectio litterarum.
- CCCI.—II. Precationes, formulae talismanicae.
- CCCI. Expeditio Tacritensis 'Alii; fragmenta historiae 'Antari.
- CCCI.—VI. Fragmenta varia.

CODICES HEBRAICI.

I.

(N. 1. in 4to, olim N. 8.)

Codex membranaceus in 4to maj., folia, ut nunc est, 381 habens, in quo continetur *Vetus Testamentum*, quadrato charactere scriptum, cum punctis vocalibus et accentibus et utraque Masora. In priore parte, Lege Prophetisque prioribus, atramentum, quo picta sunt puncta, admodum pallidum est. Ab initio et fine mutilus est codex; incipit enim Gen. 22, 9. verbis **וְעַתָּה הֲשִׁיבָה נָא אֶת־עֵינַי**, et desinit Neh. 13, 17. verbis **וְעַתָּה הֲשִׁיבָה נָא אֶת־עֵינַי**; præterea lacunæ sunt inter 1 Regg. 6, 19. extr. et 8, 34. vv. **וְעַתָּה הֲשִׁיבָה נָא אֶת־עֵינַי**; inter Dan. 4, 20. vv. **וְעַתָּה הֲשִׁיבָה נָא אֶת־עֵינַי** et 5, 28. vv. **וְעַתָּה הֲשִׁיבָה נָא אֶת־עֵינַי**; inter Est. 5, 3. vv. **וְעַתָּה הֲשִׁיבָה נָא אֶת־עֵינַי** et 8, 32. vv. **וְעַתָּה הֲשִׁיבָה נָא אֶת־עֵינַי**; denique inter Neh. 10, 1. v. **וְעַתָּה הֲשִׁיבָה נָא אֶת־עֵינַי** et 12, 3. init. — Prophetica scripta ordine vulgo recepto exhibentur. Ordo Hagiographorum hic est: Chron., Psalmi, Job., Prov., Ruth, Cant., Eccles., Threni, Esther, Daniel, Esra cum Nehemia. — Textus ternis columnis descriptus est, exceptis libris poeticis, Psalmorum, Jobi et Proverbiorum, qui binas tantum columnas habent: stichometricæ enim, ut fieri solet, licet minus accurate, scripti sunt hi libri, et Jobus quidem ab initio capituli 3. usque ad c. 42, 6. Nonnullis præterea locis textus una columna scriptus est, partim propter exitum librorum — ut fol. 16. v. et 17. r., in quo posteriore terminatur liber Genesis: fol. 89. v. usque ad 93. r. in

fine Deuteronomii a c. 31, 20; fol. 179. v. — 181. r. in fine libri Regum; fol. 275. v. — 277. r. in fine Prophetarum; fol. 319. v. — 320. r. in fine Chronicorum; — partim propter locos poeticos secundum morem receptum stichometricæ scribendos: fol. 24. v. et 25. propter Exod. c. 15, fol. 148. v. — 150. v. propter 2 Sam. c. 22. Canticum etiam Debora, Judd. c. 5, solito more stichice scriptum est. — Singularum Legis *Parascharum* initia eo quo sæpius fieri solet modo, primis literis vocis **פְּתוּחָה** (literis פ, ה et priore parte literæ ש) in margine adscriptis indicata sunt. Notatum est simul, quamam iis *Haphtaræ* respondeant. Item Psalmorum numeri in margine exteriori additi sunt, a prima manu, ut videtur, eodem quo textus atramento scripti. Spatium, quo singuli V. T. libri separantur, diversum est, modo paucarum, modo plurium linearum.

Masora parva solito more inter columnas et in margine exteriori, magna in superiore et inferiore scripta est, illic, ut plerumque fieri solet, binis, hic ternis lineis comprehensa. Frequenter, maxime in margine inferiore, in diversas ornamentorum figuras scripta est, sæpe subtilissime: similiter ea, quæ locos una columna scriptos circumdat. Post absolutas singulas e quattuor majoribus librorum classibus ante se-

quentis classis initium insertæ sunt eius generis observationes et annotationes, quæ sacris libris in codicibus adjici solent: ut post Pentateuchum. a fol. 93. v. usque ad f. 96. r., diversitates lectionum Criticorum Ben Ascher et Ben Naphthali, sine vocalibus scriptæ: numerus versuum, vocum, literarum, Parasellarum in Lege; formæ, quas proprias habet liber Genesis: post Prophetas priores f. 181. v. et 182. r. numerus annorum, quos complectuntur singuli libri prophetici, priores ac posteriores; post Prophetas posteriores f. 277. v. et 278. r. observationes de voce **היה** in diversis libris plene aut defective scripta, item de voce **אלה**: quæ omnia singulis in paginis limbo quadrato includuntur, quo continentur literis majoribus scriptæ observationes de diversis vocum formis obviis. Extra limbum in fine prophetarum posteriorum alia quaedam adduntur, ut exempla vocum per totum alphabetum, quibus **ה** interrog. præfixum est; voces semel tantum certa quadam forma occurrentes, alphabetica recensio locorum, in quibus particula **ה** et **ע** cum iisdem vocibus usurpantur, et alia. Similia etiam scripta sunt in fine codicis fol. 381. r. col. 1; cuius folii ultimi pagina versa nihil habet.

Quattuor in locis adscripta reperitur temporis definitio, eadem ubique et eodem fere modo expressa; primum fol. 96. r. infra observationes hic exhibitas et intra limbum, quo circumdantur, ita scriptum est:

וְרַסְיָאֵי הַיָּמִים הַזֵּה לְיַצְרָחָהּ : אֲשֵׁרֵי הַיָּמִים :

similiter fol. 182. r.:

וְרַסְיָאֵי הַיָּמִים הַזֵּה לְיַצְרָחָהּ : וְרַסְיָאֵי הַיָּמִים עֲוֹנֵי :

deinde f. 278. r.:

וְרַסְיָאֵי הַיָּמִים הַזֵּה לְיַצְרָחָהּ : וְרַסְיָאֵי הַיָּמִים עֲוֹנֵי :

denique f. 310. r. post absolutum librum Chronicorum:

וְרַסְיָאֵי הַיָּמִים הַזֵּה לְיַצְרָחָהּ : אֲשֵׁרֵי הַיָּמִים :

Anno igitur post mundum conditum 5011. p. C. n. 1251, codex scriptus esse perhibetur.

Apparet autem, hæc addita esse ab alia manu.

In catalogo codicum, qui in usum operis *Kemnicottiani* adhibiti sunt, quemque exhibet auctoris *Dissertatio generalis in Vetus Testamentum hebraicum*, hic recensetur sub num. 173. A C. Niebuhrus eum allatum esse, docet Catalogus Bibliothecæ Regiæ antiquus.

II.

(N. 1. in fol., olim N. 2.)

Codex membranaceus in folio, foliorum 523. *Vetus Testamentum* continens, caractere quadrato satis eleganter et accurate scriptum.

Loco tituli fol. 1. r. hæc scripta sunt, quibus ad loc. Jos. 1, 8. respicitur:

לֹא יִמּוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִיּוֹד וְיֹאדָהָהּ
בּוֹ יִמּוּשׁ וְלִילָלָהּ לְמִקֵּץ אֲשֵׁמֶר
לְעֶשְׂרֵת כִּסְלֵי הַחֳדָשִׁים
בּוֹ כִּי אֵין אֲצִילָהּ
אֵת דְּרָבִי הַזֶּה
אֲשֵׁרֵי
אֲשֵׁרֵי
אֵין וְדָרְשִׁי וְדָרְשִׁי דָרְשִׁי מִתּוֹרָהּ
וְעַד עֵילָם
ס' א' א'

Deinde ante ipsum sacrum textum exhibentur variae annotationes et observationes criticæ in Veteris Testamenti libros; primum fol. 1. v. sqq. variae lectiones Criticorum Ben Ascher et Ben Naphthali, sine vocalibus et accentibus scriptæ; tum observationes in Pentateuchum singulosque eius libros, quæ iisdem vulgo subijci solent, de numero versuum, vocum, literarum, sectionum, quæ in eo continentur, de loco medio librorum, de numero annorum, quorum historia in Legis libris continetur, de vocibus certa quadam forma in

iisdem obviis aut non obviis cet.; enarratio vocum, quæ conjunctæ sæpius occurrunt in Pentateucho cum aliqua diversitate, fol. 2. v. sqq.; deinde discrepantiæ nominum propriorum in genealogia libri Genesis et primi libri Chronicorum, fol. 4. r.; computatio numeri annorum, quos complectitur historia in libris Josuæ, Judicum, Samuelis, Regum, Jesaïæ, Jeremiæ, Ezechielis et duodecim Prophetarum (sive libri Hoseæ, ut vocatur: ספר הושע הוא ספר שנים (כשר נביאים), cum indicatione eorum, qui libros propheticos et hagiographos scripserint*), fol. 4. r. extr. sq.; recensio vocum vel constructionum, quæ in uno libro aliter quam in reliquis V. T. libris occurrunt, fol. 4. v. sqq.; recensio octodecim locorum, qui a scribis mutati sunt (תקן ספרים), f. 5. v.; carmen, quo præstantia legis celebratur, סדר סוד התורה inscriptum, ibid.; dissertatio de Keri et Kethib, סדר סוד התורה inscripta, fol. 5. v. sq.; recensio eorum, quæ scripta sunt, sed non legenda, סדר סוד התורה, f. 6. r.; de literis cum aliis permutatis, סדר סוד התורה, f. 6. v.; voces, quæ semel paenacutæ, גלגל, occurrunt, alias semper acute, גלגל, ibid.; voces, quæ semel scriptæ sunt plene cum Vav quiescente, quum alias semper defective scribantur, f. 7. r.; voces, in quibus deest litera s. in Lege, Prophetis et Hagiographis, ibid.; octo voces, quæ semel cum masculino, semel cum feminino suffixo occurrunt, ibid.; recensio locorum 131, in quibus nomen אדי sine Vav scriptum est, f. 7. r. sq.; de voce אית in variis libris modo cum Vav, modo sine eo scripta, fol. 8. r.; de voce אית aut cum Jod aut sine eo scripta, fol. 8. v.; de voce אית aut cum Vav aut sine eo scripta, ibid.; recensio locorum 39, in quibus verborum ordo a vulgari diversus est, quum vox alteri secundum vulgarem usum præponenda eidem postponitur, f. 9. r.; recensio

locorum, in quibus vocales Pathach et Segol non mutatae sunt in Kamez, quamquam adest accentus Silluk aut Athnach, ibid.; recensio alphabetica vocum quarundam, quæ vel scriptione vel sono æquivocæ sunt, f. 9. v.; index vocum 44, quæ scriptæ sunt per ך, legendæ vero per ך in fine vocis, f. 10. r.; vox ך bis, ך semel in V. T. obvia. Omnia hæc a fol. 1. v. usque ad f. 10. r. incl. elegantissime ita scripta sunt, ut per columnas pictis interstitiis distinctas, aut quattuor, ut fol. 1. v. 2. r. v. et 3. r., aut tres, ut f. 3. v. 4, 5 et 6, 7. r., 8. v., 9. et 10. r., aut duas, ut f. 7. v. 8. r., distributa sint, atque limbo ambiente varie picto inclusa, circum quem scripti sunt varii loci biblici, in quibus celebratur lex et commendatur legis pietatisque studium.

Sequuntur f. 10. v. et 11. r. observationes similis generis ac præcedentes, de locis, in quibus scriptum est Jod nec tamen legitur, de voce אדי sine Vav obvia, ita autem scriptæ, ut paginæ, singulæ quidem diverso modo, in plures rhombos literis circumscriptos divisæ sint. Prior harum paginarum eodem præterea modo, quo præcedentes, locos biblicos circumscriptos habet.

In duabus paginis sequentibus, fol. 11. v. et 12. r., exhibentur picture plures rerum sacrarum, arcæ foederis, candelabri aurei, mensæ panum propositionis, vasculi Mannæ et baculi Aaronis, — altaris ænei, altaris suffimenti, tubarum, aliarumque rerum ad sacros usus pertinentium.*)

Denique fol. 12. v. additur recensio Haph-tararum, qui quidem neque cum ordine inter Hispanienses Judæos recepto neque cum Germanicianorum usu perfecte convenit, magis tamen cum illo.

*) Cf. ad cod. III.

*) Similia, nisi forte eadem, in aliis quoque codd. reperiuntur; cf. e. gr. cod. bibliothecæ cl. *De-Rossii* no. 782.

Post albam paginam priorem fol. 13. r. sequitur a pagina eiusdem folii versa usque ad f. 520. v. ipse sacrorum librorum textus, binis columnis in quavis pagina scriptus, cum punctis vocalibus et accentibus nigriore atramento quam ipsæ literæ adscriptis, addita Masora magna et parva, hac in margine interiore et exteriori, illa in superiore et inferiore: superior margo binas lineas habet, ternas inferior; nonnullis in locis, ubi hoc linearum numero Masora capi non posset, reliqua in varias figuras protracta sunt. — Locus Numer. 7. 25—77. (ad voc. בני) puncta vocalia addita non habet, exceptis vv. 30. 36. 42. 48. 54. 60. 66. 72. et posteriore parte eorum versuum, qui hos proxime præcedunt; accentus autem adsunt. Initia Parascharum solito more in margine notata sunt: cf. ad cod. I. Singuli quum Legis libri tum ceteri quattuor linearum spatio separantur; minores autem Prophetæ, qui conjunctim unum tantum librum efficiunt, unius modo aut duarum linearum. — Ordo Prophetarum vulgaris est; Hagiographorum hic: Psalmi, Job., Prov., Ruth, Eccles., Cant., Threni, Esther, Daniel, Esra (qui cum Nehemia unum librum facit, sine ullo inter utrumque interstilio), Chronica. Tres libri poetici, exceptis Jobi capp. 1. 2. et c. 42, 7—fin., more consueto scripti sunt stichometricæ. Additi sunt a prima manu psalmorum numeri.

Post absolutum librum integrum sequentia a scriptore eius fol. 521. r. addita et picto limbo inclusa sunt, quibus in suum usum se hunc librum Legis, Prophetarum et Scriptorum in uno volumine conscripsisse, et mense Tammuz anni post mundum conditum 5061. qui æræ christianæ est ann. 1301, absolvisse testatur. bona pro se et posteris suis vota addens, locum autem, in quo nomina ipsius et patris eius scribenda erant, vacuum relinquens:

אני א

דעל
 כתבתי זה הספר לעצמי
 וסדרתי בו תורה נבואים
 וכתובים כדרך אהרן
 ישיבתו מהדש תמיד שנה
 תמימה אלפים ישימים
 ואהרן לברואת עולמי
 הנקיים ברחמי יקיים בו
 ובהצני וברצו זרעו נקרא
 שפתיים לא ימוש ספר
 התורה הזה כדרך לטען ל
 תשנה לעשות ככל הכתוב
 בו כי אז תצליח את דרכך
 וזו השביל: ועוד כתיב בני
 תרדתי אל השביל ומצאתי
 יצור לבך: כי ארך ימים
 ושנות חיובו שלום וחסדו לקי
 אמן אמן אמן

His verbis observationes masorethicae cum ornamentis pictis adscriptæ sunt.

Postremum, fol. 522. et 523. r., additum est calendarium Judaicum, quo sub titulo סדר קבוצ החודשים והטענות, *ordo fixus mensium et festorum*, indicatur, ad quodnam annorum genus pertineant anni cum simplices tum intercalares, ab anno 5062 (p. C. n. 1302) usque ad 5108 (p. C. n. 1348), et quattuor deinde tabulis ostenditur, in quoniam hebdomadis mensisque diem annis, qui notantur signis ב'הג, ב'שה, ב'בה, et ב'הב*), incidant dies sacri festique.

In catalogo *Kennicottiano* hic codex commemoratur sub num. 178.

III. IV.

(N. 2. 3. in fol., olim N. 5. 6.)

Codex membranaceus in forma folii minoris, duobus voluminibus constans, quorum prius folia

*) De quibus cf. Bartolocci Bibliotheca Rabbin. P. II. p. 415. sqq.

219. alterum 232 habet, totum *Vetus Testamentum* continens, elegantissime scriptum, cum vocalibus et accentibus et utraque Masora. Vocalibus, ut sæpius, caret locus Num. 7. 19. (a voc. קָדֵשׁ) usque ad v. 83. (vocc. בְּנֵי שֵׁנָה הַמִּשְׁחָה), exceptis primis versibus et posteriore parte postremorum versuum in singulis eius sectionibus (cf. ad cod. II.); accentus autem adscripti sunt. — Tomus prior continet Pentateuchum et Prophetas priores, alter Prophetas posteriores ordine recepto et Hagiographa, quorum ordo hic est: Chron., Psalmi, Jobus, Proverbia, Ruth. Cant., Eccles., Threni, Esther, Daniel, Esra, Nehemia. Textus, si paucos locos poeticos excipias, binis columnis descriptus est: tres libri מֵסָדִים stichometricæ. Interstitio modo duarum, sæpius trium, nonnunquam plurium linearum separantur singuli Scripturæ libri; Prophetæ minores trium; inter Esræ et Nehemiæ libros relictum est unius lineæ spatium. — Paraschæ Legis nullo interstitio separate sunt. Initia earum solito more in margine notata sunt (cf. ad cod. I.) a prima manu; item Psalmorum numeri. Atramento autem multo nigriore et serius, ut apparet, plerisque libris præscripti sunt tituli vulgo usurpati et in margine notati capitum numeri secundum receptam divisionem.

Ipsæ sacer textus incipit demum Tom. 1. fol. 13. v.; in præcedentibus, a fol. 1. v. — prima enim pagina codicis nihil inscriptum habet — usque ad f. 12. v. incl. variæ exhibentur annotationes et observationes, quales Bibliorum libris in codicibus addi solent; primum index locuples vocum, quæ in Lege plene aut defective quoad literas ו et י scriptæ sunt, secundum singulas paraschas ordine dispositus, f. 1. v. — 8. v.; deinde præcepta de pericopis Scripturæ, quum ex Lege tum e Prophetis, quæ in festis diebus per totum annum in conventibus sacris recitandæ sint, f. 8. v. — 11. v.; computatio temporis spatii, quod amplectuntur

libri Legis, Josuæ, Judicum, Samuelis, Regum, Jesaia, Jeremiæ, Ezechielis, Hoseæ, (i. e. duodecim Prophetarum, cf. ad cod. II.) Chronicorum et Esræ, f. 11. v. sq.; traditio de viris, qui Veteris Testamenti libros scripserint*) (cf. cod. II. in quo eadem habentur); denique paucae e lectionum diversitatibus inter Criticos Ben Ascher et Ben Naphthali, f. 12. v. Hæc omnia ternis columnis descripta sunt et limbo quadrato majoribus literis exarato cineta, quo partim, in prioribus et postremis foliis, observationes traduntur de vocibus et formis a vulgari usu discedentibus, maxime ad vocales et accentus pertinentes, initio rhythmicè compositæ, partim commendatur lex legisque et Scripturarum linguæque studium. In duabus primis paginis additus est exterior limbus, minusculis literis scriptus, quo, verbis magnam partem iisdem atque in illo, inculcatur gravitas et necessitas studii Scripturis impendendi. Similiter post absolutum Pentateuchum, fol. 124. r. et v., et post absolutos Prophetas priores, fol. 219. r. et v., quod postremum est tomi prioris, observationes masorethicæ traditæ sunt, binis columnis scriptæ et limbis cinetæ; in fol. 124. v. exhibentur variæ lectiones Criticorum B. Ascher et B. Naphthali, adscriptis punctis. — Foll. 13. r. et 125. r. nihil inscriptum habent. — Tomi posterioris octo folia ultima, 225. v. usque ad 232. v. observationes diversi generis, ternis columnis

*) Scilicet: *Mosen* scripsisse quinque libros Legis et Jobum, *Josuan* suum librum et octo versus in Lege (a verbis וְיָמֵי שֵׁשׁ מִשְׁחָה usque ad וְיָמֵי בְּלִי שֵׁשׁ־אֶלֶף Dent. 34, 5—12). *Samuelem* suum librum, *Judices* et *Ruth*, *Davidem* et *duodecim Seniores* Psalmos, *Jesaiam* suum librum, *Proverbia*, *Cant.* *Cantic.* et *Ecclesiasten*, *Jeremiam* suum librum et *libr. Regum* et *Threnos*, *ciros Synagogæ magnæ* *Ezechielem*, *duodecim Prophetas* et *Danielem*, *Esræ* suum librum et *Chronica*.

scriptas, offerunt, ut de usu accentuum: de vocibus בן, אט, כל, cum diversis vocalibus occurrentibus; de accentuatione librorum אֲזַח; de vocibus, quæ semel oxytonæ, alias semper paroxytonæ sunt; indicem alphabeticum variarum lectionum, quæ in locis parallelis occurrunt; indicem alphabeticum vocum, quæ in eadem forma semel cum præf. ׀ et semel cum ׀ occurrunt; de pronom. ׀ aut cum ׀ aut cum ׀ scripto; de diversitate scribarum in iisdem vocibus aut cum ׀ aut cum ׀ efferendis; de singularibus lectionibus R. Pinechasi; de duabus vocibus legendis, quum una tantum scripta sit (ut בגד — בא Gen. 30, 11.) et vice versa; nomina accentuum, exempla locorum, in quibus occurrunt, et regulas de eorum usu; de literis singulari modo scriptis; indicem alphabeticum vocum, quæ scriptæ sunt cum ׀ in media voce, quum legendum sit ׀, et vice versa; recensionem vocum, in quibus pron. suff. secundæ personæ scriptum est כה: voces semel cum ׀ et semel cum ׀ in fine occurrentes; alias semel cum ׀ et semel cum ׀ in fine; voces punctis extraordinariis notatas: voces non scriptas, sed legendas, et vice versa; et quæ cetera huius generis sunt. Limbo, quo cinguntur hæc omnia, continuatæ sunt observationes de vocalisatione vocum quarundam a communi recedente.

Masora, quæ textui librorum in marginibus addita est, in margine superiore, ut fieri solet, binis, in inferiore ternis lineis, præterea in margine exteriori et interiori et plerumque etiam inter columnas una linea verticali, pulcherrime et accurate scripta est simplicique modo sine figuris et ornamentis, duabus tantum primis Pentateuchi paginis exceptis, Tom. 1. f. 13. v. et 14. r. In folio autem 101. r. tomii posterioris, inter finem Prophetarum f. 100. v. et initium Chronic. f. 101. v., ad observationes scribendas adhibita est circuli figura, in sectiones divisa. Atque eodem modo fol. 221. v., post absolutam ipsorum librorum sacrorum

scriptionem, appinguntur observationes de usu accentuum.

Fol. 222. r. scriptor codicis nomen suum, patriam et ætatem indicavit, laudes simul addens ejus viri, in cujus gratiam librum scripsit, et pias pro eo et posteris ejus preces; sed ex iis, quæ scripta fuerunt, septem lineæ in media fere pagina erasæ sunt. Quæ supersunt, hic habes:

אני יצחק פראנקן הסופר כתבתי זה
הספר הנזכר אמרו שזה ארבעה ועשרים
בעזרת האל ויצר כל היצורים תורה וברא
ובתוכם יצלה חן אולה אהבים וכתבתיו
לאיש המנוחה הנדובר בו וכבודו ביהם
ובתורתו לו עשר ידות דברה משורשי
הנהגה השדים והשמים יצרו נאה ויהי
. . . (septem lineæ erasæ) . . .
הנצבה האל ויבנה להנהגה בו הוא וכל
הדעו ויקים בו לזה יוצר ספר התורה
הזוהר מפיך וגו' הנחה בעיה שאן ש'
פיליפוס מלכות קאשטיליא שנת
בן יצחק ישראל לפרט היצירה מהאסף
השני

Apparet igitur, codicem scriptum esse a quodam *Isaaco Franco*, in urbe *Sancti Felicis regni Castiliae*, anno p. m. c. 5222, i. e. æræ Chr. 1462: quod quin ita se habeat, non est cur dubitemus. Scriptum esse codicem in usum *Josephi* ejusdam, colligi inde potest, quod in limbo ambiente hujus paginae et præcedentis aureis literis nitidissime scripti sunt loci biblici, quibus *Josepho* benedicitur, et in priore quidem pagina *Deut. 33, 17.* et *Gen. 49, 24.*, in sequente *Gen. 49, 22, 25, 26.* usque ad voc. ׀ incl.; reliquis locus non sufficit. Duæ hæc paginae præterea elegantissime ornatae sunt.

Pagina, quæ deinde sequitur, fol. 222. v., nihil habet. In quinque autem sequentibus, f. 223. r. — 225. r. incl. traditur *Historia Antiochi* hebraice, eadem, quæ in *Bartoloccii Bibl. Rabb. Tom. 1. p. 353. sqq.* exhibita est, sed

in pluribus lectionibus ab huius textu nonnihil recedens, quasi alia versio eiusdem archetypi chaldaici.*) Punctis vocalibus instructa est, sed ad leges grammaticæ hebraicæ parum accurate positis. Exitus huius historiæ hic est: האל אשר עשה עמהם נסים ונפלאות ותהן שינאיהם בידם והמשילם עליהם: הוא ירחם עלינו ויצילנו מעבודת לחירות וירם קרנינו על כל שנאינו ויקיים לנו יהוה אלהינו קרא דכתי' מה נאור על ההרים הגלג' מבשר וגו' ונאמ' יוסף יהוה עליכם ככם אלף פעמים. Postrema, e Deut. 1, 11. petita, sine vocalibus scripta sunt.

Ad calcem ultimæ paginæ hæc verba scripta sunt: *reuisus per me Laurentium Franguellu'* 1575; et inferius, quantum e scriptura parum perspicua et admodum pallida apparet, *visto p. mi fr. Bernardo Modæ*. 1626.

Inter codices *Kennicottianos* hic recensetur sub num. 175. Inter *Niebuhrianos* eum refert catalogus Bibliothecæ Regiæ antiquus.

V.

(N. 2. in 4to, olim N. 9.)

Codex membranaceus in 4to maj., foliorum 363, *Vetus Testamentum* continens, quadrato caractere scriptum, cum punctis vocalibus et accentibus et utraque Masora. Textus ternis columnis scriptus est, exceptis libris Psalmorum, Proverbiorum et Jobi 3, 1 — 42, 6., qui una columna stichometricè scripti sunt, itemque poeticis illis locis in historicis libris, qui suo modo scribi solent. Locus Num. 7, 19. (קשרה מ) usque ad v. 83., exceptis quæ excipi solent (cf. ad cod. II. et III. IV.).

*) Cf. Catal. Mss. Bibl. Senat. Lips. pag. 275. — *Historia Antiochi seu Volumen Ant.* codicibus bibliicis sæpius additum reperitur, tum hebraice, tum chaldaice; cf. e. c. cod. *Kenic.* 374. 578. 599. 613. all. *De Rossi* cod. 418. 850. all.

vocalibus punctis et accentibus caret. Prophetarum ordo a vulgari non recedit. Ordo Hagiographorum hic est: Psalmi, Prov., Jobus, Daniel. Ruth. Cant. Thr., Esther. Eccles., Esra cum Nehemia, Chron. Singulorum librorum aut voces initiales, ut in libb. Levit., Judd., Sam., Regum, Jes., Jer., Ezech., et omnibus Hagiographis, aut tituli vulgo usurpati librisque premissi, ut in lib. Josuæ et Prophetis minoribus, item vocabulum ספר Deuteronomio premissum, aureis literis majoribus picta sunt ornamentisque cincta. Voces etiam initiales cap. 2di, 3ti et 4ti Threnorum, et literæ, quibus initia Parascharum Legis in margine indicantur (cf. ad cod. I.), anro obductæ sunt et ornatae. Psalmi, ut numeri eorum in margine adscripti ostendunt, numerantur modo קמ, ut duo in unum conjuncti fuisse putandi sint; sed quoniam, dici non potest propter lacunam, quam indicabimus. Masora in margine inferiore per totum fere codicem. paucissimis modo paginis exceptis, in diversas figuras, animalium, florum, foliorum aliasve multiplices, descripta est, similesque sæpius offert margo exterior; rarissime autem superior, in quo Masora plerumque simplici modo scripta est duabus lineis aut subinde una tantum.

Codex et initio et fine mutilus est, pluresque lacunas habet; incipit Exod. 25. 33. verbis בַּשְּׁבָעִים בְּקֶטֶד הָאֶזְרָח בְּבֵית יְהוָה; præterea lacuna est inter verba לֹא אֶשֶׁר Lev. 27, 11. et כל יצא אָבָא Num. 1, 36.; inter v. אֶזְרָח Num. 10, 11. et initium cap. 12mi; inter vv. אֶזְרָח וְהָיָה עָלָיו c. 27, 20.; inter Ps. 105. 12. fin. et Ps. 139. (qui in hoc cod est 138vs) v. 12. init.; inter vv. אֶזְרָח וְהָיָה עָלָיו Eccl. 12, 14. et עֵלֶיךָ Esr. 9, 12.; inter אֶזְרָח וְהָיָה עָלָיו 2 Chr. 13, 9. et אֶזְרָח וְהָיָה c. 15, 12.; denique codex desinit verbis אֶזְרָח וְהָיָה עָלָיו 2 Chr. 25, 7.

Ætas codicis pluribus in locis indicari videtur. Post absolutum enim librum Samuelis (secundum), fol. 121. v., in forma rhombi scrip-

tum legitur: בשנת ארבע אלף וחמש מאות וששה ורסי' i. e. anno 4506, qui æræ Christianæ est annus 746; item post absolutum librum Regum (secundum), fol. 154. r. in secunda paginæ columna desinentem. in tertia columna scriptum legitur: בשנת ארבעה אלף וחמש מאות וששה * ורסימן, דהלקבד, et paullo inferius "דשור". Idem annus 4506 præterea ad finem libri Jesaiæ ita significatur: סימן דהלקבד; post librum duodecim Prophetarum per להלקבד; post librum Danielis item per דהלקבד; post librum Threnorum per דשור; denique ad calcem libri Ruth, figuræ sexangulari, quæ ad summam versuum eius indicandam picta est, inscriptæ sunt literæ בוד אל' דהלקבד, quibus eundem illum numerum exprimi (בשנת ד' אלפים ונו) dubitari vix potest. Sed, ut hæc literæ manum seriorem aperte produnt, ita ceteri loci laudati omnes manifestam præse ferunt corruptionem, quum literas modo has modo illas pro aliis erasis scriptas esse appareat; atque accuratius inspicienti dubium vix esse potest, in prioribus duobus locis primitus scriptam fuisse summam versuum in dictis libris contentorum, et post librum quidem Samuelis אלף וחמש מאות וששה, post librum Regum *) אלף וחמש מאות וששים וארבעה; post libros vero Jesaiæ et duodecim prophetarum scriptam extitisse notam יהקק, quæ his libris, ut Threnis quoque et Ecclesiastæ, sæpe additur; post Daniele scriptum fuisse חוקק, quod etiam legitur ad finem libri Estheræ; denique post Threnos lectum antea fuisse השריבד, e v. 21. repetitum; ex quibus omnibus paucarum literarum mutatione numerus iste effici potuit, eoque sine dubio consilio fictus est, ut antiquissimus et antiquitate præstantissimus codex esse videretur. Quamnam autem ætatem vere habeat, aut a quo scriptus sit, affirmari non potest.

*) In formam rhombi summa versuum post libr. Samuelis et Regum scripta reperitur etiam in cod. VIII.

In catalogo *Kennicottiano* hic codex notatur numero 172. Est codex *Niebuhranus*. secundum catalogum Bibliothecæ Regiæ antiquum.

VI.

(N. 3. in 4to, olim N. 10.)

Codex *Veteris Testamenti* membranaceus in 4^{to} min., folia habens 312, literis quadratis minoribus parum eleganter per ternas columnas scriptus; posterior tantum Psalmorum pars, a 117^{mo} inde (fol. 245. r.—248. v.), et poetica pars Jobi (f. 249. v.—256. v.) binis columnis et stichometricè scriptæ sunt; ceteri autem Psalmi et Proverbia non item; poetici loci in historicis libris eo quo scribi solent modo. Nigerrimo atramento adscripta sunt puncta vocalia et accentus. Ad calcem librorum notatus est versuum, quos continent, numerus; paucis in locis, maxime in prophetiis libris, in margine additæ sunt lectiones Masorethicæ (Karjan); ceterum vero Masoram codex non habet. Initia Parascharum Legis solito modo in margine indicantur; item in margine Psalmorum numeri. Ad locos propheticos lectionibus publicis destinatos notatur, ad quasnam Paraschas quosve dies festos pertineant.

Mutilus est codex initio et fine; incipit enim Gen. 2, 7. init. et desinit 2 Chr. 32. 22. verbis סָתַרְיָב מִן־הַיָּד. Videri etiam possit periisse folium unum, in quo scriptus fuerit finis Deuteronomii; postrema enim huius libri verba, post עַד מִן־הַיָּד c. 34, 10., in ipso codice non habentur, sed rabbinicis literis in inferiore parte paginæ fol. 80. v. adscripta sunt; atque inter hoc et fol. 81. est quasi pars reliqua folii abscissi; at plagula tamen, cuius pars hæc habenda esset, justum foliorum numerum habet. Folii 81. pagina prima sine scriptura relicta fuit, Pentateuchum a Prophetis separans. Item inter Prophetas priores et posteriores alba relicta est una pagina, fol.

153. r., et inter Prophetas et Hagiographa prima paginae columna fol. 227. r. — Ceterum alia quaedam, quae in textu scribendo negligentius omissa fuerunt, in margine aut inter columnas adscripta sunt, literis quadratis, fortasse a codicis punctatore. — Psalmorum libris quattuor posterioribus, qui parvo interstitio a praecedentibus separantur, tituli additi sunt quadratis literis maioribus. Seriore autem manu rabbinica singulorum librorum tituli per totum codicem scripti sunt itemque capitum numeri additi secundum vulgarem divisionem. — Ordo Hagiographorum hic est: Ruth, Psalmi, Jobus, Prov., Eccles., Cant., Thr., Daniel, Esther, Esra (cum Nehem.), Chron. Prophetarum ordo vulgaris est.

Quando et a quo scriptus sit codex, nusquam indicatum est.

In catalogo *Kennicottiano* notatur numero 176. *Codex Niebhrianus*, secundum catalogum Bibliothecae Regiae antiquum.

VII—IX.

(N. 4—6. in 4to, olim N. 11.)

Codex Veteris Testamenti membranaceus in 4to, quadrato caractere pulchre et diligenter scriptus, cum punctis vocalibus et accentibus et utraque Masora. Textus librorum ternis columnis descriptus est, exceptis libris מִשְׁנֵה, qui binis columnis et, si prosaicas libri Jobi partes excipias, stichometricè scripti sunt; item poeticis locis, qui suo modo scribi solent: Exod. c. 15, Deut. c. 32, Judd. c. 5, et 2 Sam. c. 22. Vocalibus caret locus Num. 7, 19—83, exceptis tantum iis versibus, qui saepius hoc respectu excipiuntur (cf. codd. II. III. et V.); accentus autem adpositi sunt.

Codex in tres tomos divisus est, qui in una theca asservantur. Primus tomus, folia habens 93, in ff. 4—91, continet Pentateuchum. Prima vox בְּרֵאשִׁית aureis literis picta est ornametoque cineta. Parascharum initia solito modo indicata

sunt: numeros capitum octodecim primorum Genesis serior manus in margine adscripsit. Tomus secundus, foliorum 191, Prophetas priores posterioresque ordine recepto, et post hos Chronicorum librum continet. Duæ huius tomi plagulae male transpositæ sunt: quum ea, quæ foliis, ut nunc sunt, 177—184, constat, antecedenti, fol. 169—176, præponenda fuisset. Tomus tertius folia habet 66, in quorum 64 prioribus cetera Hagiographa hoc ordine continentur: Psalmi, Proverbia, Jobus, Daniel, Esra (cum Nehemia), Ruth, Cant., Thr., Eccles., Esther. In initio autem tomi unum folium deest: fol. I. enim incipit verbis Ps. 10, 14: הַלְלוּ יְהוָה בְּיָמֵי חַיָּתוֹ; quum vero prima, quæ nunc est, plagula integra sit, octo folia complectens, postrema autem tomi secundi plagula nonnisi septem habeat, cum hac conjunctum fuisse videtur folium illud, quod periit, unde colligi potest, eum, qui codicem scripserit, non diversos tomos distinguere voluisse, sed hanc, quæ facta est, divisionem alii cuidam deberi. Ut numeri Psalmorum a prima manu in margine adscripti sunt, ita in libro Jobi quoque singulae personarum loquentium orationes viginti novem numeris, distinctæ et notatæ sunt.

E Pentateuchi libris Exodus et Deuteronomium in suprema parte columnæ incipiunt; Leviticus et Numeri quattuor linearum spatia a praecedentibus separantur. Prophetae priores et e posterioribus maiores trium, minores duarum, Hagiographa plerumque trium linearum spatia separantur. Summa versuum, quos singuli libri continent, nonnunquam ad calcem eorum indicata reperitur, non semper.

Masora magna solito modo scripta est, binis in superiore, ternis in inferiore margine lineis. Plerumque in hoc, et saepe quoque in illo in varias figuras descripta et producta est.

Præter ea, quæ sacrorum librorum textum exhibent, tomus primus ab initio tria folia

habet (f. 1—3.) et ad calcem duo (f. 92, 93.), item tomus tertius ad calcem duo (f. 65, 66.), e quibus fol. 1. tomi primi in priore, f. 92. eiusdem tomi in posteriore, cetera omnia in utraque pagina literis minusculis inscriptos habent psalmos psalmodumque locos, quibus laudes Dei et beneficia eius erga populum Israeliticum prædicantur, sed maximam partem eisdem sapius repetitos, artificioso modo per varias circularum, rhomborum, columnarum aliasve figuras scriptos et inter se connexos, additis etiam auri variorumque colorum ornamentis: quæ figuræ in singulis hisce paginis circumdatæ sunt limbo quadrato eiusdem ubique ambitus, tribus lineis constante, quarum media majoribus, exterior et interior minoribus literis scripta est. quibusque diversæ observationes et regulæ continentur de scriptione, vocalisatione, naturali usu cet. vocabulorum et literarum. Fol. 92. v. tom. 1. media limbi linea scriptum offert locum Deuter. 33, 13—17. a verbis וליוסף אמר usque ad בבור שורר. — Apparet hæc folia, quum partes non efficiant plagularum, quæ ad textum huius codicis scribendum formatæ et adhibitæ sunt, separatim primum exstitisse et codici deinde agglutinata esse; simul autem, quum forma et ambitus eorum, quæ iis inscripta sunt, cum ratione, qua liber ipse scriptus est, accurate conveniat, cum in linem illa conscripta fuisse, ut huic libro adnecterentur. Præterea fol. 91. v. tom. 1^{mi} col. 3. post absolutum librum Deuteronomii, item fol. 90. v. col. 1. ad latus cap. 32^{di} Deut., quod duabus tantum columnis descriptum est, et fol. 64. v. tomi tertii, in fine col. 3^{tiæ} post absolutum librum Estheræ, plures ex iisdem psalmodum locis, quos folia supradicta exhibent, similiter artificioso modo scripta reperiuntur.

Ætatem codicis, cuius certa indicia non adsunt, ad initium sæculi p. Chr. n. sexti falsarius aliquis referre studuit; annum enim iudaicum 4262 (i. e. Chr. 502) fol. 3. r. tomi primi plus una vice indicatum reperimus; quum

enim duarum columnarum, in quarum figuram hic compositi sunt psalmodum loci, parti superiori a manu seriore et deletis ut videtur iis, quæ antea ibi scripti erant, inscriptum est, alteri: $\text{שׁוֹב} \text{ דָּר} \text{ שׁוֹב}$, alteri $\text{שׁוֹב} \text{ דָּר} \text{ שׁוֹב}$; tum in limbi cingentis media linea majusculis literis scripta, plures in literis erasis aut mutatis conspiciuntur manifestæ corruptiones, ad annum illum effluendum factæ; ita superne hoc legitur $\text{בְּשָׁנָה} \text{ דָּר} \text{ בְּקִהְל} \text{ הָהִיא}$ i. e. anno 4262, ubi dubitari non potest, primitus scripta fuisse verba Ps. 40, v. 10.: $\text{בְּשָׁנָה} \text{ דָּר} \text{ בְּקִהְל} \text{ רַב}$; item in parte paginæ inferiore, ubi scriptus fuit locus Prov. 14, 4.: $\text{בְּאֵן} \text{ אֲלֵפִים} \text{ אֲבוֹט} \text{ בַּד}$, duorum vocabulorum ultimorum corruptio facta est, ut esset $\text{אֲלֵפִים} \text{ אַרְבַּעַה}$, et mox, ubi probabile est, scripta fuisse verba $\text{כִּי} \text{ הִמְדָּה} \text{ פֶּן}$ e loco Job. 36, 18., cuius verba $\text{יִסְתַּחַךְ} \text{ בְּסֶפֶק}$ (sic) דְּבַשׁ ; deinde sequuntur, pro illis nunc habetur דְּבַשׁ ; et aliæ præterea corruptiones in eundem linem susceptæ cernuntur.

Paginæ versæ primi folii tomi primi, quæ alba relicta fuerat, inscriptæ deinde sunt literæ donationis, quibus vir quidam *Joseph fil. R. Jakob*, suo testiumque nominibus subscriptis testatur, se hunc codicem viginti quattuor librorum filio suo *Judæ* dono dedisse anno 5252 post creationem mundi (i. e. anno Chr. 1492) in urbe *Tanis*.

Fol. 3. v. priori columnæ pictæ *Davidis* quidam inscriptis, se hunc codicem emisse anno 5520 (1760), sed magna pars huius scripturæ tantum non deleta est; item postremæ tomi primi paginæ, fol. 93., inscripta fuerunt nomina duorum possessorum codicis, sed ea prorsus deleta sunt.

In catalogo *Kennicottiano* hic codex memoratur sub No. 171. Inter *Niebuhrianos* refertur cum catalogo Bibliothecæ Regiæ antiquus.

X.

(N. 4. in fol., olim N. 1.)

Codex membranaceus in folio, folia habens 350. quadratis literis iisdemque majusculis exaratus, cum punctis vocalibus et accentibus, atramento nunc multis in locis admodum pallido adscriptis. Initio mutilus est, et quaedam præterea folia nonnihil lacerata. Continetur in eo: 1) *Pentateuchus*, *hebraice et chaldaice*, ita scriptus, ut singulis versibus hebraicis chaldaici ex Onkelosi paraphrasi subjiciantur. Chaldaico textui accentus parcius adscripti sunt quam hebraico; at minime prorsus desunt. Incipit codex fol. 1. r. verbis Gen. 7, 11. וַיִּבְרָא יְהוָה אֱלֹהִים. Locus Num. 7, 24—83. paraphrasi chaldaica caret, et vv. 32—83. vocalium etiam signis; accentus autem, qui vulgo usurpantur, plerique adscripti sunt. Singulæ legis Paraschæ distinctæ sunt partim majoribus literis, quibus scriptæ sunt voces earum initiales, partim spatio unius duarumve linearum plerumque inter eas relicto. Singuli Pentateuchi libri quattuor aut quinque linearum spatio separantur. Tituli autem nulli omnino adsunt. 2) Finito Deuteronomio fol. 281. r. col. 2. med. adduntur *quinque Megilloth*, *hebraice*, hoc ordine: Canticum canticorum, Ruth, Threni, (ad cuius finem libri repetita sunt e versu 21. cap. 5ti verba: וְיִשְׁמְרוּ אֶת דְּבָרֵי הַסֵּפֶר הַזֶּה.) Ecclesiastes, (post quem notata est summa omnium versuum eius: וְכָל הַסֵּפֶר הַזֶּה.) Esther. 3) Sequuntur deinde fol. 301. r. *Haphtaroth* seu lectiones propheticæ, in sabbathis aliisque diebus festis legendæ, *hebraice*; singulis prænotatum est, ad quosnam dies pertineant, quibusve Paraschis respondeant. Post Haphtaras quinque ad festum Paschatis pertinentes fol. 339. r. inserta est earundem *paraphrasis chaldaica Jonathanis*, præmissis hinc scriptoris verbis: זוֹתוֹת אֲחֵרֵי הַתּוֹרָה שֶׁל הַפְּסוּקוֹת; כַּדָּרִי; simili modo fol. 341. v. inserta est paraphrasis duarum Haphtararum ad festum Pentecostes pertinentium. In ea, quæ circa Haphtaras

receptas obtinet inter Hispanienses et Germanicianos Judæos discrepantia, codex modo cum his modo cum illis facit.

Chaldaicæ paraphrases passim quum in scriptione vocabulorum tum in ipsis vocibus a textu earundem in libris editis expresso nonnihil differunt.

Codex scriptus est binis columnis, exceptis tantum tribus postremis paginis, fol. 349. v. et f. 350. r. et v., in quibus continua linearum scriptio adhibita est, probabiliter quod alioquin membrana ad omnia perlicienda non suffecisset, quod quidem his verbis ad linem ultimæ paginæ, nunc ex parte propemodum deletis, indicare voluisse videtur codicis scriptor: הַפְּסוּקוֹת אֲחֵרֵי שֶׁל תּוֹרַת מֹשֶׁה אֲחֵרֵי בְּסוּף הַסֵּפֶר נִכְתְּבוּ בְּיָדוֹ

A scriptore hic illic quaedam negligentius ommissa fuerunt, quæ in marginibus deinde ab ipso, ut videtur, adscripta sunt. Discrimen literarum majuscularum et minuscularum in certis quibusdam vocibus, atque alia, quæ in scriptione codicum V. T. vulgo observari solent, omnino neglexit.

Quo tempore scriptus sit codex aut a quo, nusquam indicatum reperitur.

Emtus fuit a Frid. Rostgaard Venetiis a. 1699. — In recensu codicum, qui ad opus Kennicottianum examinati fuerunt, hic non memoratur.

XI.

(N. 5. in fol., olim N. 4.)

Codex membranaceus in forma folii maximi, foliorum 290, quadratis literis scriptus, cum punctis vocalibus et accentibus.

Continetur in eo: 1) *Pentateuchus*, *hebraice et chaldaice*, ita scriptus, ut, quemadmodum in cod. X., singulis versibus hebraicis paraphrasis eorum chaldaica Onkelosi subjecta sit, in locis modo poeticis Exod. c. 15. et Deut. c. 32. ad latus textus hebraici in pecu-

liari columna adposita; Chaldaicis accentus non minus adjecti sunt quam Hebraicis. Singulis praeterea legis Paraschis subjectae sunt lectiones propheticae *Haphtaroth*, quae ad illas pertinent, *hebraice*: post Parascham יהי מקץ Gen. 41. 1—41, 17. praeter pericopam e primo libro Regum c. 3, 15. יהי מקץ שלמה additur etiam lectio e Zacharia 2. 14. יהי ושמה, ad festum הנוכה pertinens. — Chaldaica paraphrasis lectiones passim habet a textu eius edito discrepantes. 2) Finito Deuteronomio fol. 225. r. continuo sequuntur *quinque Megilloth*, *hebraice*, hoc ordine: Cant. Canticorum, Ruth, Threni, (repetito ad finem v. 21. cap. 5,) Ecclesiastes, Esther; additurque deinde fol. 238. v. sqq. eorundem librorum *paraphrasis chaldaica* prolixior, hoc ordine: Ruth, Cant., Eccles., Thr., Esther; puncta vocalia hic, ut in reliquo codice, addita sunt: accentus raro. — 3) Denique fol. 280. r. sqq. exhibentur ceterae *Haphtaræ*, in diebus festis singularibus usurpari solitae.

Textus scriptus est ternis columnis aequalibus, exceptis praeter ultimam paginam paucissimis nonnullis, ubi propter initium aut finem libri aut propter poeticos locos exigua scribendi mutatio facta est. — Hebraici textus additam habent utramque Masoram; in superiore et inferiore margine Masora simplici modo scripta est, binis ternisque lineis, ut fieri solet; rarissime ulterius producitur aut in figuras protrahitur. Initia autem singulorum Pentateuchi librorum variis figuris, animalium aliisque, diversimode compositis ornata sunt, quarum formis scriptae continentur observationes masorethicae. Prima etiam vox Cantici cincta est orbe caeruleo, in quo pictae sunt animalium figurae; voces praeterea initiales omnium librorum, Genesi excepta, atque Parascharum et Haphtararum majoribus literis et colore caeruleo pictae sunt, additis nonnunquam ornamentis.

Titulo caret codex. Ad calcem autem eius indicatum est scriptoris nomen. Absoluta

enim fol. 290. r. extr. postrema pericopa prophetica Jes. 66, 1—fin., cum repetitione vers. 23., in fine paginae hae verba majoribus literis adscripta sunt: הוּק נִשָּׂה לְפָנַי מִזֶּה עַתָּה מֹשֶׁה אֵלֶיךָ מִבְּרֵיתְךָ אֵלֶיךָ i. e. *fortis esto Moses scriba ex Ebermannstadt*. Atque alio etiam loco eiusdem viri nomen notatum reperitur; inter illa enim ornamenta, quibus insignitum est Deuteronomii initium, in orbem circa vocem הוּק נִשָּׂה picta sunt verba הוּק נִשָּׂה. In eadem illa pagina, in qua codicis argumentum absolvitur, — fol. enim 290. v. nihil inscriptum habet, — in media pagina, ad utrumque latus textus, qui hic brevioribus lineis, sensim decrecentibus et deinde iterum crescentibus, scriptus est, ab alia manu, ut videtur, hae atatis definitio addita est: שָׁנָה הַזֶּה . . . לַיְצִיְרָה i. e. *anno a mundo condito 5050*; quo tempus scripti codicis indicari vix dubitari potest; quod si vere dictum est, scriptus est anno Christi 1290.

Inter codices a Kennicotto recensitos hic memoratur sub num. 177.

XII.

(N. 1. rotulorum.)

Rotulus, longus pedes 117 et 9 pollices, latus circiter 2 pedes et 3 pollices mensurae danicae, coriis 51 consulis constans. Continet textum *Pentateuchi*, uti in usum Synagogarum scribi solet, eleganter exaratum. Singuli libri Legis exiguo tantum interstitio distincti sunt. Singula coria ternas columnas complectuntur, postremo excepto, quod nonnisi duas habet.

Rotulus more solito munitus est duobus lignis tornatis, et duplici velamento involutus, altero serico, altero vilioze bombycino. Additae sunt fasciae duae, quales offerri solent, quum pueri in synogogam inducuntur, altera elegantior, diversis figuris acu varie pictis ornata, annum pueri natalem 492 (i. e. post Chr. 1732), altera vilior, coloribus picta, annum

504, i. e. 1744, præ se ferens. Quamnam ætatem ipse codex habeat, non apparet; certe non magnam.

XIII.

(N. 6. in fol., olim N. 3.)

Codex membranaceus in folio, foliorum 153, literis quadratis grandioribus elegantissime scriptus; singulæ paginæ duodecim modo lineas habent in una columna. Est codex *Pentateuchi*, cuius autem tot folia desunt, ut vere non nisi fragmenta continere dici possit. Partes Pentateuchi, quæ in eo exhibentur, hæc sunt:

- Gen. 21, 1. *ראמר כאשר דבר* usque ad Gen. 24, 5. *ראמר*
fol. 1—10. incl.
— 30, 42. *העששים* . . . Gen. 33, 5. *וישא* fol.
11—22.
— 37, 19. *הלזה בא* . . . — 41, 28. *אל פרעה אשר*
fol. 23—38.
Exod. 7. 26. *אלו כה אמר* . Exod. 9, 5. *יעשה יהוה*
fol. 39—43.
— 9. 19. *הביתה* . . . — 10, 24. *fin.* fol.
44—49.
— 11, 3. *מאד בארץ* . . . — 12, 51. *בעצם היום*
fol. 50—57.
— 14. 7. *init.* . . . — 14, 27. *משה את ידו*
fol. 58—60.
— 16. 6. *כי יהוה* . . . — 18, 20. *הודעת להם*
fol. 61—69.
— 21. 7. *איש את בתו* . . . — 22, 6. *כסף או כלים*
fol. 70—73.
— 23. 15. *המצות השמר* . . . — 28, 21. *והאבות*
fol. 74—93.
Lev. 2, 5. *init.* Lev. 3, 5. *בני אתחן המל'*
fol. 94—95.
— 4. 10. *על מזבח* . . . — 6, 5. *עליו העלה*
fol. 96—103.
— 8, 13. *כאשר צוה* . . . — 10, 12. *אתחמר בניו*
fol. 104—111.
— 13. 3. *לבן ומראה* . . . — 19, 24. *כל פדיו קדש*
fol. 112—143.

- Lev. 23, 42. *בסבת* (in fine vers.). . Lev. 25. 38 *fin.* fol.
144—151.
Num. 12, 3. *עני מאד* Num. 12, 11. *ויאמרו*
fol. 152.
— 13, 31. *העם כיהוק* . . . — 14, 5. *פניהם לפני*
fol. 153.

Puncta vocalia cum accentibus non adscripta sunt nisi duobus in locis: 1) in uno folio 78vo, quod exhibet peric. Exod. 24, 12. *וְהָיָה אִשׁוֹרָה וְאִשְׁרָה* usque ad 25, 2. *בְּלִי אִשׁ*; 2) in quattuor paginis fol. 129. v. 130. et 131. r., quæ complectuntur partem Levitici. a verbis *אֲהַיֶּיךָ בְּלֵא* cap. 15. 25. usque ad c. 16. 6. *אֲהַיֶּיךָ*. — Neque adest Masora, sed lineæ ei destinatæ more solito ductæ sunt.

Hic codex emtus fuit a Frid. Rostgaard Venetiis 1699.

XIV.

(N. 7. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 30. in 4to.)

Codex membranaceus in 4to, foliorum 350, continens *Genesisin*, fol. 1. r.—164. v., et *Exodum* fol. 165. r.—301. v., cum *paraphrasi chaldaica Onkelosi*; *lectiones propheticas*, fol. 302. r. — 342. r.; denique *librum Estheræ* fol. 342. v. usque ad finem codicis. Desunt autem in his nonnulla: unum folium inter ff. 283. et 284., quorum prius terminatur verbis *הַתְּרַוּתָהּ אִשְׁרָה* Exod. 36, 3., posterius incipit verbis *הַתְּרַוּתָהּ אִשְׁרָה* eiusd. cap. v. 10, pariterque eiusdem plagulæ folium, quod illi respondet, inter ff. 289. et 290., inter vv. *עֲבַדָה יְהוָה* Ex. 37, 27. et *עֲבַדָה יְהוָה* 38, 7; praeterea quattuor folia inter f. 349. et 350., inter verba *וְהָיָה עֲבַדָה יְהוָה* Esth. 6, 9. et *וְהָיָה עֲבַדָה יְהוָה* c. 9, 18; in fine denique codicis unum folium cum postrema parte libri Estheræ periit; ultima enim verba folii, quod nunc postremum est, 350. sunt: *וְהָיָה עֲבַדָה יְהוָה* c. 9, 31. Folium primum et quattuor folia postrema nonnihil lacerata sunt, quo factum, ut eorum, quæ iis inscripta erant, aliquid perierit.

Ipsa textus sacer per totum codicem, cum paraphrasi chaldaica in duobus libris legis singulis versibus subjecta, binis columnis exiguae latitudinis scriptus est, exceptis paginis, in quibus exhibetur canticum Mosis Exod. c. 15. (f. 210. v.—f. 212. v.), quae unam tantum columnam habent, in qua ipsum carmen solito more per stichos scriptum est; deinde fol. 307. r., in quo ultimi versus Exodi lineis paulatim decrecentibus in fermam infundibuli, iterumque crescentibus scripti sunt; denique f. 321. v.—332. v., in quibus solito modo stichometricè scriptum est carmen Deborah. — Vocabula initialia singularum et Parascharum et Haphtararum majoribus literis exarata sunt, et, ut videtur, serius adscripta; f. 333. r. pericopae propheticae 1 Sam. 20, 18. sqq. primum vocabulum יִשָּׁאֵר deest, quod scilicet addere scriptor oblitus esse videtur. — Scriptura quadrata est, non inelegans; adsunt puncta vocalia et accentus. Vitia a scriptore haud pauca commissa sunt, pluribus paucioribusve verbis modo male repetitis, modo praetermissis. Libros legis utraque comitatur Masora: margo superior non nisi unam lineam habet; duas inferior. Quae ad finem librorum observari solent, post Exodum fol. 301. v. figurae circuli inscripta sunt; post Genesim indicata modo est summa versuum huius libri. — Haphtarum singulis superscriptum est, ad quasnam Paraschas quosque dies festos pertineant, et e quibus libris desumptae sint. Ad pericopas exhibitas quod attinet, modo cum Germanicianorum, modo cum Hispaniensium usu conveniunt.

In margine foliorum exteriori, seu potius in singulari columna extra duas, quas textus verba occupant, diversae autem in diversis paginis latitudinis, per totum codicem additus est *commentarius Raschii*, rabbinicis literis absque vocalibus scriptus, et ita quidem, ut nunquam pro ratione locorum copiosior latius extendatur, per marginem superiorem et inferiorem, (ut ad Genes. c. 49., Exod. c. 15. c. 21—23. al.) quin partem aliquam columnae

proximae biblico textui destinatae occupans (ut f. 229. v. sqq. ad Ex. c. 21.); alibi brevior sit, ut integræ paginae passim, et plures subinde continuae, commentarium non habeant. — Auctoris nomen explanationi praemissum est; incipit enim commentarius ad Genesim fol. 1. r. his verbis: אַמֵּן ר' יצחק הל'.

Nomen suum scriptor codicis indicasse videtur fol. 331. r., ubi post absolutas Haphtarum, quae ad Paraschas libri Exodi pertinent, haec verba adjecit:

הוֹקֵם	i. e. "Fortis esto
וְנִתְחַקֵּם	et nosmet confirmemus!
בְּיַד הַמֵּלֶכֶת הַחַיִּים	Benedictus misericors qui
הִלָּל לִיעֲקֹב עַבְדֵּיהֶם	tribuit robur <i>Jacobo seruo</i>

Fol. 301. v. post absolutum commentarium in librum Exodi, in infima pagina, recentiore manu scriptae sunt literae: הַשֵּׁשֶׁת לַפֶּק, quibus codicis aetatem aliquis videtur voluisse indicare. Sed is fraudulenter egit et certissimum est, hunc librum non esse scriptum anno jud. 788. (post Chr. n. 1028.), ut recte vidit *Guil. Abr. Teller*, ad calcem editionis Latinae diss. secundae Kennicottianae, pag. 141. Cf. praeterea *P. J. Bruns* ad Kennicotti Diss. gen. in V. T. a se editam, pag. 562. et *de Rossi* in Varr. lect. V. T. Vol. I. pag. CXXXIII. No. 92. *) Minus perspicacem se exhibuit *A. A. H. Lichtenstein*, qui uberiores hujus codicis descriptionem dedit in libello, qui inscribitur: Programmata, duorum codicum Hebr. adhuc parum cognitorum descriptionem exhibens. Helmst., 1776. 4to.

*) Varias de hac subscriptione conjecturas formavere Tellerus, Brunsius et de Rossi, quarum tamen nulla probari potest. Numerus 788 non est corruptus e 988., ut putabat Tellerus; non sunt effectae literae הַשֵּׁשֶׁת e voce הַשֵּׁשֶׁת, in Masora finali libri Exodi obvia, ut suspicabatur Brunsius; non est denique verisimilis de Rossii opinio, veram codicis aetatem postremis tantum literis שֵׁשׁ indicari.

Codex hic, quem olim possederunt Dan. Ern. et Paulus Ern. *Jablouskii*, deinde R. A. *Fabricius*, professor Helmstadiensis, cum cod. nostro XVI. postea pervenit in bibliothecam universitatis Hamniensis, e qua nunc in bibl. Regiam transit.

XV.

(N. 2. rotulorum.)

Rotuli fragmentum, unum modo corium exhibens, longitudinis fere 2 pedum, latitudinis fere 1 pedis et 10 poll., quod *initium Genesios* continet, a principio libri, voce בראשית tamen non expressa, usque ad 3, 21. אֲלֶהֶם לְאָדָם, tribus columnis scriptum.

XVI.

(N. 8. in 4to, olim in Bibl. Univ. Hamm. N. 31. in 4to.)

Codex membranaceus, in 4to, folia nunc præter duo chartacea ab initio addita — 378 habens*), *Prophetas priores et posteriores ac Hagiographa* continens, quadrato caractere scriptus, cum vocalibus et accentibus, et utraque Masora. Prophetarum ordo vulgaris, hagiographorum hic est: Chron., Psalmi, Jobus, Prov., Ruth, Cant., Eccles., Thr., Esth., Dan., Esr., Nehem. Folia nonnulla membranæ et scripturæ recentioris seriore tempore addita esse apparet: primum fol. 1. et 2. in quorum prioris pag. 1. titulus inscriptus est, de quo infra dicetur: versa eiusdem folii pagina et fol. 2. nihil inscriptum habent; deinde folia quædam ad antiquioris libri lacunas explendas inserta, ut fol. 343. in quo scripta est ultima pars Ecclesiastæ, a verbis וְלֹא לְגִבּוֹרִים c. 9, 11. usque ad finem libri; ff. 350. et 351, in quibus continetur pars libri Estheræ, a verbis אֵת רֵצֶה הַמֶּלֶךְ c. 8, 3. usque ad c. 9, 14. fin.: sunt vero hæc duo folia male transposita, atque desiderantur

praeterea cap. 9. vv. 15—17.; sequuntur enim folio 352. verba וְהַיְהוֹדוּם אֲשֶׁר הָיָה c. 9, 18., ita tamen, ut ante hæc verba una linea et dimidia in initio paginæ erasæ sint. Sunt denique recentioris originis quattuor ultima folia, 375—378, quorum prioribus tribus inscripta est postrema pars Nehemiæ, a verbis בְּנִימֶן בְּנֵי יְהוּדָה c. 11, 4. usque ad finem libri: folium quartum nihil habet scripti. Quæ serius ita adjecta sunt, solas literas consonantes, easque diversissimi moduli habent, neque punctis additis neque Masora. Præterea vero deest inter fol. 118. et 119. unum folium, in quo initium libri Jesajani periit; incipit enim fol. 119. a verbis c. 1. 24. לְכֹן יָאֵם הָאֱלֹהִים; item unum folium inter 374. et 375, cui inscripta fuit pars Nehemiæ inter verba בָּהֶם נִשְׁבַּח c. 9, 28. et verba supra laudata c. 11, 4.

Textus librorum binis columnis scriptus est, exceptis libris זִמְרָה, qui unam modo habent, distinctione tamen per versus aut stichos minus accurate observata; item Judd. c. 5, quod solito modo stichometricè scriptum est; denique f. 118. v., quo absolvuntur Prophetæ priores. Finito Malachia f. 237. r. col. 2. pagina eiusdem folii versa sine scriptura relicta fuit, incipiente Chronicorum libro fol. 238. r. Singuli libri plerumque trium linearum spatio separati sunt, rarius, ut nonnulli e Prophetis minoribus et quinque Megilloth, duarum, Esra et Nehemia unius lineæ. Psalmorum numeri in margine a prima manu adscripti sunt, numerus autem כַּ bis positus, ad ps. 73tium et 74tum, et deinde prætermisus num. כַּ, ita ut inde a 79no rectus numerandi ordo servatus sit. In ceteris libris recentiore manu adscripti sunt numeri capitum secundum divisionem receptam. Masora magna duabus comprehenditur lineis in margine superiore, tribus in inferiore.

Temporis, quo scriptus sit hic codex, certum indicium non exstat. In folio quidem 119. r. quod nunc primum est libri Jesajani, in extremo margine superiore annum aliquis his verbis

*) Numeris quidem signata sunt codicis folia, sed parum accurate.

Ioci Jes. 30, 15. caractere rabbinico formæ in Hispania olim usitatæ scriptis notavit:

בשנת בשובה ונתה תושבון

בהשקט ובבטחה ההיה גבורתכם לפק

unde, computatis literis, quæ punctis notatæ sunt, שתי, ni fallimur, efficitur annus 319 seu æræ chr. 1559; sed hæc a codicis scriptore non sunt addita, verum a codicis possessore quodam, qui nomen suum juxta apposuit; eius literæ jam pacne deletæ sunt.

Longe seriore tempore adjecta sunt duo folia, quæ nunc prima codicis sunt membranacea, quorum prius titulum inscriptum habet, versibus homocoteletis compositum, in quo hic liber prophetarum et hagiographorum (ספר ספר) allatus esse dicitur in Europam e regione transmarina per virum Hierosolymitanum, *Salomonem Salman, filium judicis Jeremie Fürst Germani*. Scripta sunt hæc Regiomonti sub imperio regis Friderici Wilhelmi. Integer titulus hic est:

הדור

אתם ראו זה ספר

הנ"ך יפה

מגלת סתרים ומגילת עשה *

- * מספרא רבא בנקודת ושעמים מיופנה
- * ובמסורה גדולה וקטנה על צדדיו חופה
- * והובא מעבר לים לחלק הישוב הג האורפה
- * על ידי איש זקן נכבד ירושלמי ובדודו חי' פרופה
- * וניצול מזוטא של ים בעברו דרך הים יפה
- * והקלף עם הכתב מרוב ישנותו גז חיש ונעפה
- * נראה ונדחה וחזר ונראה לי נפש יפה תיה
- * שורפה * היה הרב מהורר שלמה זלמן בן
- הדיון מהורר ירמיה פארשט אשכנזי שליטא
- שחש על עליהו לתרופה * והעביר מעט מזער
- בקולמסו כמו בתוך העלמית תפופה *
- שלא ההא בת מלך כשפחה תרופה * ועגלה
- היפסיה כעגלה הערופה * וזאת הנשקפה *
- שתהא ברורה שפה * ניפה בשלש עשרה נפה *
- בקיניגשבערג תחה ממשלת מלך פרידריך וויל *
- העלם ירה בלחה נפשי וגם נכספה *

Titulum hunc circumdat ornamentum calamo pictum, in quo representantur Moses et

Aaron, ad utrumque tituli latus, et David, supra eundem. In infima pagina tituli auctor annum huius compositionis prodit, verbis hisce e Numer. 13, 18. petitis expressum: בשנת וסדר h. e. ה'ע"ט היושב עליה החזק הוא הרפה * לפק anno 476. seu p. C. n. 1716; itemque nomen suum:

זה השער ציורתי בצילו ישבתי וגם תמדתי נאום יוסף באא כמהורר אליעזר שליטא מקק אוויה הסמר לק' לארדאק Ejusdem viri manu adjecta esse videntur folia illa recentiora, codicis lacunis explendis destinata.

Duo denique, ut supra indicavimus, praefixa sunt codici folia chartacea, quorum posterius inscriptionem habet rhythmicam, qua tituli auctor declarat, hunc librum, in devoti animi memoriam, dono se dedisse viro doctissimo Danieli Ernesto Jablonskio (הארון הגדול המלומד דאקטר ודרשן של המלך פרוסיה ירה שמו הטוב (דאזיאל ערנסט יאבלונסקי); priore autem folio idem observat, se folio 120. (quod nunc est 119.) notam illam supra memoratam viri Hispani scriptam reperisse, cuius nomen effert, מאוש מנשה, hunc autem non fuisse ipsum libri scriptorem.

Descriptionem huius cod., quam edidit Lichtenstein, in programmate ad cod. XIV. laudato, ex iis, quæ diximus, aliqua ex parte corrigendam esse apparebit.

XVII.

(N. 9. in 4to, olim N. 7.)

Codex membranaceus in 4to maj., foliorum 166, quo continetur textus *Prophetarum priorum*, binis columnis, majoribus literis quadratis, sed parum eleganter et accurate scriptus, cum punctis vocalibus et accentibus, at sine Masora. Ad finem libri Josuæ tantum breviter indicatur numerus versuum. Poetici loci Judd. c. 5. et 2 Sam. c. 22. stichometricè scripti sunt. Libro Regum superscriptus est titulus מלכים.

Codicem scriptum et punctatum esse a *R. Hoschaja, fil. R. Josephi* mense Adar secundo anni 5106. a mundo condito, i. e. post Chr. n. 1346, in ultima eius pagina, fol. 166. v., bis traditur, ubi in columna prima hæc leguntur:

אני ר' הושעיה בר' יהוסף כתבתי
ונקדתי מקרא זאת מנביאים
ראשונים וסוימתי אותה בתרגום
אחר שני שנת המשרה אלפים
ומאה ושש לבדיאת עולם המקום
יזכרו ללמוד ולכתוב ולהגות בו
הוא זרעו וזרע זרעו עד סוף כל
הדורות ויקיים ביה קרא הכתוב
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
והגות בו ימים ולילות למען
השמור לעשות ככל הכתוב בו
כי אז תצליח את הרביך ואז
תשכיל

Eadem fere verba in col. 2. repetuntur; tertia tamen linea hic erasa est. Praeterea lin. 6. pro יזכרו col. 1. scriptum est יזכרו, et ommissa sunt verba ולכתוב, unde colligi poterit, scriptorem hac columna respexisse ad eum, in cuius gratiam scriptus sit codex.

Codex Niebhrianus, secundum catalogum Bibliothecae Regiae antiquum.

XVIII.

(N. 10. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foliis constans 81, continens textum hebraicum *Proverbiorum, Ecclesiastæ, Obadiæ et Jonæ* cum versione germanica. Textus Proverbiorum ab initio libri ad finem usque capituli octavi literis quadratis sed sine punctis vocalibus in media parte paginae scriptus est, versio germanica ad utrumque latus literis rabbinicis cursivis; a capite inde nono autem textus hebraicus in dextera parte paginae scriptus est iisdem, quibus versio, rabbinicis literis, hæcque ad sinistram illius adposita; eademque deinde ratione scripti sunt

ceteri quoque libri supra nominati cum versione eorum. In inferiore parte paginae per totum codicem adscriptæ sunt vocabulorum nonnullorum hebraicorum significationes, plerumque germanica, nonnunquam, in tribus posterioribus libris maxime, latina lingua, item derivationes etymologicae.

Scriptorem codicis primum modo in animo habuisse Proverbia dicta ratione describere, colligi fortasse potest ex hoc titulo, quem prima pagina rabbinicis literis inscriptum habet:

משלי	i. e. "Proverbia
עם העתקה ללשון אשכנז	"una cum versione in
לשני המון עם אשכנז	"linguam germanicam,
בקראם בנין לשון הקודש;	"pro iis ex populo, qui
בביאת הינוב השוהה לכל	"non periti sunt linguæ
נפש :	"sanctæ; cum explica-
בהמבורג	"tione, quæ omnibus
לשני אמת קנה	"hominibus bene con-
	"venit."
	"Hamburgi, anno 495"
	(i. e. a. Christi 1735.)

Superne in pagina tituli scriptum est nomen יהודה, et infra illud hæc verba latina leguntur: "Esse salutatum te vult mea litera primum;" in infima autem pagina hæc scripta sunt: "omnibus in rebus sanctis mihi spiritus adsit, et regat ingenium viribus omne meum." Infra titulum hebraicum scriptionis tempus his verbis notatum est: "incepti 14 Martii 1735 Deo adjutore;" et in ultima libri pagina legitur: "finitum decimo tertio Octobris 1735 Anni;" inque eadem pagina superne: "Jure tibi grates candide lector ago." — In interiore latere tegumenti chartacei, quo vinctus est codex, eadem, qua hic, manu scripta sunt ænigmata quaedam hebraica.

Scriptoris nomen nusquam notatum est.

XIX.

(N. 3. rotulorum.)

Rotulus, librum *Estheræ* continens, longus 8 pedes et 3½ pollices, latus circiter 1

pedem et 3 pollices, sex coriis consutis constans, quæ pro diversitate latitudinis plures paucioresve columnas textus, unam, tres aut quattuor, inscriptas habent. Lignis non munitus est.

XX.

(N. 4. rotulorum.)

Alius rotulus, item librum *Estheræ* continens, longus 11 pedes et 6 pollices, latus circiter 8 pollices, coriis constans novem, quæ pro latitudinis diversitate plures paucioresve columnas habent, duas, tres, quattuor aut quinque; ultimum unam tantummodo habet. Uno ligno ad finem libri munitus est.

XXI—XXVI.

(N. 5—10. rotulorum, olim in Bibl. Univ. Haun.
N. 7—12.)

Rotuli sex, continentes singuli librum *Estheræ*, præcedentibus omnino similes, sed variae et longitudinis et latitudinis.

XXVII.

(N. 7. in fol.)

Fragmenta membranacea.

1. Sex folia, quibus continentur posterior pars Threnorum et prior libri *Estheræ*, a Thr. 4, 16. אָנָה בְּהִיגָה ad Esth. 7, 8. גַּמְלֵי בְּקִרְתָּא.
2. Sex folia, quibus continetur pars librorum *Esræ* et *Nehemiæ*, ab Esr. 8, 18. הַטּוֹרָה יִשְׂרָאֵל ad Neh. 3. 35. יִשְׂרָאֵל הַטּוֹרָה.
3. Sex folia, quibus continetur pars libri *Jobi* a cap. 17, 3. init. ad 28, 11., stichometricè scripta.

Hæc tria fragmenta unius codicis sunt, forma folii, magnis literis quadratis binis columnis scripti, cum vocalibus et accentibus, at sine Masora.

XXVIII.

(N. 8. in fol.)

Fragmenta membranacea.

1. Unum folium, in fol. min., continens locum Genes. 41. 8. init. usque ad 42, 15. אֲרָבָה אֲרָבָה. Textus scriptus est binis columnis; addita sunt puncta vocalia, accentus et Masora.
2. Unum folium, formæ maximæ, maximisque literis scriptum, cum vocalibus, accentibus et Masora, quo continetur locus 2 Regg. 24, 2. בְּיַמֵּינוּ בְּיַמֵּינוּ ad 25, 5. וַיִּשְׁפֹּט. Textus ternis columnis scriptus est.
3. Unum folium, continens locum Jes. 29, 13. init. ad 30, 16. בְּלִי לֵב, binis columnis scriptum, cum vocalibus, accentibus et Masora, quæ superne ternas, in margine inferiore quaternas lineas complectitur.
4. a. Unum folium, continens partem Psalmorum, a 109, 3. init. ad 112, 8. אֲשֶׁר-יִרְאֶה. b. Unum folium, continens partem *Jobi*, a cap. 28, 13. אֲנִי אֶשֶׁת ad 30, 25. אֲנִי אֶשֶׁת.

Hæc duo fragmenta esse videntur unius codicis, binis columnis scripti, cum vocalibus et accentibus atque Masora, quæ superne non nisi unam, in inferiore margine duas lineas complectitur. Stichometricè non sunt scripta.

XXIX.

(N. 11. in 4to.)

Codex chartaceus, triginta foliis constans, quorum tribus primis totidemque postremis nihil inscriptum est; in reliquis autem, quæ in utraque pagina numeris vulgaribus 1—48. signata sunt, continetur *Epistola ad Hebræos in linguam hebraicam translata*, cum brevi dictionum quarundam explicatione, auctore Judæo converso, cuius nomen inter Judæos antehac erat *Mose Cohen* Cracoviensis, inter Christianos autem vocabatur *Johannes Kemper*, (de quo cf. Wolfii *Bibl. Hebr.* T. I. pag. 894. no: 1648, T. III. p. 813.) anno Christi 1713. Titulus integer paginae I. inscriptus hic est:

אגרת אל
העבדיות נעקקה בלשון עברי
שהוא לשון הקדש בכל צד
הזוהר אפשר
ובמקומות (אף כי היה היה מספר)
הוצג כמו פירוש קצת סמוך
לתיבת לשון הקדש בין שני הצי
לבנות ומורהם כזה () פירוש של
איתו התיבה בלשון הבן והלמוד :
כל זה
נעשה בעיון רב וכונה גדולה
מהבגל תשובה אשר נקב
בשם בין היהודים לעבר
מישה בהן בקראקא
ועתה בין המשוחזרים נחמד גם
נשתנה שמו ונקרא יהון אז
יהון קעמפער
שנת אלף השישי למיבא
הל למשיחיתו ישוע הנוצרי בן
אל חי

Ipsa versio epistolae pag. 3. incipit et pag. 48. absolvitur. Capita et commata secundum divisionem receptam notata sunt.

Liber caractere quadrato exaratus est, non sine scripturæ vitis hic illic commissis. Locus, ubi scriptus sit, non indicatur.

XXX.

(N. 12. in 4to.)

Codex membranaceus in 4to, foliis constans 242, rabbinicis literis ad quadratam formam proxime accedentibus caractere inter Judæos Africanos usitato eleganter scriptus, additis punctis vocalibus. Folia a septimo inde hebraicis numeris superne signata sunt, sed non accurate; modo plura folia sine nota præmissa sunt, modo iidem numeri repetiti, ita ut ex hac numeratione postremum codicis folium, quod cum proxime præcedentibus numeri nota caret, 216tum futurum fuerit.

Continetur in hoc codice *Machsor* seu collectio precum et canticorum, בִּיתְּיָם, quae

vocant Judæi, diebus festis solennioribusque sabbathis recitandorum. Titulis superscriptis notata sunt tempora, quibus destinata sunt: ut סבבות, שבועות, מצה, השבת הגדולה, פורים, חנוכה, סבבות, שבועות, מצה, השבת הגדולה, חושענות, cct.: ad festum novi anni tantum et diem expiationis nulla reperiuntur. Præter hebraica poemata pauca etiam exhibentur chaldaica. Inserta præterea suis locis sunt cum pericopæ Veteris Testamenti, tum traditiones et præcepta de sacris ritibus observandis, quæ ad dies illos festos pertinent. Ipsi carminibus, quæ fol. 7. r. incipiunt, in quinque foliis præcedentibus, codicis fol. 2—6., præmissus est index eorum secundum literas alphabeti, a quibus incipiunt, dispositus, ad foliorum numeros ablegans. Primum autem folium in utraque pagina exhibet partem precationis Musaph, quæ in festo Paschatis recitari solet, sine vocalium signis scriptam: מִיְּמֵי הַשָּׁמַיִם גְּלוּיָנוּ; tituli instar rubro colore superscripta est appellatio מִדְּכָה. Propter hoc codicis, ut nunc est, initium præbabile est, præcessisse aliquid, quod perierit; quid autem et quantum, dici vix potest; prima quidem plagula, ad quam pertinet folium primum, integra est, octo foliis constans. Ipsa poemata artificiose composita sunt, maximam partem acrosticha. quæ literis initialibus stropharum aut versuum aut primorum quandoque vocabulorum sæpe seriem literarum alphabeti hebraici, quamquam non semper æcitate, sæpius auctorum nomina exprimunt, nonnunquam utrumque in uno eodemque poemate conjunctum. Cum auctoribus patres eorum haud raro nominantur. Frequenter inprimis occurrunt nomina *Abraham* seu *Abram*, (semel יהודה בן עזרה ב' רבי מיאיר.) *Juda*, (in his אברהם בן עזרה ב' רבי מיאיר.) *Joseph*, (in his Jos. f. R. יהודה ב' רבי יצחק ב' ר' שמעאל.) *Isaak*, (in his Jos. f. R. יצחק ב' רבי יצחק בן קטחי.) *Isaak*, (sæpissime, nonnunquam *Is. Geuth*, *Is. Halleiben Serachjah* cct.) *Salomo*, (nonnunquam יהודה בן יהודה,) all.

Ex hisce carminibus nonnulla in locis, ubi spatium aliquod paginae a primo libri scrip-

tore vacuum relictum erat, a seriore manu minusque eleganti addita esse apparet. Item serius adjecta sunt, quæ exstant fol. 54. v. usque ad f. 59. r. incl.; et folia quidem 55—58, in quorum maxima parte continetur carmen in *sabbathum magnum*, auctore אליהו בן שאול הלוי, post librum scriptum adeoque post numerationem foliorum hebraicis literis factam hoc loco inserta esse, inde apparet, quod hæc folia unam plagulam efficiunt, quum, quæ proxime præcedit, sex, reliquæ vero omnes octo folia habeant, quodque fol. 54. signatum est num. גה, f. 59. autem גו. Seriori denique manus debetur etiam postrema codicis pars, a fol. 219. v. med. usque ad finem, fol. 242. v.

Carmen postremo loco positum, in quo poëta doloribus afflictus semet exhilarare animumque lætitia implere studet, in versus arabicos, præcedentibus hebraicis adnexos, hoc modo exit:

אֲחֻזֶק מִיָּגוֹן אֶהְבֶּתוּ בְּיָדַי סוּר יִשְׁבַּח נִזְגָן
 בּוֹ יִגַּל בְּבוֹדַי לְךָ לֵךְ רִיגוֹן הַנֶּזַח לִי וְדוֹדַי
 אֵל רִיאוּן קֵד פֶּאֶחַ וְאֵל זֹהַר אֵל עֲגִיבִי
 כִּלְנִי וְדַעֲנִי נִשְׂרַב מֵעַ חֲבִיבִי :

seu arabice transcriptum:

الرياض قد فاح والرحم الحبيبي
 كلني دعني نشرب مع حبيبي

i. e. *Arripiam clypeum amoris eius manu mea; accede, conside, fidicen; exsultet de eo anima mea; abi, contumax, missum fac me et amicum meum. Viridaria fragrant, et flores mirabiles; linque me et missum fac: bibemus cum amico meo.* Forma פאה usurpata esse videtur pro פאהח (فاخت), ut conveniret cum vocibus hebraicis, quæ huic in reliquis strophis respondent: מְזַכָּה, בְּרַחַם, מְזַכָּה, תְּקָאָה; similiter homoeoteleuti causa formam אלעגריבי posuit poëta.

Cantiones sacras in hoc codice comprehensas probabile est pertinere ad ritum Judæorum Africanorum, fortasse Tripolitanorum.

Ad calcem libri, in superiore parte paginae postremæ fol. 242. vers., pauca verba duabus lineis scripta fuerunt, priore rabbinicis literis,

sequente quadratis; sed hæc maximam partem ita sunt detrita, ut legi vix possint; prior linea incipere videtur a verbo אומר, initium alterius brevioris est אומר s. Paulo inferius scriptum est מש ש ש.

In pag. pænultima et antepænultima (fol. 242. r. et 241. v.) latinis literis aliquid notatum est, quod propter scripturam valde neglectam difficile est lectu; in illa cernitur numerus anni 1595, in hac legitur: . . . *correcto* 1612. Factam omnino esse correctionem codicis in gratiam Christianorum, inde apparet, quod nomen אַדְוִיִּים, quo Christianos hostili animo significare solebant Judæi, sæpius oblitum reperitur, e. g. fol. 17. v. sq., ubi in poëmate h. l. posito octies occurrit in hac phrasi: אַדְוִיִּים; אַדְוִיִּים אֵל רִיאוּן קֵד פֶּאֶחַ וְאֵל זֹהַר אֵל עֲגִיבִי, quo Christianos hostili animo significare solebant Judæi, sæpius oblitum reperitur, e. g. fol. 17. v. sq., ubi in poëmate h. l. posito octies occurrit in hac phrasi: אַדְוִיִּים; אַדְוִיִּים אֵל רִיאוּן קֵד פֶּאֶחַ וְאֵל זֹהַר אֵל עֲגִיבִי, quo Roma notari solet, oblitum reperitur fol. 36. r.

Temporis aut loci, in quo ipse codex scriptus sit, nullum indicium apparet.

XXXI.

(N. 13. in 4to.)

Codex membranaceus in 4to, foliis, ut nunc est, 728 constans,*) literis quadratis eleganter scriptus, additis punctis vocalibus. Continetur autem in eo *Machsor* sive *Cyclus precum et cantionum*, maximam partem rhythmicarum, quibus in cultu sacro, præcipue in sabbathis aliisque festis diebus utuntur Judæi; sed ad priorem modo anni partem hæc pertinent, ad festum novi anni, diem expiationis et festum tabernaculorum cet., usque ad שבת בראשית incl.

*) Foliorum numeri a seriore manu hebraicis literis superne notati sunt, sed unus numerus prætermisus, quum fol. 566. signatum fuerit תקסו, fol. 571. autem תקעב; nisi forte hic folium perit, in quo tamen, ut videtur, nihil scriptum esse potuit. In numeratione vero arabicis signis posthac indicata unum folium prætermisus est, inter f. 242. et 243.

Exhibentur etiam Paraschae legis et Haphtaræ propheticae, in sacris conventibus recitari solita, atque aliæ Veteris Testamenti partes, quæ ad preces et celebrationes pertinent, in his complures psalmi. Insertæ sunt nonnullis locis breves observationes liturgicæ de officiis in sacro cultu persolvendis, sine vocalium signis scriptæ.

Collatione instituta cum Machsore Judæorum Polonorum Germanorumque secundum editionem Altonanam a. 1804. (מחזור מכל השנה, מנהג פולין, tomis II. fol.) apparuit, maximam cum eo esse huic codici convenientiam; respondet is editionis Altonanæ tomo priori secundique tomi parti priori usque ad fol. קנ"ט v., ita tamen, ut in illo nonnulla reperiantur, quæ in hac desunt, alia autem eademque plura in hac, maxime in tomo eius secundo, quibus ille caret; diversitas tamen aliqua ex parte posita est in ommissa repetitione formularum sæpius recurrentium; præterea etiam earundem rerum ordo quandoque paullulum diversus est, et verborum diversitates quædam occurrunt.

Initium codicis fol. 1. r. est postrema pars celebrationis Dei in officio matutino, quæ in edit. Alton. exstat Tom. I. fol. ה v. lin. 1.: ב' א' יי אלהינו ב' א' אומר ה'. Colligi hinc potest, ab initio aliquid interiisse, unum saltem folium; idque eo confirmatur, quod folium, in membranæ complicatione primo adhærens, olim octavum, item periit; est enim inter sextum et septimum lacuna unius folii; fol. 6. v. terminatur verbis הַשְׁלֵמִים קִלְקָד Ed. Alt. T. I. f. יא r. lin. 18. (sive l. 13. ipsius textus), et f. 7. r. incipit verbo הַלְלוּ אֱלֹהֵינוּ ibid. f. יא v. lin. 7. a fine; quæ hic desunt, in marginibus adscriptis aliquis quadratis literis sine vocalibus. Tria præterea folia perierunt: unum, cuius pars exigua adhuc superest, inter f. 43. et 44.; horum enim prius, post absolutum locum alphabeticum (ordine אהבש cf. Ed. Alt. T. I. f. ק"ב v.) additosque deinde nonnullos locos biblicos, terminatur verbis דַּן 2, 21.: מְדַשְׁקֵי

posterioribus autem incipit a verbis וְגַבְלֵי הַקֶּבֶץ מְתַקְּמֵי הַגָּבִי, Ed. Alt. f. ק"ג r. lin. 20; alterum inter fol. 482. et 483., ubi, quæ desunt, rabbinica manu adscripta sunt; tertium denique, cuius exigua admodum pars reliqua est, inter f. 486. et 487., ubi pariter, quæ perierunt, — e libro Jonæ — in marginibus adscripta leguntur. Item post fol. 559. residuum est parvum frustum folii abscissi, sed hic nihil deest. Quæ in postremis codicis foliis habentur, a fol. inde 723. v., justo loco non sunt posita; pertinent enim ad diem expiationis, et in editione Altonana reperiuntur Tom. I. fol. של r. sq. et שבה v. sq. Absolvitur argumentum codicis fol. 727. r. extr. verbis בְּיַמֵּי בָּאֵם הַזֶּה יִכָּפַר אֵל מִלֶּךְ Ed. Alt. Tom. I. f. שבו v. lin. 11—12. Versa pagina folii ultimi 727. (728) nihil inscriptum habet.

Nonnullis in locis quæ in scriptione libri fortasse prætermissa fuerant, in margine addita reperiuntur; partim, ut probabile videtur, ab ipso codicis scriptore, literis ad quadratam formam proxime accedentibus, modo sine vocalium signis, ut fol. 176. v., modo his additis, ut f. 130 v.; partim ab aliis serioribus, rabbinicis plerumque literis, ut fol. 8. r. 78 v. et sæpius. Rabbinica manu correctiones quoque subinde factæ sunt, atque adscriptæ haud raro observationes quædam, loci biblici aliave; implevit hæc manus præter plures margines paginam etiam priorem folii 572., quam solam in toto libro sine scriptura reliquerat primus libri scriptor; additæ sunt ab eadem manu temporum festorum, ad quæ preces et carmina libri pertineant, definitiones, ex. gr. fol. 23. r.: יצא ליום שמי; f. 119. v.: ליום ראשון של ראש השנה; f. 256. v.: של יום כפור; של ראש השנה cct. Eorum autem, quæ in margine adscripta sunt, nonnihil abscissum est in ligando codice.

Ea, quæ ipsius libri argumentum faciunt, diversa ratione scripta sunt, nonnunquam per duas columnas in una pagina, quod præcipue valet de locis biblicis; in poëticis scribendis

adhibita est stichometrica ratio. neque tamen semper eodem modo; literæ quandoque majusculæ.

Temporis aut loci. quo conscriptus sit codex. nullum indicium aut vestigium occurrit. Neque titulus ei præmittitur.

XXXII.

(N. 1. in 8vo.)

Codex membranaceus in 16mo. viginti foliis constans, literis maximam partem quadratis elegantissime exaratus, additis punctis vocalibus, non tamen ubique accurate positus. Continentur eo *preces, benedictiones, gratiarum actiones*, in fructu ciborum aliarumque bonarum rerum a Judæis dicendæ diciturque solitæ. uti hoc etiam titulo declaratur, qui primæ paginæ inscriptus est, libri ætatem simul ostendens:

סדר	i. e. "Ordo benedictionis
ברכת המזון	"ciborum. una cum prece-
עם תפילין קריאת שמע	"tione KeriathSchema. cum
עם ברכת המזון עם	"benedictione rerum, qui-
ביתיהם נאיים ותקנו	"bus fruuntur homines, cum
קרי המזון הגדול והרשע	"figuris pulchris, et præ-
האומות שבוטחו בל	"ceptis de casu [nocturno]
יהוה ובעל מלך אשמה	"culpæ magnæ et iniquitatis.
והשע	"Quam qui dicit cum inten-
על המזון במשלות	"tione quovis die. liberabi-
אזכרת המזון הקודם	"tur ab omni reatu et delict-
קריאת שמע	"to. Scriptus est in coetu
יהוה בשנת תתק	"sancto Neustadii (?) sub
יהוה	"regimine domini nostri
יהוה	"generosi Imperatoris Ca-
יהוה	"roli. cuius majestas exal-
יהוה	"tetur. anno 488" (i.e. anno
יהוה	Christi 1728).

Fol. 8. v. sqq. exhibetur ברכת המזון et fol. 13. סדר קריאת שמע.

Quibus temporibus aut occasionibus recitandæ sint hæ preces et benedictiones, nota indicatur, singulis quibusque. lingua nonnun-

quam hebraica. sed plerumque germanica, literis autem rabbinicis, præscripta.

Libro, quem nitidissimum reddere studuit scriptor, multæ insertæ sunt picturæ. partim ornatus et elegantiae causa, partim ad repræsentandas et illustrandas res commemoratas, eas maxime. propter quarum largitionem gratiæ Deo agi jubentur. In pagina tituli elegantissima ad dexteram et sinistram Moses et Aaron representantur, atque inferius somnium Jacobi Gen. 28. 12.

XXXIII.

(N. 14. in 4to. olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 6. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foliorum 16, quo continetur *Midrasch in Threnos*, quod in fronte quidem gerit titulum: מדרש איכה רבתי, sed ab impresso ejus nominis libro multum differt. ejusdemque fortasse compendium est. Scriptum est literis minutis, cursivis, quæ dicuntur, ejus generis, quo in Hispania et Africa uti solent Judæi. Absolvitur liber fol. 16. r. lin. 6. Scriptionis annus non proditur. Signata sunt codicis folia paginarum numeris 73—104.; olim enim cum codicibus nostris XXXIV. XXXV. XXXVI. XLI. et XLII. aliisque, quæ non possidemus, in unum volumen erant compacta hujusque folia continua serie numerata. Migraverunt hic codex atque reliquæ ejusdem voluminis partes e Bibliotheca Jo. Christiani Kallii. Hebraicæ linguæ quondam professoris Hauniensis, in Bibliothecam Universitatis Hauniensis, unde in Bibl. Regiam transierunt.

XXXIV.

(N. 15. in 4to. olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 5. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 3: continet is *observationes varias criticas et grammaticas*. Post introductionem enim de linguæ Hebraicæ literis earumque pronuntiatione,

primum habes recensum annorum, quos complectuntur singuli V. T. libri historici; nomina scriptorum, qui Veteris Testamenti libros composuisse dicuntur; versuum numerum in iisdem libris et id genus alia. Deinde sequuntur observationes grammaticae de literis אהוי et כפת בגד, de accentibus, punctis vocalibus et legendi ratione, e quibus haud pauca ab Ill. Wolf Heidenheim in libro משפט התעמים referuntur ad auctoritatem clarissimi saeculi undecimi critici *Ben Ascher*, qui fortasse hujus libelli auctor est habendus.*) Prima codicis verba haec sunt: אלה תולדות האבות מועדות אשר מזהב אלה תולדות האבות מועדות לילי הלל המודות. Absolvitur libellus fol. 3. r. lin. 14. Scriptus est eodem fere caractere, quo codex noster XXXIII. Signata sunt folia paginarum numeris 105—110.

XXXV.

(N. 16. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 10. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 30, continens *Commentarium in quinque Megilloth*, in fine mutilum. Adest enim commentarius in librum Esther, fol. 1. r. — 3. v.; in Canticum Canticorum, fol. 5. r. — 15. v.; in librum Ruth, fol. 15. v. — 18. v., et in Ecclesiasten, fol. 18. v. — 29. r.; sed commentarii in Threnos exigua tantum pars legitur fol. 29. v. 30. r., ubi post explicationem c. 1. 10. in media pagina abrumpitur oratio. Codici titulum fecit librarius fol. 1. r. hoc modo: פירוש המש מגילת להל רבינו שלמה, ita

*) Non contigit instituere comparationem codicis nostri cum libro similis argumenti, qui impressus exstat in prima Bibliorum editione Bombergiana, Venet., a. m. 5278. (i. e. p. Chr. 1518.), et cui titulum fecit editor hoc modo: זה ספר מוקדוקי התעמים שהחברו ר' אהרן בן אשר ממוקום מעותה הנקראת פירוש גני. Obscuritatem ejus queritur ipse editor, ideoque in editionibus Bombergianis posterioribus non est repetitus, sed in locum ejus liber שער התעמיות suffectus.

ut *R. Salomonis Isaacidae*, quem *Jarehium* vocare solent, commentarium promittere videatur. Sunt vero hujus scriptoris eae tantum codicis partes, quae spectant librum Esther, Canticum et Ecclesiasten; reliqua non item. Et Threnorum quidem explicatio, ut a doctissimo viro Heimann J. Michael, Hamburgensi, docemur, est *R. Josephi Kara*, Jarchio fere aequalis, quam alias quoque Jarchio falso tributam esse monet de-Rossius in *Dizionario storico degli autori Ebrei*, s. v. Kara. Num idem auctor sit habendus commentarii in librum Ruth, doctioribus relinquimus discernendum. Bene scriptus est codex, caractere minuto, quadrato, sed ad cursivum prope accedente; in fine libri tantum, fol. 29. v. 30. r., alia manu et ineleganti commentarii particulae nonnullae exaratae sunt. Raro in margine leguntur annotationes, partim splendidis lacunis destinatae.

XXXVI.

(N. 17. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 4. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 6, simili caractere scriptus, quo codices nostri XXXIII. et XXXIV., continens tria opuscula clar. *R. Abraham ben Meir*, quem *Aben Esra* vocare solent. Sunt ea: 1. אגרת השבת, *epistola poetica de sabbatho*, fol. 1. r. — 4. r. lin. 16., de qua vide Wolfium in *Biblioth. Hebr.* Vol. I. p. 78.; de-Rossi *Dizionario storico degli autori Ebrei*, Vol. I. p. 11. Denuo nuper edita est haec epistola ab ill. Luzzatto in diario, cui titulus *Kerem Chemed*, Tom. IV. p. 159. sqq. (Prag., 1839).

2. ספר השם. *libellus de nomine tetragrammuto*, fol. 4. r. lin. 17. — 6. r. lin. 14., de quo vide Wolfium in *Biblioth. Hebr.* Vol. I. p. 79. sq.; de-Rossi l. l. p. 12. Edidit eum e cod. Monacensi G. H. Lippmann, Fürth., 1834. Caput sextum a Luzzatto quo-

que publici juris factum est in diarii Kerem Chemed Tom. II. p. 77.

3. עֵרְוַת הַחֵמֶד וְהַרְדֵּם הַמְּזֻמָּה, *area sapientiae et hortus cogitationis*, fol. 6. r. lin. 15. — v. extr., philosophici argumenti libellus, rhythmica oratione compositus atque agens de mundo, creatione, anima et revelatione. Primus sub hoc titulo eum edidit N. Krochmal in diarii Kerem Chemed Tom IV. p. 1—5. Idem est libellus, de quo egit de Rossius in Dizionario l. l. p. 13. sub titulo Ormád ammezimá, varios Wolfii errores corrigens, in Biblioth. Hebr. Vol. I. p. 80. sq. prolatos.

XXXVII.

(N. 18. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 2. in 4to.)

Codex membranaceus nitidissimus in 4to, foll. 352, continens *R. Mosis Majemonidae* clarissimum opus, quod vocatur *Doctor perplexorum* (מורה הנבוכים), ex Arabico Hebraice versum a *R. Samuele fil. Jehudae, fil. Tibbon*, cujus subjungitur *explicatio vocabulorum insolitorum* (באגדה על מלתה זרות), ab ipso in vertendo libro usurpatorum. Incipit R. Samuelis praefatio fol. 4. r.; Majemonidae epistola ad R. Josephum fil. Jehudae data fol. 7. v.; ejusdem praefatio fol. 8. r.; liber primus fol. 16. v., desinens fol. 112. v.; liber secundus incipit fol. 114. r. et desinit fol. 199. v.; liber tertius incipit fol. 202. r., desinit fol. 315. v. Folia 113., 200. et 201. nihil habent scripti. Fol. 316. r. legitur librarii subscriptio, qua docemur hunc librum scriptum esse Barcinone, a. m. 5108. (i. e. p. Chr. 1348.), in usum medici R. Menachem Bezalel, manu Levi filii Isaaci Pigocaró (פיקוקארו), Salmantica oriundi. Sequitur deinde fol. 317. v. praefatio R. Samuelis in explicationem suam vocabulorum insolitorum, quae ipsa incipit fol. 321. v. et desinit fol. 352. v. Recedit ea multis in locis

ab impressis exemplis, ita ut non sine fructu comparatio codicis nostri institui posse videatur.

Accuratissime scriptus est totus codex aequabili manu et eleganti, caractere quadrato ejus formae, qua Hispanienses Judaei uti solebant. Adduntur hic illic in margine correctiones, variae lectiones brevesque annotationes, partim ipsius librarii, uti videtur, manu scriptae. Picturis ornatum erat ab initio codicis folium 3. v., sed iniqua libri tractatione nunc fœdatum est. Libri vero secundi tertiique initia, simili modo ornata, etiam nunc omni colorum splendore gaudent. Singulorum praeterea capitum et sectionum tituli literis auro obductis elegantissime scripti, marginibus pictis inclusi et distincti ornamentis figurisque in libri oram protractis vividisque coloribus pictis.

Praemittuntur codici folia duo, quae nihil habent scripti, nisi quod fol. 2. v. legitur haec inscriptio: "Hunc librum cum quatuor aliis Mstis Ebraicis Amico suo Honoratissimo Nobiliss. Friderico Rostgaard dono dedit J. Bartholin." Et ipse Frid. Rostgaard nomen suum inscripsit fol. 3. v. infra picturas jam paene deletas. — In fine codicis fol. 352. v. leguntur haec:

"Dominico Irosolomi^{no}"

et deinde: "Alessro scipione Reuedi-"

"Manta 1592."

et denique:

"visto per me fr. dominico castello"*)

"1619"

XXXVIII.

(N. 19. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 3. in 4to.)

Codex membranaceus in 4to min., foll. 636. Continet is *Libri praeceptorum magni*,

*) Sic hoc nomen videtur esse legendum; sed potest etiam esse: *carretto*, ut Delitzschius legit in cod. Lipsiensi, vid. Catalog. libb. Mss. Bibl. Senat. Lips. pag. 274. cod. II.

(ספר המצוה הגדול) auctore *R. Mose* (fil. Jacobi) *Mikkotzi*, (מקוצי, h. e. ex oppido Coucy oriundo), eam partem, quae agit de praeceptis legis prohibitoriis, caractere quadrato elegantissime quidem, sed non semper accurate scriptam. De hoc libro ejusque auctore vide Wolfium in *Biblioth. Hebr. Vol. I. pag. 827. sq.*; de-Rossi *Dizionario stor. degli autori Ebrei*, vol. II. p. 67.; *Mss. codices Hebr. Biblioth. J. B. de-Rossi, Vol. I. p. 58. sq.*; *Delitzschium in Catal. libb. Mss. Bibl. Senat. Lips. pag. 276. cod. V. et Zunzium ibid. p. 315. ad cod. IV. et pag. 316. ad cod. V. Incipit praefatio codicis nostri fol. 1. r.; capitulum index fol. 8. r. Ipsius libri initium, fol. 27. r., literis auro et coloribus ornatis distinctum est, singularum libri sectionum initia literis rubro colore pictis. Absolvitur codex fol. 636. r., ubi subjungitur librarii nota ita concepta: ברוך הנותן ליעקב בנה • ברוך רחמנא דמסיון : סיגמתי בל'ה הל'און ביום ה'ה' תמוז שנת ק"ל לפרט : חזק ונתחזק הסופר ה'זן לא יוזק לא היום ולא לעולם עד : שיעלה על סלם : Spatium autem, quod vides inter voces שיעלה et על סלם, expletum est asini figura, atramento delineata. Absolutus igitur hic liber esse traditur a. m. 5170. p. Chr. 1410. — Primo folio super praefationis initium Christiana manu inscripta sunt verba: ישיע ישעי. E Bibliotheca Jo. Christiani Kallii migravit in *Bibl. Univ. Haun.* indeque in *Bibl. Regiam.**

XXXIX.

(N. 20. in 4to, olim in *Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 7.* in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 211, continens *R. Josephi fil. Gekathiae* (ר' יוסף בן ג'קאטיה) opus cabbalisticum, cui titulus: שְׁעַר אֱלֹהִים i. e. *portae lucis*, de quo vide Wolfium in *Biblioth. Hebr. Vol. I. p. 525.*; de-Rossi *Diz. stor. degli autori Ebrei, Vol. I. p. 125.*; *Mss. codices Hebr. Biblioth. J. B. de-Rossi, Vol. I. p. 71. sq. Vol. III. p. 13.* Bene et distincte

scriptus est codex, caractere quadrato Hispanico, ad cursivum vergente. In prioribus foliis quindecim ipse librarius, ni fallimur, in margine passim notulas adjecit, Latine scriptas, et locos biblicos maxime laudantes. Nomen suum et scriptionis tempus in fine codicis addidit his verbis: נשלם על ידי צעיר המחקקים משה בסמל' היום ולה' עקרוש מגרוש ספרד יום ג' ה' ימים : להדוש כסלו שנת פ"ה תר"ה ותל' : (h. e. a. m. 5288. p. Chr. 1637).

XL.

(N. 21. in 4to.)

Codex membranaceus, in 4to min., literis rabbinicis exaratus, fragmentum exhibens libri, cuius pars haud exigua, ut videtur, cum tegumento, quo antehac vinctus fuit, cum ab initio, tum in fine perit. Constat nunc foliis 76 seu decem plagulis, quae octona habent folia, excepta prima, cuius media pars, fol. 2. et 3, 6. et 7, deest.

Continetur in eo, binis columnis descripta, pars libri *Joreh de'ah* (יורה דעה), qui ordo secundus est operis clarissimi *Arba' turim* (ארבע טורים), auctore *R. Jacobo fil. Ascher, Germano*. Numeri capitulum in margine notati sunt: ab editionibus autem impressis, quibuscum collationem instituimus. Veneta (a. 1589) et Berolinensi (a. 1703), quae in plerisque inter se conveniunt, tam capitulum divisione, quam ipso textu hic codex saepius differt. Incipit in cap. 22do (edit. laud. 21mo) et desinit in 148vo (edd. laud. 146.); sed deest in plagula prima pars cap. 24ti et 25ti et quae sunt inter priorem partem c. 29ni et finem c. 34ti.

XLI.

(N. 22. in 4to, olim in *Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 8.* in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 30, quorum primum nihil habet scripti. Continet *Samuelis fil. Se'adja fil. Motot* (בן מושט) *Com-*

mentarium super Aben Esrae commentarium in Pentateuchum; de quo vide Wolfium in Biblioth. Hebr. Vol. I. p. 1111. et Vol. III. p. 1113. Titulum libro suo fecit auctor: מגלת סתרים *volumen occultorum*; in nostro tamen codice, qui ad Genesim tantum et Exodum pertinet, neque libri nomen, neque auctoris occurrit, si excipias mentionem nominis Motot (fol. 2. r. lin 4. a fine), quae a librario facta esse videtur, auctoris libri, quem scribebat, non benegnaro. Et hoc quidem non mirum, cum ab impresso hand leviter recedat codex noster multisque supplementis auctus sit. — Exaratus est eodem fere caractere, quo codices XXXIII. XXXIV. XXXVI., adeoque a fol. 2., quod primum est ipsius libri, usque ad finem folii 15. eadem manu videtur esse scriptus, quae codex XXXIV. Minutissimo caractere scripta sunt, quae sequuntur inde a fol. 16. usque ad finem libri. Codex aqua hand leviter lacusus est, ita ut in parte libri hand exigua scriptura tantum non penitus deleta sit.

XLII.

(N. 23. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 9. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 8, continens *Spicilegium explicationum ad R. Salomonis (Isaacidae) commentarium in Pentateuchum*, non uno tempore scriptarum, sed ab anonymo scriptore, ut quid inter legendum visum est annotatione dignum, collectarum sensimque suppletarum. Id et codicis adpectus docet et ipse scriptor innuit, his verbis collectioni suae praemisissis: איננו הם ליקשר ביאורים על פירוש הומש רבנו שלמה זל שלקטתום הנה והנה והעתקתום הנה פרשה אחר פרשה והנחתו שיעור מעט בין פרשה לפרשה שאם אראה פירוש ביאור לכהבו לפרשתו. Scriptus est codex eodem fere caractere, quo codices XXXIII. XXXIV. XXXVI, et XLI.

XLIII.

(N. 9. in fol.)

Codex chartaceus in folio, constans foliis 206, praeter magnam tabulam libro adjectam et praeter alba folia ab initio et in fine voluminis; rabbinicis literis maximam partem conscriptus est, nonnusquam minusculis, tituli tantum, subscriptiones et similia quadratis literis. Figuris diligentissime atramento delineatis ornatus est codex, qui praeterea cum chartae magnitudine tum marginum latitudine et nitido scripturae caractere elegantiae studium omnino praese fert. Ligatus est tegumento pulchro corii rubri, laminis firmiter munito.

Exhibetur in eo liber argumenti cabbalistici, qui doctrinas continere dicitur *Isaaci Loriae* (seu *Luriae*), per discipulum eius *Chajjim Vital* traditas, (cf. Bartol. Bibl. Rabb. vol. II. p. 836. Wolf. Bibl. Hebr. Vol. I. p. 671. sqq.), ut titulus hic declarat, qui folio 1. r. quadratis literis inscriptus est:

ספר
עין החיים
מכוננת יד הח המקובל
אלקי מותרת היום וישראל
זלחה מדה שקובל מרבו
נ" בונית קדושה הרם
הגדול המקובל האלקים
מותרת יצחק לוריא זל
ה"ה אשכנזי י מדה שלמה
מיצר אלקה זל

מי האיש החפץ היום אהב
ימים לראות טוב יפתח את
אוצרו הטוב וימצא בו
ל שערות מלאים כל טוב
אני הסופר הצניח
ישראל

Ad dexteram huius tituli imago Mosis picta est, ad sinistram Aaronis; infra eundem Davidis et Salomonis, superne arca foederis. Sub imaginibus Mosis et Aaronis haec verba

leguntur, rabbinicis literis exarata, quibus scriptor libri nomen suum significavit:

אני הכותב ישראל בן אשכנז אשר זכר מקק סעלק
המדינה לרצת ה' יצא בן יצחק מאלטונה

i. e. "Scripti ego Israel fil. D. Ascher b. m. ex oppido Selz provinciae Litaviae, gener R. Juspae Buchbinder Altonani.

Duo, quae proxime sequuntur folia, 2. et 3, praefationes nonnullas minores exhibent. a Chajjim Vital et Meir Cohen Popers (מאיר כהן פאפירש, de quo cf. Wolf. l. l. Vol. III. p. 675. no. 1392.) scriptas.

Fol. 4. r. *questionem* exhibet a *Samuele Padua* Isaaco Loriae propositam huiusque responsum: השאלה ששאל החכם מה' שמואל פדווא אל החכם הרב המקובל אלקי נחמה יצחק לוריא ול הש"ב החכם הגדול השוכה זו :

Fol. 5. r. est *precatio* קודם הלימוד *ante institutionem facienda*, cum ornamentis geniorumque figuris scripta.

Folia 6. r., 7. r. et 8. r. tabulas exhibent sephirarum cabbalisticarum, eleganter descriptas et figuris ornatas. — Horum foliorum pariterque folii 1., 4. et 5. pagina altera, et fol. 9. utraque pagina nihil scriptum habent.

Post haec ipse liber sequitur, 182 foliis (10—191) constans, quae numeris hebraicis signata sunt, sed parum accurate, ita ut tota series foliorum 182 assequatur modo numerum קס"ב (168), quo signatum est fol. 191.

Liber, ut in titulo indicatum erat, in quinquaginta sectiones divisus est, quae שיעורים, *portae*, vocantur, quaeque singulae superscriptam habent peculiarem denominationem. Plerumque simul indicatur cuiusque sectionis numerus, raro vocibus numeralibus expressus, ut שיעור שבע fol. 27. v. שיעור ארבע fol. 47. r., alias literarum signis; at non tantum omissa est in nonnullis numeri notatio, ut in sectionibus 1. (post quam absolutam modo legitur כליק שער הראשון) 2. 3. 16. 28, sed ipsa etiam numeratio non satis accurate facta est; nam et sectiones quaedam in numeris indicandis pra-

termisae sunt, ut fol. 136. r. שער שבע עשר, quae notari debuisset num. ל"ד, quo signatur sequens sectio, fol. 137. v., et numeri quidam praetermissi, ut 25, 26, — sectionem enim כ"ד fol. 105. r. incipientem) sequitur כ"ז fol. 111. r. — et 49, — nam 48vam (שיער השמות fol. 183. r.) sequitur כ"ן fol. 190. v.; semel praeterea idem numerus duabus sectionibus tributus: כ"א fol. 87. r. et fol. 90. v. Postrema recte numeratur כ"ן. Novam paginam singulae sectiones plerumque, neque tamen semper, incipiunt. Habent illae plures paucioresve divisiones, quae fere semper vocantur nomine פרק, in sectione modo secunda שיעור; alibi nonnunquam appellatio פרק permutatur cum דרוש, numeratione aut continuata, ut ש"ב, quae post quattuor דרוש (1—4.) habet quinque פרקים (5—9.), aut singulari, ut ש"ב, quae primum octo פ' habet, deinde ד"ה 1—6.; cf. ש"ב. In titulis capitum plerumque, maxime in priore libri parte, indicatum est, quot singulae complectantur פרקים, sed non semper recte. — Praeterea hic illic exhibentur singulares tractatus et disquisitiones. In nonnullis locis diserte notatur, hoc vel illud repertum fuisse scriptum ab Isaaco Loria aut Chajjim Vital, aut audiendo traditum acceptum fuisse. Sectionum seu disquisitionum tituli in superiore margine singularum paginarum constanter adscripti sunt.

Adduntur in reliqua codicis parte disquisitiones et observationes breviores, ad theologiam cabbalisticam pertinentes. Et primum quidem sequitur tractatus, cui titulus:

הדרוש אה"א i. e. "de Adamo eiusque praestantia
אדם ומעלתו antequam peccavit, et de quattuor
קודם שיהיה sapientibus, qui ingressi sunt in
Paradisum";
שנתנו לפירוש

qui titulus, ornamentis circumdatus, fol. 192. r. exhibetur; ipsum tractatum tria sequentia folia continent.

Foliis 196—200. quæ, excepto 198vo, in priore modo pagina scriptum aliquid offerunt, continentur aliae disquisitiones breviores. Quod exhibetur fol. 196. secundum hæc verba superscripta: "זה שריך לשער הרושי עיגולים והיושר לעקב ב". pertinet ad partem secundam sectionis secundæ, cuius hic est titulus: הרושי עיגולים והיושר. — Pariter qui fol. 198. r. et v. legitur ספר מביא ספר מביא שערים, *liber ingressus portarum*, duobus capitibus constans, pertinet ad *portam* sive sectionem ארץ ארץ, quæ est decima quarta, fol. 63. r. Folio 201. nihil inscriptum est; neque priori paginæ fol. 202. Huius autem altera pagina tabulam exhibet, in qua *duodecim tribus Israëliticæ cum duodecim signis Zodiaci, mensibus anni, facultatibus sensualibus nature humane atque corporis membris componuntur*, sicut in hoc titulo superscripto indicatur:

אלו הם ים שבטים כננים ים
 מזלות בעולם ים הדשי בשנה
 ים הושים בטבע ים אברים
 באדם זה סדרם

E regione huius tabulæ. in folio 203. r., pictæ sunt duæ manus, dextera et sinistra, in quibus terni singulorum digitorum articuli literis signati sunt, addita explicatione.

Duo folia sequentia, 204. et 205. tabulas cabbalisticas offerunt. — Versa pagina horum trium foliorum, 203—205. et utraque folii 206. nihil habet; post hæc autem ad calcem codicis addita est magna tabula, sephiras cabbalisticas et figuras exhibens, trium foliorum magnitudine, (num. 207. signata).

Tituli sectionum et tractatum huius libri magnam partem congruunt cum iis, qui secundum conspectum operis עץ החיים, in Knorrii a Rosenroth Kabbala denudata. Tom. II. p. 10. sqq., ad duos primos e sex hujus operis tomis pertinent, qui titulos gerunt אוצרות הים et ספר הרושים; ita tamen, ut partim numerus tractatum apud Rosenrothium sit multo maior, quam sectionum in nostro codice. in primo tomo 21, in secundo

51. partim in nostro tituli reperiantur, qui illic desint. atque ordo etiam sit valde diversus.

Tempus, quo codex conscriptus sit, bis indicatum reperitur; primum ad calcem ipsius libri, fol. 191. v., ubi post absolutam sectionem 50. hoc legitur:

סליק ספר עץ החיים i. e. *Finitus est liber "Arboris vite" ope Dei, qui terram et coelum creavit, hodie die secundo festi Encaniorum 25to* (mensis Cisley) *anni 509.* (i. e. anno Christi 1749.)

Postrema enim litera ל indicare videtur vocem לפרט, neque vim numeralem hoc loco habere censenda est. Deinde in fine fol. 195. v. hoc scriptum est:

בב"ה בכסליו נגמרה מלאכת הקודש לסדר
 מקץ שנתים ימים ו' ולפרט ישראל
 נושע ב"ה השועה עולמים

i. e. *die 25to Cislev absolutum est opus sanctum ordine post elapsos duos annos, auno 509,* (i. e. p. Chr. n. 1749.) qui annus expressus est verbis e loco Jes. 45, 17. petitis.

XLIV.

(N. 2. in 8vo.)

Scheda chartacea, duorum foliorum, formæ 8væ, quæ literis quadratis inscriptum habet *carmen egregium, secundum nomina florum hominis* ad ordinem אלה שמנה compositum ab Ill. Cabbalista, Theologo Hispano, doctissimo *Mose Zachuth*, uti declarat titulus:

שיר נחמד על שמורת בני אדם
 לסדר אלה שמנה מוסר מן האתון
 המקובל אצלו ספרו חכם משה
 זכרתי זכ"ל

Praeterea auctoris nomen acrostichice quoque indicatur. Idem esse videtur poeta Judæicus, de quo agit de-Rossius in *Dizion. storico degli autori Ebrei*, Vol. II. p. 167. sq.

Omnia vocabula, e quibus compositæ sunt sedecim, quibus carmen constat, strophæ, nomina propria sunt hominum.

XLV.

(N. 24. in 4to.)

Codex membranaceus, in 4to min., foll. 12, quo continetur *Jacobi fil. Ruben*, Altonani. *Narratio de Judaeo homine, Salman ben Wolf*, qui anno 496. (p. Chr. 1736.) die sexto mensis Schebat, qui respondet mensi Januario, ad nudinas Kilienses profectus, instigante maligno quodam homine Kiliae injuste accusatus et in carcerem coniectus, sed post aliquod tempus liberatus sit. Libri titulus, ornamentis parum concinnis instructus, hic est:

ב"ה
והלויים
הסדני י"י

אשר לא בלז החמיר והסדני :
ולא יעווב המצפה המיר להסדני
ושורית יי לנגד המיר לזכור הסדני
בזה הספר הזכרון אשר עש' להסדני *
לפ" כ' ולמן בן וואלק א' בן עבדני :
נעשה זאת זכרון בספר לספ' הסדני
ונתחבר על הקטן שבקטנים אשר ועפ'
יעקב בן כ' ראובן יצ"ו
לפני
בהסדר ואמית' קדמו' פניך
לפ" **
נכתב ונמסר באלטונה

Fol. 1. v. legitur praefatio, quattuordecim versibus constans, quorum vocibus initialibus Judaeorum more nomen suum et patriam indicavit auctor: *אני הקטן יעקב בן ראובן יצ"ו באלטונה :*

Fol. 2. r. — 12. r. continent ipsam narrationem; fol. 12. v. leguntur poemata duo, quae Deum propter liberationem et auxilium praestatum celebrant. In priore carmine artificiosa ratione vocibus versuum initialibus

*) I. e. להסדני .

**) Ita videtur esse scriptum.

exprimuntur nomina auctoris et Salmani ben Wolf, itemque vocibus finalibus ejusdem hominis nomen Hebraicum: *שלמה בן ברוך*. In altero carmine idem loquens introducit.

Codex praeter titulum, voces initiales et similia, quadrato caractere scripta, rabbinicis literis exaratus est.

XLVI.

(N. 3. in 8vo.)

Exemplaria quaedam membranacea *instrumentorum et formularum*, quibus certa quadam ratione scriptis in variis vitae occasionibus utuntur Judaei hodierni.

1. *Litterae contractus matrimonialis* (שטה כתיבה) inter R. Jacobum fil. Israel et virginem, cui nomen Schena filia R. Menachem, cognomine Menke; rabbinico caractere Havniae scriptae die tertio mensis Cislev a. 5487. (p. Chr. 1727.), subscriptis testium nominibus.

2. Similes *litterae contractus* inter R. Nathan fil. R. David et virginem, cui nomen Peska filia R. Simson; caractere quadrato scriptae Altonae die 18. mensis Ijjar a. 5511. (p. Chr. 1751.) Adest testium subscriptio.

3. *Litterae repudii*, quibus Jacobus quidam, fil. Mosis, dimitti declarat uxorem suam, cui nomen Ela filia Samuelis; scriptae Altonae die vicesimo mensis Elul a. 5533. (p. Chr. 1773.) Deest subscriptio testium.

4. Folium quadratum, continens locos Deut. 6. 4—9. et 11, 13—21., more *Mesusae* scriptos.

5. *Amuletum* (קמית). folium quadratum, altero latere eosdem illos Deuteronomii locos exhibens, altero preationem, e cabbalisticis formulis compositam; scriptum in usum Leae cujusdam, filiae Gitil.

6. 7. Exempla duo tabulae varios V. T. locos exhibentis, ad imitandam candelabri sacri figuram compositos.

CODICES ARABICI.

CORANI, CORANI PARTES ET FRAGMENTA.

I.

(N. 1. in fol., olim N. 17. in fol.)

Coranus, fol. min., foliorum 106. chartae orientalis antiquissimae, non laevigatae, caractere Neschi non eleganti et parum expedito scriptus, temporis iniquitate vehementer laesus, ab initio et fine mutilus, ligatura privatus, sed capsula chartacea inclusus. Incipit fol. 1. r. a verbis وما تفعلوا Sur. 4, 126. Hinckelm., deficit fol. 106. v. in voce بعلمه Sur. 35, 12. Exciderunt praeterea folia quattuor: unum post fol. 44 (Sur. 12, 10—36.); unum post fol. 97. (Sur. 29, 31—60.); duo post fol. 98. (Sur. 30, 22—31, 17.) Fol. 6. paene totum evulsum est et fol. 23. r., quod desinebat olim in Sur. 7, 162. primis verbis, quae jam perierunt, excipiunt fol. 23. v. Sur. 1. et alia nonnulla, quae huc non pertinent, atramento pallido et pessima manu scripta; fol. 24. r. autem Sur. 7, 162. continuatur.

II.

(N. 2. in fol., olim N. 56. in 4to.)

Coranus, fol. min., foll. 338. chartae orientalis firmissimae, char. Neschi bene scriptus, optime conservatus. Integrum Coranum tenent folia 5—334., ita ut fol. 5. r. et 334. v. nihil scriptum sit, primae vero et ultimae binae paginae (fol. 5. v. 6. r. et fol. 333. v. 334. r.) auro et variis coloribus eleganter ornatae sint.

Praeterea fol. 159. v. et 160. r., in quo incipit Sur. 18. (الكيف), margine variis coloribus picto distincta sunt. Quaterna folia Corani corpus integrum et praecedunt et sequuntur; quorum bina illa, quae proxime ipsum librum attingunt, foll. 3. 4. et 335. 336., nihil scriptum habent, aut certe habere debebant; nam nunc quidem fol. 336. v. inscripta est Sur. 111. (ثبت) cum praecedentis capitis fine et formula بسم الله, insequenti superscripta, sed ita ut inversae paginae haec omnia inscripta sint nec ultra paginae dimidium procedant. Priora vero et posteriora codicis folia bina Corani initium et finem repetunt, ita ut fol. 1. v. Sur. 1. legatur, fol. 2. r. et v. Sur. 2, 1. sqq., usque ad v. 14. verba ويمد في, in quae desinit pagina. Fol. 337. r. incipit a verbis في دين الله Sur. 110. 2. et desinit in vocem ون Sur. 113, 3.; fol. 337. v. integram Sur. 113., 338. r. Sur. 114. continet.

III.

(N. 3. in fol., olim in Biblioth. Univ. Haun.

N. 4. in fol.)

Coranus, fol., foll. 243. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Ab initio deest Sur. prima. Incipit Sur. 2. fol. 1. r. Desunt praeterea post fol. 49. a Sur. 5, 26. voce علينا usque ad Sur. 7, 23. vocem مستقر; post fol. 177. Sur. 36, 17. a voce تلتبوا usque ad v. 51. voces ذذا; post

fol. 195. a Sur. 42, 24. vocibus ما تفعلون usque ad Sur. 43, 50. voces يا قوم. Explicit liber fol. 243. r.; ultima tamen Surata et paenultima dimidium alia manu suppleta sunt.

IV.

(N. 1. in 4to, olim N. 1. in 4to.)

Coranus, 4to, paginarum 663., in charta orientali char. Neschi satis eleganter scriptus, sed parum emendate. Interciderunt hic illic folia nonnulla; inserta tamen sunt ad suppleudas ejusmodi lacunas alia folia, ex aliis Corani exemplis desumpta, sed ut accidere solet, lacunis illis non accurate respondentia, sed fere tantum. Sic insertae sunt paginae 462—477.; 484—487.; 500—503. et 628—663. Praeterea post pag. 191. insertum est folium unum optime exaratum, paginarum numeris non signatum, quo continentur eadem, quae leguntur a pag. 190. lin. paenult. usque ad pag. 193. lin. 4. — Usque ad finem pag. 79. ab Europeo aliquo homine versuum numeri adscripti sunt in margine, et annotationes Latinae haud paucac, interpretationem maxime tectus Arabici trium priorum Corani capitum exhibentes. In fronte libri inscriptum legitur nomen C. P. Müller et annus 1719.

V.

(N. 2. in 4to, olim N. 39. in 4to.)

Coranus, 4to, foll. 319. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene exaratus, temporis iniquitate vel usu aliquantum laesus. In fine codicis, fol. 319. r., legitur subscriptio scribae محمد الجوخنى.

VI.

(N. 3. in 4to, olim N. 55. in 4to.)

Coranus, 4to, foll. 396. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis magno et expe-

dito, recentiore manu, ni fallimur, Turcica, festinantius scriptus, ab initio et fine mutilus. Praemittitur fol. 1. r. et v. precatio Arabica, ita incipiens: تبارك الذى بيده الملك, cum subscriptione Turcica: تمت تمام اولدى. Fol. 2. r. incipit a verbo فرأشا Sur. 2, 20. Post fol. 7. perierunt sex circiter folia, Sur. 2, 77—104. Deinde pergit codex usque ad Sur. 66, 10. vocem primam. Reliqua desunt.

VII.

(N. 4. in 4to, olim N. 61. in 4to.)

Coranus, 4to, foll. 438. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus atque conservatus. Excipit ipsum Coranum, fol. 436. v., precatio, cui inscribitur: هذا دعاء ختم القرآن العظيم, quam sequuntur fol. 438. r. formulae nonnullae sacrae et fol. 438. v. lin. 4. alia precatio, cui titulus: صلوات شريف, usque ad finem paginae.

VIII.

(N. 5. in 4to, olim N. 69. in 4to.)

Coranus, 4to, foll. 285. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, sed temporis injuria aliquantum laesus. Post absolutum Coranum, fol. 285. v., repetitur Surata prima. Additur formula: صدق الله العظيم الح.

IX.

(N. 6. in 4to, olim N. 73. in 4to.)

Coranus, 4to, foll. 303. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, satis bene conservatus. Fol. 303. v. legitur subscriptio:

استغفروا الله الحکم ، من العصيان فى القلم ،
والحمد لله على التمام ، والمرسول افضل السلام ،

Infra notatur annus 967., quo forsan descriptum est exemplum.

X.

(N. 7. in 4to, olim N. 91. in 4to.)

Coranus, 4to, foll. 380. *) chartae orientalis tenuis, char. Neschi bene scriptus, sed aqua nonnihil laesus. Absolvitur *Coranus* fol. 375. r.; deinde sequuntur nonnulla, seriore manu festinantius scripta, et hoc quidem ordine: 1. fol. 375. r. 376. r. et v. formulae quaedam et preces, quales post absolutam *Corani* lectionem peragi solent: صدق الله العلي العظيم, atque alia similia. 2. Excipiunt ea fol. 376. v. in inferiore paginae parte pauca, quae ad traditionem de propheta pertinent et lectionem *Corani* spectant. 3. Post fol. 377., quod nihil scriptum habet, sequuntur nonnulla, Malaica lingua scripta et regulas de lectione *Corani* exhibentia, fol. 378. 379. Subscriptio additur, ultimas tantum paginas spectans, sed tantum non penitus deleta:

تمت كتاب حكاون - - - في يوم الخميس ،

XI.

(N. 8. in 4to, olim N. 48. in 8vo.)

Coranus, 4to, foll. 378. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Incipit *Corani* textus fol. 3. v. absolvitur fol. 377. v. Deinde sequitur in media pagina precatio, cui inscribitur: دعاء ختم القرآن, at non integra; abrumpitur enim fol. 378. r. lin. 5. post verba: يا ذا اليباء والامتنان. — Fol. 1. r. aliquis ex iis, qui hunc librum possederunt, Turcica oratione inscripsit praecepta nonnulla de lectione *Corani* cum precibus Turcicis, quas sequitur alia precatio Arabica. Alia leguntur, Turcice scripta, fol. 1. v.; sed haec omnia ad ipsum librum non pertinent.

XII.

(N. 9. in 4to, olim N. 65. in 8vo.)

Coranus, 4to, foll. 291. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, sed usu tritus. Deest ab initio folium unum, cui inscripta erat *Surata* prima.

XIII.

(N. 10. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 1. in 4to.)

Coranus, 4to, foll. 307. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, sed mediocriter conservatus. Lacunas enim, quibus abundabat codex, supplevit quidem recentior manus, sed nec eadem semper, nec eleganter ubique; et post *Sur.* 93. desiderantur reliqua.

XIV.

(N. 11. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 1. in 8vo.)

Coranus, 4to, foll. 286. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, sed usu tritus. Absolvitur *Coranus* fol. 284. v. Folia 285. et 286. fragmenta nonnulla Turcica continent. partim metricè scripta, partim pedestri sermone.

XV.

(N. 12. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 5. in 8vo.)

Coranus, 4to, foll. 347. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, usu aliquantum tritus. Primam codicis paginam, fol. 1. v., recentior manus supplevit.

XVI.

(N. 1. in 8vo, olim N. 14. in 8vo.)

Coranus, 8vo, foll. 317. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, satis bene conservatus. Incipit fol. 2. v., desinit fol. 317. r. Ultimae tres paginae seriore manu suppletæ sunt.

*) Numeris quidem signata sunt folia tantum 379., sed neglectum est signare folium unum, inter folia 8. et 9.

XVII.

(N. 2. in 8vo, olim N. 83. in 8vo.)

Coranus, 8vo, foll. 253. chartae Indicae non laevigatae, char. Neschi bene scriptus, inde a fol. 199. alia manu eleganti suppletus, bene conservatus.

XVIII.

(N. 3. in 8vo, olim N. 86. in 8vo.)

Coranus, 8vo, foll. 386. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, satis bene conservatus. In calce adscriptus est annus 1167. (Chr. 175 $\frac{3}{4}$.)

XIX.

(N. 4. in 8vo, olim N. 3. in 8vo.)

Coranus, 8vo min., foll. 386. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minusculo nitide scriptus, optimae condicionis, tegumento splendido aurato ornatus. Incipit ipse liber fol. 3. v., desinit fol. 385. v. Sequitur fol. 386. r. post بسم الله الح formula illa: صدق الله الح, eadem manu scripta, qua totus liber. — Fol. 1. v. legitur inscriptio Arabica haec:
 حدى هذا القرآن لحضرة الملك الكبير والخاقان
 الشيبير مولانا السلطان فريدرك الثالث ابن السلطان
 خرسنيان الرابع صاحب مملكتى دمرك ونورغ وما
 يليهما ادام الله تعالى ايام دولته وخلد ملكه وابد
 سلطنته ارسل من هولنده من مدينه ليده من
 العبد الفقير الحقير مقدسى عضا الله المعروف بابن
 ، الصخرى فى سنه ١١٩٤ ،
 Latina, isti respondens: "Serenissimo et Augustissimo Regi, Dn. Friderico III, Euergetae suo munificentissimo et Domino clementissimo, hunc Coranum *κεχαλλιγραφημένον*, ceu summae gratitudinis, pro multiplicis Regiae gratiae beneficiis, *τεκμηρίον*, humillime offert sacrae R. Majest. subjectissimus servus Theodorus Petraeus. Miss. Lugdun. Batav. 9. Decemb. Ann. 1664." — In operculi parte anteriore impressa leguntur verba: لا يسه الا المنظيرون

XX.

(N. 5. in 8vo, olim N. 22. in 8vo.)

Coranus, 8vo min., foll. 359. chartae orientalis, char. Neschi minusculo nitidissime scriptus, bene conservatus, tegumento splendido ex holoserico caeruleo ornatus, tribus praeterea involucris sericis et capsula chartacea inclusus. Incipit *Coranus* fol. 1. v., desinit fol. 357. v. Sequitur, foll. 358. 359., post verba بسم الله الح, seriore manu et majore caractere scripta formula illa: صدق الله الح. — Praemittuntur codici folia octo, numeris non signata, quorum ultimo inscripta leguntur haec verba: "Benaras D[istinct]ien Januar 1765. Peter Johan Flor." Pertinebat quondam hic liber ad collectionem Kratzensteinianam.

XXI.

(N. 6. in 8vo, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 6. in 8vo.)

Coranus, 8vo, fol. 396. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus.

XXII.

(N. 7. in 8vo, olim N. 4. in 8vo.)

Coranus, 12o, foll. 419. chartae orientalis, sed non ejusdem ubique originis, char. Neschi distincte, sed recentiore manu scriptus, bene conservatus et tegumento splendido instructus, cui impressa leguntur verba: لا يسه الا المنظيرون

XXIII.

(N. 8. in 8vo, olim N. 5. in 8vo.)

Coranus, 12o, foll. 328. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minusculo satis bene scriptus atque conservatus.

XXIV.

(N. 9. in 8vo, olim N. 6. in 8vo.)

Coranus, 12o, foll. 304. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, usu

aliquantum tritus. Adjicitur fol. 304. v. scribae nomen *حبي العبادحور* (sic) et annus 974. (Chr. 156 $\frac{1}{2}$.)

XXV.

(N. 10. in 8vo, olim in Bibl. Univ. Haun.
N. 7. in 8vo.)

Coranus, 12o, foll. 374. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus.

XXVI.

(N. 11. in 8vo, olim N. 8. in 8vo.)

Coranus, 12o, foll. 252. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minimo, sed distincto, nitide scriptus. Fol. 252. r., post absolutum librum atque formulam *صدق الله العظيم*, leguntur scriptionis annus (934. Hagrae) et nomen scribae: *قره كوز بن عبد ربه* (vel *بن عبد الله*: non enim liquet). Sequuntur deinde, fol. 252. v., char. Nesta'liq et alia manu. ut videtur, scripta precatio brevissima, incipiens: *اللهم انى توكلت عليك*, et nonnullae lineae orationis Persicae, ex parte tamen deletae.

XXVII.

(N. 12. in 8vo, olim Kallianus N. 653.)

Coranus, 12o, foll. 229. chartae orientalis, char. Neschi minuto bene scriptus, bene conservatus. Incipit *Coranus* fol. 1. v., clauditur fol. 228. r. ubi habes in subscriptione nomen scribae: *احمد بن محمد بن محمد القدسى الحنفى*, et finitae operae tempus: diem 22. mensis Rebi' posterioris a. 846. (Chr. 1442.) Fol. 228. v. in summa pagina recentiore manu scripta est explicatio brevis compendiorum nonnullorum, quibus ad designandas pausas in recitando *Corano* observatas uti solent scribae; quam sequitur ipsius codicis, ni fallimur, manu exarata precatio *صدق الله*, usque ad finem fol. 229. — Praemittitur codici inscriptio Au-

gusti Pfeifferi. theologi quondam et lingg. orientt. professoris Lipsiensis, qui hunc librum donavit S. W. Schluetero, theologo Lauenburgensi.

XXVIII.

(N. 13. in 8vo, olim N. 81. in 8vo.)

Coranus, 12o, foll. 386. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minimo et nitidissimo scriptus, optimae condicionis. Incipit fol. 1. v., desinit fol. 385. v., ubi in subscriptione habes scribae nomen, *Derwisch Muhammed el-Mewlewi Angurawi* (*انقروى*) i. e. Ancyrensis, et scriptionis tempus, mensem Gumada posteriorem a. 1030. (Chr. 1621.) Fol. 386. r. legitur documentum, a. 1098. scriptum, ex quo constat, *Corani* hoc exemplum piis usibus esse legatum (*وقف*) a beato Musztafa bin Ismâ'il.

XXIX.

(N. 14. in 8vo, olim N. 76. in 8vo.)

Coranus, formae minimae, foll. 121. chartae orientalis non laevigatae, char. Neschi minutissimo, sed parum eleganti, absque punctis vocalibus scriptus, bene conservatus. Fol. 1. r. legitur *Corani* Surata 1., quae repetitur fol. 1. v. Sed haec et quae proxime sequuntur e cap. 2. caractere paulo majore scripta sunt, minutissimus ille fol. 2. v. demum adhibetur. Praemittuntur codici duo folia, numeris non signata, quorum priori inscriptum est: "Hic *Coranus* *λεπτόγραμμος* Bibliothecae Regiae inseratur, submitte oblatas a S. R. Majest. subjectissimo Theodoro Petraeo. Lugd. Bat. 9. Jul. An. 1665."

XXX.

(N. 13. in 4to, olim N. 51. in 8vo.)

Corani sectio I. (*الجزء الاول*), Sur. 1, 1—2, 135., 4to, foll. 41. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis magno eleganter et luxuriose scripta, ita ut spatium amplum inter binas lineas intercedat et senae tantum

lineae in singulis paginis reperiantur; codex bene conservatus.

XXXI.

(N. 4. in fol., olim N. 54. in 8vo.)

Corani sectio IX., Sur. 7, 86—8, 41., fol. min., foll. 23. chartae laevigatae, char. Neschi bene scripta, minus bene conservata. In margine primae paginae (fol. 1. v.) scripta est precatio, jam iniqua libri nitidissimi tractatione ex parte deleta. Desinit codex in fol. 22. v. Ejusdem exempli partes XII. et XIV. habes in codd. XXXII. et XXXIII., quorum descriptio sequitur.

XXXII.

(N. 5. in fol., olim N. 55. in 8vo.)

Corani sectio XII., Sur. 11, 8—12, 52., fol. min., foll. 22. In margine paginae primae, (fol. 2. v.) eadem legitur precatio, quae in cod. XXXI. adscripta erat; in calce libri (fol. 22. v.) additur tritum illud:

صدق الله العظيم ، وبلغ رسوله الكريم ،
ونحن على ذلك من الشاعدين ،

Ad idem Corani exemplum pertinuit, ejus partes fuere codd. XXXI. et XXXIII.

XXXIII.

(N. 6. in fol., olim N. 56. in 8vo.)

Corani sectio XIV., Sur. 15. et 16., fol. min., foll. 21. In margine paginae primae (fol. 1. v.) repetitur eadem precatio, quae legitur in codd. XXXI. XXXII. In fine, fol. 20. v., seriore manu eaque pessima subscripta est formula: صدق الله الخ .

XXXIV.

(N. 14. in 4to, olim N. 82. in 8vo.)

Corani sectiones XXVIII., XXIX. et XXX., Sur. 58—114., 4to, foll. 53. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi manu recen-

tiore bene scriptae. Incipit sectio XXVIII. fol. 1. v.; XXIX. fol. 18. v.; XXX. fol. 35. v. Fol. 52. r. subjungitur Sur. 1., quam excipit formula incipiens: التحيات لله , desinens fol. 52. v. Fol. 53. r. scriptum est: "R. P. Thomas a Sto. Joseph Ambianus, Visitor generalis Montis Carmeli, hunc librum attulit ex Alep urbe Turcarum die 13. Julii Anno Dni 1647."

XXXV.

(N. 15. in 8vo, olim N. 85. in 8vo.)

Corani pars, 12o, foll. 158. *) chartae vetustae Europaeae, ut videtur, char. Mauritico, non quidem eleganti, sed distincto scripta, usu trita. Fol. 1. v. legitur Sur. 1.; deinde sequuntur Sur. 53—114., sed ita ut unicuique fere capiti subjungatur annotatio ex traditione Muhammedica, ad quam introducendam plerumque serviunt hujusmodi formulae: وجاء في الحديث الصحيح ، وعند صلعم . vel: وقال صلعم ، vel: وعند صلعم . Non adscripta est annotatio capitibus 63., 68. et 114. Sur. 57. (fol. 30. r.) peculiaris subscriptio subjuncta est: كملته (sic) السورة والمجد لله الخ . Post fol. 36. aliquid excidisse videtur; ibi enim Sur. 58. non ultra vocem بالله , v. 22., progreditur, et fol. 37. r. annotationis Sunniticae ad hanc Sur. conclusio tantum legitur. Explicit Sur. 114. fol. 156. v.; deinde sequitur subscriptio, incipiens: تمر الثمان et desinens fol. 157. r. — Fol. 157. v. beati Adleri manu inscriptum est: "Variae Corani suratae pessime scriptae"; quod non verum.

XXXVI.

(N. 4. codd. Cuficorum.)

Fragmentum Corani membranaceum, char. Cufico litteris minusculis nitidissime scriptum,

*) Numeris signata 157. tantum reperiuntur, sed neglectum est signare folium unum, inter foll. 73. et 74.

**) Ita scriptum est in codice. Pro الثمان sine dubio scribendum erat الثمانى .

fol. 12., aliorum novem pollices cum dimidio, quattuordecim et dimidium latorum. Fol. 1. r. incipit a verbis ما كن أبوك Sur. 19, 29. Hinckelm. Post fol. 10., desinens in verbis في الصور وحشر Sur. 20, 102., desunt folia duo. Pergit enim fol. 11. verbis ما بين أيديهم Sur. 21, 28. Desinit fol. 12. v. in voce وئاله Sur. 21, 58. Lineolis notantur in hoc codice litterarum signa diacritica; vocalium puncta rubro colore appingi solent; signa orthographica videntur esse neglecta. — Fol. 1. r. in ima pagina legitur: "Cairi 1626. 18. Martii. 7."; fol. 12. v. in summa pag.: "Friderici a Bockwoldes". — De hoc libro cf. Adleri descript. codd. quorundam Cuficorum, (Altonae, 1780. 4to) pag. 22. Uberiorem descriptionem habes atque accuratiorem apud Lindbergium in libro, cui titulus: Lettre à Mr. Bröndsted sur quelques médailles Cufiques et sur quelques manuscrits Cufiques. Copenh., 1830. 4to, pag. 59. sq. Specimen scripturae accurate delineatum adjecit vir doctissimus, Pl. XII.

XXXVII.

(N. 2. codd. Cuficorum.)

Fragmentum Corani membranaceum, char. Cufico litteris minoribus et atramento pallidiore scriptum; folia habet 58., quinque pollices et novem lineas alta, novem pollices lata. Fol. 1. r. incipit a verbis قلنا لا تخف Sur. 20, 71.; desinit fol. 56. r. in verba, quae claudunt Sur. 23, 57. Adjicitur tamen in fine paginae vocabulum ايه, auro obductum et aureo circello inclusum; quod quid hic sibi velit, non assequor.*) Fol. 55. v. 56. r. ornamentis aureis distincta sunt; fol. 56. v. 57. r., quae nihil scriptum habent, variis ornamentis pictis et aureis omnino occupantur. Fol. 57. v. nihil habet praeter nomen "Friderici a Bockwoldes",

*) Fallitur Lindbergius autumans hoc vocabulo indicari finem unius e triginta sectionibus Corani; tota Sur. 23. pertinet ad sectionem XXVIII.

quod legitur in summa pagina. Fol. 58. v. recentiore manu, litteris ad char. Neschi prope accedentibus, negligenter scripta sunt haec verba: ائومنين مايه وتسع عشر اية, ad cap. 23. inscriptionem pertinentia. Alia nonnulla addidit alia manus, sed tam male picta, ut legi vix possint. — In hoc codice litterarum signa diacritica notantur lineolis, vocalium puncta rubro colore: negliguntur signa orthographica. Cf. Adleri descriptionem, l. l., pag. 21.; uberiorem Lindbergii descriptionem, l. l., pag. 65. sq. Specimina codicis habes apud Adlerum, Tab. II., et apud Lindbergium, Pl. X.

XXXVIII.

(N. 3. codd. Cuficorum.)

Fragmentum Corani membranaceum, char. Cufico litteris minoribus bene scriptum; folia habet 56, sex fere pollices alta, novem lata. Incipit fol. 1. r. a verbis [ز] الحق وكنم انويل Sur. 21, 18. Post fol. 7., desinens in voce [ن] ينظر Sur. 21. 41., deest folium unum. Fol. 8. incipit a voce [ن] يتكلمون Sur. 21. 44. Desinit codex fol. 56. v. in vocibus [ن] [ن] محضه ان Sur. 22, 62. Notantur lineolis litterarum signa diacritica, rarius vocalium puncta, rubro colore appicta; non vero signa orthographica. Notabilis in hoc codice indicatio frequens lectionum variarum; signis enim litterarum diacriticis, atramento scriptis, et vocalium punctis rubris subjunguntur alia, viridi colore picta. Cf. Adlerum, l. l. pag. 22. Lindbergium, pag. 62. sqq. et Pl. VIII.

XXXIX.

(N. 7. codd. Cuficorum.)

Fragmentum Corani membranaceum, char. Cufico. litteris majusculis bene scriptum, sed haud leviter laesum, foll. 58., quinque fere pollices altorum, novem latorum. Ab initio libri in tegumenti parte interiore inscripsit nomen suum b. Frid. Münter, S. R. Selandiae

episcopus, ex cujus bibliotheca in Bibliothecam Regiam migravit hic liber. Addidit Münsterus haec verba: "Munus Danielis Dumreicher, Danorum in Aegypto proxeni. Hafniae, MDCCCXXVI." Praeterea idem Münsterus praemisit notitiam de Corani partibus, quas codex exhibet. Incipit fol. 1. r. a verbis [و]جدنا ابناءنا Sur. 21, 54.; deficit fol. 58. v. in verbis [و]لكن يناله [التقوى] Sur. 22, 38. Puncta diacritica rarissime apparent; vocalium signa, rubro colore picta, saepius adjiciuntur; signa orthographica nulla. Attamen ubi litterae hamzatae tribuenda erat vocalis, viridi colore hanc appinxit scriptor, non rubro; ubi simul exprimenda erat nunatio, viridi colore alterum expressit vocalis signum, alterum rubro. Lectiones variae simili modo notantur, ut in cod. nostro XXXVIII., ita ut variis coloribus varietas vocalium exprimatur, et signorum diacriticorum, adeoque litterarum consonantium; de qua re vide descriptionem uberiorem Lindbergii, l. l. pag. 56. sqq. Specimen quoque is dedit ibidem, Pl. VI.

XL.

(N. 5. codd. Cuficorum.)

Fragmentum Corani membranaceum, char. Cufico majore bene scriptum, minus bene conservatum; folia sunt 31. *), novem fere pollices alta, duodecim cum dimidio lata. Incipit fol. 1. r. a verbis [و]اوينالجا الى ربوة Sur. 23, 52.; desinit fol. 31. in verbis [و]مغفرة ووزق Sur. 24. 26. Adsunt puncta diacritica, lineolis notata; saepe etiam vocalium signa, rubro colore picta, et nonnunquam, ubi locus erat Hamzae, viridi; notae orthographicae negliguntur. Variae lectiones indicantur haud raro, eodem quem diximus modo. Cf. praeter Adlerum, l. l. pag. 22., descriptionem Lindbergii, pag. 60. sqq., cui scripturae specimen adjecit.

*) Apud Adlerum, l. l. pag. 22., 29 tantum folia numerantur; vid. notam ad cod. XLII.

Pl. XI. — E codice nostro XLII. (N. 6. codd. Cuficorum) tria folia ad hunc codicem pertinere, primus animadvertit Lindbergius.

XLI.

(N. 1. codd. Cuficorum.)

Fragmenta Corani membranacea, char. Cufico, litteris maximis, atramento nigerrimo nitide scripta; folia sunt 36. *), septem pollices et novem lineas alta, undecim lata. Quattuor habes ejusdem codicis fragmenta: 1) Fol. 1—3. a verbis [و]اخي الله Sur. 59, 17. usque ad [و]السلام [و]من Sur. 59, 24. Desunt deinde folia duo; pergit enim codex: 2) fol. 4. r. verbis [و]قد كنت تكلم Sur. 60, 4. et desinit fol. 34. v. in vocibus [و]ما في السموات [و]ما Sur. 64, 1. 3) Fol. 35. incipit a verbis [و]حدث بعد ذلك Sur. 65, 1., desinit in [و]يومين [و]اليوم Sur. 65, 2. 4) Fol. 36. denique, in margine laesum, e Sur. 66. continet versus primi vocem extremam [و]رحيم, versus 2. et tertii partem, ita ut desinat in vocibus [و]واعرض عن. — Fol. 36. v. in ima pagina scriptum est nomen Friderici a Bockwoldes. Litterarum puncta diacritica paene nusquam apparent; vocalium signa saepius appinguntur rubro colore, et nonnunquam, ubi locus erat Hamzae, flavo. Plerumque tamen signum Hamzae lineola rubra notatur, adjecto saepe puncto caeruleo, vocalem designante; eademque lineola, signum Hamza denotans, vel tum appingitur, cum locus erat Waszlac, ut recte exposuisse videtur Adlerus, l. l. pag. 32., a cujus sententia non erat quod recederet Lindbergius. Signum quoque Teschdid rubro colore eademque forma notatur, qua in scriptura Neschi, ita tamen ut ipso loco, quem occupat sive supra litteram, sive infra, sive in media linea, simul vocalis indicet naturam. Cf. Adlerum, pag.

*) Apud Adlerum, l. l. pag. 21., 31 tantum numerantur folia.

21. 32. sq.; Lindbergium. p. 61. sq. cum specimen Pl. IX.

XLII.

(N. 6. codd. Cuficorum.)

Fragmenta Corani membranacea, char. Cufico litteris majoribus bene scripta; folia 6.*), octo fere pollices alta, lata pollices duodecim cum dimidio. 1) Fol. 1. v. continet lineas quattuor, auro ornatas, quae Corani quidem partem non exhibent, sed loco tituli ad introducendum librum sacrum inservisse videntur, aut, quod veri similis, in fine codicis Coranici ad clausulam formandam. Lecti sunt difficillimae hae lineae; e prioribus duabus haec mihi videor eruisse:

الله - عذابه لا يحل لاحد من ا
مسلمين ان - ولا - له فلا - فلا

Ultima vox lin. quartae fortasse legenda est: *لغيره*. — Fol. 1. v. ornamentis aureis pictisque repletum in media pagina offert verba: *صنعه الرحمن الحسن بن*, quae verba complere debebant sine dubio in pagina sequenti nomen patris el-Hasani et id genus alia.***) In margine superiore leguntur verba: *بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين*; in inferiore: *الرحمن الرحيم ملك يوم اياك نعبد واياك*; Sur. 1. initium, omissis tantum per incuriam vocabulo *الدين* post vocem *يوم*. Reliqua ejusdem capituli pars sequi debebat in pag. sequenti.

2) Fol. 2. continet Sur. 15, 19—21. a verbis *[والا]رض مددناها* usque ad verba *وما ننزله*. Adsunt vocalium signa rubro ple-

*) In Catal. Bibl. Reg. MS. numerantur folia 3.; veri simile est, duo folia, quae quondam huic cod. juncta fuere, jam ad cod. ZL. esse relata, qui Adleri tempore erat foliorum 29., nunc est foll. 31. Sed tria folia, quae adhuc cod. nostrum XLII. claudunt, ad eundem illum referri debebant, cujus partem olim ea fecisse, recte vidit Lindbergius.

**) Errat Lindbergius, l. l. pag. 55., legens: *صنعة الحسنين*, quod vertit: "artificium pulchritudinum".

rumque colore picta et. ubi locus erat Hamzae, viridi. Raro notantur puncta litterarum diacritica, et recentiore quidem manu; cf. Lindbergium. l. l. p. 55. sq. et Pl. V.

3) Fol. 3. continet Sur. 2, 16—18. a verbis *لا يصحرون* usque ad verba *من الصواعق*. Vocalium signa rubro plerumque colore, puncta diacritica lineolis colore viridi pictis notantur et sic quoque signum Teschdid, vocalis simul locum tenens. Cf. Lindbergium, l. l. pag. 58. sq. et Pl. VII.

4—6) Foll. 4—6. pertinent ad codicem nostrum XL., quod recte vidit Lindbergius. Continet autem Fol. 4. Sur. 3, 96—99. a verbis *بيينا الذين* usque ad vocem *وكنتم*; fol. 5. Sur. 24, 47—50. a verbis *فريق منهم* usque ad *قول المؤمنين*; fol. 6. Sur. 24, 58. 59. a verbis *كما استاذن* usque ad *خير لهن*. Cf. Lindbergium, l. l. pag. 60. sqq.

In fine codicis adjiciuntur litterae illae el. viri *Fourmont*, quas partim publici juris fecit Adlerus, l. l. pag. 22. sq. Agunt cae de hujus codicis foliis 1. et 2. et de duobus aliis, quae jam codici XL. adjuncta esse suspicamur; sed produnt litterae auctoris in his rebus ignorantiam.

XLIII.

(N. 7. in fol.)

Corani fragmentum, formae maximae. Folia sunt duo chartae orientalis crassae et laevigatae, ejusdem exempli magnifici particula, cujus fragmenta ampliora. Dresdae in Bibliotheca Regia et Lipsiae in Bibl. Senatoria asservata. uberius descripsit Ill. Fleischer; vid. Catalog. codd. MSS. orientt. Bibl. Reg. Dresd. pag. 74. n. 444. et Catal. libb. MSS. Bibl. Senat. Lips. p. 352. sq. n. XXXVII. Scriptus erat codex ille caractere *ṭulṭi* maximo aureo et variis coloribus ornamentisque implicato, Baghdadi a. 706. (Chr. 1306.), jussu imperatoris Mogolici Oelgaitu-Chân Chudâbende Ghijâḍ-eddin Muhammed, Čingiz-Chânidae. —

Foliorum ordo in hac nostra particula inversus est; posterius enim incipit a voce بالآخرة Sur. 41, 7. Hinckelm., et desinit in extrema voce versus 9.; prius incipit a versu 10. et desinit in voce صاعقة, v. 13. — Annota-

mus, figuram signi orthographici Waszl ita in hoc codice esse efformatam, ut litteram Szád accurate referat; est enim illud signum vocis صلة compendium.

CODICES DE INTERPRETATIONE CORANI.

XLIV.

(N. 8. in fol., olim N. 31. in fol.)

Commentarii in Coranum fragmenta duo, fol., foll. 160. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi nitidissime scripta. Folia tantum 11—13. alia manu minus eleganter suppleta sunt; sed fol. 13. v. ne dimidiam quidem paginae partem occupat scriptura, ita tamen ut non sit lacuna inter hujus supplementi extrema verba et folium sequens. Corani verba, ad quae pertinet commentarius, partim rubro colore scripta, partim auro obducta sunt, saepissime vero librarius explere lacunas, textui destinatas, neglexit. Incipit fragmentum prius fol. 2. r. in media explicatione Sur. 9, 43., et ab his quidem verbis: صرّيج في انه سبحانه وتعالى. Desinit fol. 24. v. in explicatione Sur. 10, 20. init., in verbis: من غير اختلاف وذلك من. — Alterum fragmentum, a fol. 25. r. usque ad finem codicis, fol. 160. v., continet commentarium in Sur. 2, 92—4, 139. Incipit ab his verbis: وكفر بما معه من الكتاب, desinit in verbis: وقرئ شاذًا مثلهم بالفتح لاصافنه الى غير متمكن كقوله تعالى مثل. — Auctoris nomen non proditur. Neque Beidhâvium esse, neque Zamach-scharium, constat. Viri docti, quibus major librorum Arabicorum copia praesto est, ut possint comparatione instituta cum aliis commentariis, favente numine, indicare auctoris nomen, subjungimus hoc loco initia capitum Corani tertii, quarti atque decimi. Cap. III.

(fol. 74. v.): امر الله لا اله الا هو قد سلف ان ما لا يكون من هذه الفوائج مفردة كصاد وق ونون ولا موازنة مفرد كما ميم وطا سين ويا سين الموازنة لتقاييل وعابيل وكطا سين ميم الموازنة لدارججرد حسبما ذكره سيبويه في الكتاب ،

Cap. IV. (fol. 121. v.): يا ايها الناس خطاب يعمر حكم المتكلمين عند النزول ،

Cap. X. (fol. 18. v.): آثر بتفخيم الرآء المفتوحة: وقرئ بالامالة اجراء للاصلية مجرى المنقلبة عن اليباء وقرئ بين بين ،

XLV.

(N. 15. in 4to, olim N. 41. in 4to.)

Iszám ed-dini annotationes ad Beidhâvii commentarium in Coranum, 4to, foll. 420. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scripta; codex bene conservatus. Fol. 1. r. inscriptum est, sed non ab ipsius codicis manu: هذه حاشية مولانا عصام الدين على تفسير القاضي البيضاوي نفع الله تعالى بنا امين ، Praefationis initium, fol. 1. v., iis verbis fere respondet, quae laudat 'Häg'i Chalfa, edit. Flügel. vol. I. p. 477., tantum quod in codice perperam scriptum videtur: بارفاد et الفرقان est pro القرآن. Auctoris nomen sic exhibet praefatio: ابراهيم بن محمد بن عريش[ه] الاسفاني (sic) المشتتم بعصام الدين. Inscriptis hunc librum Sultâno Suleimân bin Selim bin Bâjezid. Mortuus est Samarqandae, a. h. 943. (Chr. 1536 $\frac{6}{7}$.) Incipiunt annotationes ad Beidhâvii praefationem

fol. 2. r. extr. et desinunt in fine suratae 5. Deest Sur. 6., ad quam annotationes 'Iszâm ed-dîni pertigisse docet 'Hâg'î Chalfa, itemque Sur. 78—114. Fol. 419. r. in fine suratae تمت المائة legitur subscriptio ita incipiens: تمت المائة ورحمت الغايدة وحمد الله على الانعام cet. Librarii nomen non additur, neque scriptionis annus.

XLVI.

(N. 9. in fol.; olim N. 30. in fol.)

Appendix ad commentarium Beidhâwî in Corani Sur. I., auctore *Mu'hammed Emin bin Szadr ed-dîn e's-'Sirwâni*; fol., foll. 85. chartae orientalis laevigatae, char. Nestâliq bene exarata, bene conservata. Auctoris nomen exhibet praefatio, fol. 1. v., cuius prima verba laudat 'Hâg'î Chalfa, ed. Flügel. vol. I. p. 479. Idem mortuum esse perhibet Eminum a. h. 1020. (Chr. 1611.); num recte, dubitare licet. In fine enim codicis, fol. 85. r., legitur subscriptio, ita incipiens: تم ما يتعلق بسورة الفاتحة, in qua notatur absolutae operae locus atque tempus: Constantinopoli, mense Rebi' priore a. h. 1034. (Chr. 1624.) Deinde vero sequuntur haec: ويتلوه انشاء الله ما يتعلق بسورة البقرة وقد كنا يكتب [نكتب] قبل هذا التاريخ بعشرين سنة على سورة الفاتحة ما يتعلق بحل مواضعها المشككة لكن الآن وقع تبديل كثير وتفسير غير يسير والتعويل على الاخير والله على كل ما يشاء قدير. Quibus verbis manifesto docet ipse libri auctor, novis curis emendatam hanc prodire operam, ejus primam editionem viginti annis ante jam paraverat, et ad secundum quoque Corani caput commentarii appendicem Deo volente sese editurum. Quod cum ita se habeat,

ea etiam, quae praecedunt, scriptionis tempus (a. 1034.) indicantia, ipsius auctoris verba esse, veri simile est, repetita, ut saepe fit, a librario. Firmatur haec conjectura eo, quod altera quaedam sequitur annotatio, scriptionis tempus ita indicans: وتم في اواخر شيم جمادى الاخر من شهور وثلثين والف, سنة. Spatium inter voces سنة وثلثين, relictum est vacuum. Additur denique scribentis nomen موسى بن شيخ امين, qui videtur esse auctoris filius. Sed ne hunc quidem nostrum codicem scripsisse inde colligitur, quod anni designatio ex parte relicta est imperfecta, quod sane fieri vix potuit, nisi librarius quidam ex alio codice haec omnia transscribens incidisset in vocabulum tam male pietum, ut omittere illud satius duceret.

XLVII.

(N. 10. in fol.; olim N. 19. in fol.)

Commentarius in loca difficiliora Corani, auctore *'Abu Abd allah Mu'hammed bin 'Ali e's-'Sâtibi*; fol., foll. 133. chartae recentioris Europaeae laevigatae, char. Neschi distincto scriptus. Fol. 1. r. legitur inscriptio: هذا كتاب التفسير (sic) القرآن للامام الشاطبي رحمه الله تعالى (sic) ونفعنا به امين 1174 ام. Alia inscriptio fol. 1. v. ante praefationem minio exarata est: كتاب الانبياء في شرح مشكلات الكتاب مما اتفه بعض من المتأخرين وهو الشاطبي الامام العارف بالله ابو عبد الله محمد بن علي الاندلسي الحاج الشاطبي انتزوري رحمه الله. Incipit praefatio his verbis: احتجب بشده ظنوره عن ان تدرك الابصار, Ipse commentarius ad sur. 1. incipit fol. 7. r., desinit fol. 133. v. in sur. 83. in quam commentarius ad finem non perductus est.

CODICES PRECATIONES AUT CONTINENTES AUT SPECTANTES.

XLVIII.

(N. 16. in 4to; olim N. 27. d. in 4to.)

Tractatus de arcanis invocationis Dei cum exhortatione ad eam peragendam, 4to, foll. 10. chartae Europaeae, ut videtur, char. Neschi pessime scriptus, bene conservatus. Inscriptio initio libelli, fol. 1. r., haec est: هذه الرسالة ، في اسرار الذكر والحث عليه امانتنا الله على حبه ، Desinit codex fol. 10. v. in media pagina. Auctoris nomen ignoramus.

XLIX.

(N. 16. in 8vo; olim N. 71. in 8vo.)

Codex in 8vo, foll. 159. chartae Europaeae, ut videtur, laevigatae, char. Neschi bene scriptus atque conservatus. Continet is:

I. *Commentationem de formulis bene precandi Muhammedi prophetae*, auctore *Abū 'Abd allāh Muḥammed bin Sulcimān el-G'uzālī*. Inscriptio fol. 1. r.: هذا دلائل الخيرات ، ع 1175. Incipit ipse liber fol. 1. v., ubi auctoris nomen habes ita scriptum: سيدى محمد . Praeferimus tamen nos scriptionem *الجزولي*, Vethium secuti in editione libri *Lubb el-lubāb*, s. v. — Libri nomen plenius exhibet praefatio, fol. 2. r.: كتاب دلائل الخيرات وشوارق الانوار في الصلوة على النبي المختار، Cf. *Hāg'i Chalfa*, ed. Flügel. vol. III. p. 235.; ill. de Hammer in catal. MSS. (Wiener Jahrbücher. Vol. LXXX. Anzeigbl. p. 43. sqq.) n. 262.; *Fleischer* in catal. biblioth. Reg. Dresd. p. 43. n. 285.; *A. Krafft*, die Handschriften der K. K. Orient. Akad. zu Wien, n. CDXLII.; *Catal. MSS. b. Silvestre de Sacy*, n. 37. 3S. — Nomina et epitheta prophetae ducenta et unum recensentur fol. 7. r. — 9. r. Templi Meccani (non Medinensis, quod est in cod. Dresdensi,) delineationem exhibet fol. 9. v., aliam, quae quid significet, nobis non liquet, fol. 10. r.

II. Fol. 58. v. sequitur *introductio in carmen celebratissimum el-Burde*: قال الشيخ نور الدين ابو الحسن على بن جابر رضى الله عنه املا على الامام شرف الدين ابو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري ان سبب انشاء لهذه القصيدة المباركة الخ ، Ipsum carmen habes fol. 61. r. med. — 71. v. lin. 1.

III. Excipit illud *catalogus nominum Dei*: اسماء الله الحسنى ،

IV. Deinde sequuntur *precationes variae* atque alia, quae cultum et superstitionem Muhammedanorum spectant, quorum indicem subjungimus: fol. 72. v. — 78. v. med.: وصيغة (وظيفة) (leg. الشيخ) --- الى العباس احمد بن احمد بن محمد ابن عيسى البرنوسى المدعو (sic) بزروق رحمه الله ، Fol. 78. v. med. — 82. v. lin. 5. a fine: expositio virtutum precationis, quae vocatur حرز فضائل حرز الاقسام وخواصه نفعنا الله به تاليف: الاقسام Fol. 82. v. lin. 4. a fine: ipsum carmen, cui titulus حرز الاقسام; auctoris nomini in inscriptione puncta vocalia adjecta sunt haec: حُرِّزَ بِنِ خَلْفِ .

Fol. 96. v. lin. 5. a fine: حُرِّبُ الطَّمَسِ لِلشَّيْخِ ابْنِ الحَسَنِ الشَّادَلِي ، Fol. 98. r. lin. 6. a fine: دعاء مبارك --- يسمى حرز الجارية ، حزب التوسل للامام --- الى الحسن الشادلى ، : 2. lin. Fol. 106. r. med.: alius حزب ejusdem 'Sādilitae. Fol. 113. r. med.: الحزب الصغير المسمى بحزب البحر والحفيظة للشيخ --- نور الدين الى الحسن : حزب الفلاح . Fol. 115. r. med.: الشادلى (sic) ، سيدى محمد بن عبد الرحمن بن ابى بكر بن اuctore ، Fol. 115. v. lin. antepaen.: سعيد سليمان الجزولى (sic) رحمه الله ، : 118. r. med.: دعاء الريح الاحمر ، Sur. 18. (الكهف) ; fol. 123. v. lin. antep.: Sur. 56. (الواقعة) ، utraque cum annotatione marginali. Fol. 125. v. lin. 4.: قصيدة الهمزية ، cuius initium non sine mendis sic exhibet codex noster:

صلوات عليك يا خير حمادى ، وسلام مجدد وثناء ،
كيف ترفى رقيبك الانبياء ، يا سماء ما تناولتينا سماء ،

Fol. 152. v. init. : carmen, auctore ربيعة السيدة
فصل اذكر : Fol. 153. v. med. . العذوية رحمتنا الله ،
فيه --- ازمنة عظيمة على شهور العجم ونذكر --- كل
شهر وما يكون فيه مما لا بد من معرفته من سعادة الايام
، ونحسبنا الخ ، . Nomina mensium in hoc calen-
dario ita sunt scripta : مارش ، فيرايم ، ينيبر ،
نوزبير ، اكنبر ، شنتيم ، غشت ، يليز ، ينيه ، مايه ،
— Desinit codex fol. 159. v. extr. دجنبر .

L.

(N. 17. in 8vo.)

Eadem commentatio Muhammedis el-G'uzali, quam exhibet codex XLIX., in 12^o, foll. 136. non compactorum, sed in capsula coriacea inclusorum. Charta recentior Europaea laevigata, scriptura Africana bona, codex bene conservatus. Concordat cum codice praecedente usque ad ejus fol. 58. r. Fol. 18. in utraque pagina picturas exhibet, sed ab altero codice diversas. In margine notatur non modo finis partis quartae, tertiae, dimidiae, duarum tertiarum et trium quartarum totius liturgiae, sed etiam finis uniuscujusque precationum centuriae. Fol. 136. r. in fine libri harum precationum traditur numerus esse 534.

LI.

(N. 18. in 8vo; olim N. 66. in 8vo.)

Preces Jahjae es-Sirwani, in 8vo min., foll. 16. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptae, bene conservatae. Inscriptio, quae ipsas preces praecedit, fol. 1. v. haec est: هذا ورد حضرت سلطان المشايخ السيد
، يحيى الشرواني قدس الله تعالى سره ،
Turcicum produnt aut Persicum librarium puncta, quae vides apposita, vocalia. Desinit codex fol. 13. r. sub finem, sed non videtur absolutus.

LII.

(N. 17. in 4to; olim N. 27. e. in 4to.)

Precationes 'Abd el-qadiri el-G'ilani, clarissimi Muhammedanorum theologi, cum aliis quibusdam similis argumenti, in 4to, foll. 6. chartae orientalis laevigatae, char. Africano male exaratae; codiculus usu aliquantum tritus. Fol. 1. r. legitur inscriptio haec: فتح البصائر
نعبد القادر رضى الله عنه وعمنا بركاته وعنايته يا رب
، العائين . Incipit ipsa haec precatio fol. 1. v. Aliam habes fol. 2. v., quae inscribitur: عذوه
اغانت [اغانت] العارفين وغاية منى (sic) الواصلين للبعوث
، Fol. 5. r. lin. 4. legitur subscriptio: الاعظم سيدنا عبد القادر الجيلاي قدس سره ،
تمر اورد الخمس . ibid. pag. fere media: وهذا انشاد على لسان الشيخ عبد القادر ،
طريقة ثانية في : fol. 5. v. : ضريق الاستخارة ،
الاستخارة ، فيدة في الاسم الاعظم ، فيدة في الاستخارة
ايضا ، باب اذا اردت ان تعرف كل الزوجين بنفقان ام لا ،
Fol. 6. r. lin. 7. : فوايد مولانا سيدنا ، محمود شيخنا ،
Desinit codex sub finem huius paginae.

LIII.

(N. 1. rotulorum; olim N. 75. in 8vo.)

Rotulus, tredecim ulnas, pollices duo cum quadrante longus, quinque fere pollices latus. chartae orientalis usu nonnihil tritae, char. Neschi haud male scriptus, inclusus in capsula lignea, corio obducta, continens precationes magicas, quas vocant السبعة ، et alia quaedam ejusdem generis. Caput voluminis divisum est in sectiones nonnullas minores. quae continent primum haec verba e Sur. 3. v. 16. et 17. desumpta: عو العويز الحكيم ان الدين
قد انبم منك : deinde e v. 25. : الملك تولى الملك من تشاء وتترج الملك ممن تشاء ،
Sequitur recensio nominum Dei et ex eodem versu Suratae 3. quae restant: وتعر من تشاء ،
، الآية . Has sectiones singulas limbus circumdat triplex, Coranica itidem continens; exterior

atque interior minoribus litteris, minio exaratis, scriptus est; medius majoribus litteris et atramento. Eadem ratione triplici limbo inclusa est reliqua pars voluminis, quae continet formulas hasce: primum دعاء السيفى (sic); tum septem illas, quibus inscribuntur التبيكل الاول cet. usque ad septimum; alias deinde, quarum hi sunt tituli: محبه وعطفه، لشوف والفروع، عقد لسان، لدخول الملوك، لابطال السهم، لوجع العينين، لهما لضرب السيف: denique: والجمه، لوجع الراس، باب الفتح، cum delineatione ensis; لمي النشاب، cum delineatione arcus et sagittarum; لطعن الرمح،

delineatione hastae; عصاه موسى (sic) cum delineatione baculi Mosis; للشمس والقمر، cum delineatione solis et lunae; لجلب الرزق، cum delineatione palmae manus, ut videtur, patinam aut aliud vas ferentis; للحيمة والعقرب، cum delineatione serpentis et scorpionis; لعسر الولادة. Agmen claudit tabula apotelesmatica cum subscriptione, quae incipit: تم التبيكل المبارك. Infra legitur: وافق فراغ التبيكل المبارك cet.; additur scriptionis tempus, m. Ramadhân, a. h. 803. (Chr. 1401.) et scribentis nomen, 'Alî bin 'A'hmed bin Mu'hammed el-Ma'hallî (المحلى).

CODICES DE TRADITIONE PROPHETICA.

LIV.

(N. 11. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 3. in fol.)

Pars prima libri Gemma pura, quo refutatur Beihagius in corpore traditionum majore, auctore 'Alâ ed-dîn Abû-'l-hasan 'Ali bin Fachr ed-dîn 'Uymân el-Mârdîni, Hanefita; fol., foll. 195. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scripta, sed omissis saepissime punctis diacriticis; codex ex parte lineis corrosus et aqua laesus. Fol. 3. r. inscriptus est, praeter nomina hominum nonnullorum, qui codicem quondam possidebant, hic titulus: الجزء الاول من الجوهر النقى في الرد على البيهقي، Idem legitur apud 'Hâg'i Chalfam, ed. Flügel. vol. III. p. 627.; item vol. II. p. 654., additis tamen verbis: في سننه الكبير، Auctoris nomen, quod dedimus, integrum habes fol. 3. v. in capite praefationis, cujus prima verba 'Hâg'i Chalfa quoque exhibet. Mortuus est secundum eundem a. h. 750. (Chr. 1349.) Desinit codex fol. 195. v. Subscriptio librarii promittit partem secundam, incipientem a capite de jejuniis, et notat scriptionis annum 798. (Chr. 1396.), et mensem G'umâdâ posteriorem. — Juncta sunt codici folia duo non compacta, quae supple-

mentum trium fere paginarum continent, ad locum de ritibus in precando observandis pertinentium. Lacuna, cui supplendae destinatae sunt, in media aliqua pagina esse videtur, neque accuratius cam indicare possumus. — Fol. 1. v. et 2. r. nonnulla continent, male picta, quae ad ipsum librum non pertinent, disticha Arabica, et lineas aliquot, caractere Ta'liq scriptas, quibus superscriptum est: ترجمه المصنف بهذا الكتاب رحمه الله تعالى،

LV.

(N. 12. in fol.; olim N. 18. in fol.)

Corpus traditionum, el-Maszâbih (المصابيح) i. e. Lucernae, plenius السنة (مصابيح السنة) dictum, auctore el-Baghawi, fol., foll. 382. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi docta manu eaque antiqua scriptum, aqua nonnihil laesum. Incipit praefatio fol. 1. v. ab his verbis: الحمد لله قال الشيخ — السيد محيي السنة، atque auctoris nomen exhibet: ناصر الحديث شيخ الاسلام زينب الدين ركن الاسلام ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي، Explicatur in praefatione usus vocabulorum حسان et حجاج in laudandis traditionum propheticarum scrip-

toribus, quorum priore significantur: أبو عبد
أبو الحسين et ألد محمد بن اسمعيل الجعفي البخاري
أبو داود: posteriore autem أحماد بن محمد بن
أبو عيسى محمد بن سليمان الأشعث السجستاني
عيسى الترمذى, aliique, quorum nomina non re-
censentur. Ipsius operis liber primus incipit
fol. 2. r. lin. 7. Distinguntur libri XXV., quo-
rum recensum hic habes:

1. كتاب الايمان : fol. 2. r.
2. باب العلم (ita prima manu scriptum erat.
sed superscriptum est secunda manu:
[كتاب في العلم]): fol. 18. r.
3. كتاب الطيارة : — 21. r.
4. الصلوة — : — 32. r.
5. الجنائز — : — 78. r.
6. الزكوة — : — 89. r.
7. الصوم — : — 101. v.
8. (sic) باب فضائل القرآن : — 109. r.
9. كتاب اندعوات : — 115. v.
10. (sic) باب أسماء الله : — 119. r.
11. كتاب المناسك : — 135. r.
12. — انبيوع : — 151. r.
13. — النكاح : — 167. v.
14. — انقصاص : — 189. r.
15. — الحدود : — 196. r.
16. — الامرة وانقصاء : — 202. v.
17. (sic) باب الجنيد والسبير : — 209. r.
18. كتاب الحميد والذبايح : — 230. r.
19. الاطعمة — : — 235. r.
20. اللباس — : — 243. v.
21. (sic) باب انطب والرقى : — 253. r.
22. كتاب الرويا : — 257. v. *)
23. — الاداب : — 260. r.
24. — الفتن : — 296. v.
25. (sic) باب بدو الخلق : — 331. v.

Finis notatur fol. 380. v. med., subscripta
voce تمت. — Auctoris nomen plenius exhibet

*) In commentario, ab A. N. Matthews Anglice edito,
hic liber cum praecedente conjuugitur, ita ut XXIV
tantum libri numerentur.

Ḥāg'ī Chalfā, ed. Flüg. vol. I. p. 259. n. 524.:
: محيي السنة الحسين بن مسعود الفراء الغوى
cf. ibid. p. 484. n. 1423. Mortuum esse ait idem a. h.
517. (Chr. 1122.) Cf. praeterea Möllerum in
Catal. Biblioth. Gothanae, n. 3. 4. Hujus operis
exempla inveniuntur in Biblioth. Reg. Paris. n.
353. Lugd. n. 617. Goth. n. 15. Senat. Lips.
n. 185. catalogi Fleischeriani (vol. primum
tantummodo): item cum commentario in Bibl.
Eскур. n. 1506. — Commentarium, cui titulus
Mi'skāt el-Massābi'h, Anglice versum edidit
A. N. Matthews, (II. Voll., Calc. 1809. 1810.
in fol. min.) eumque a. h. 737. absolutum esse
perhibet a "Shaikh Wali-ul-dīn Abū Abdullah
Mahmūd, son of Shaikh Abharī Muh'ammed,
son of Abdi Ahadi Khatib." Ipsum Baghaviūm
perperam vocat: "Imām Abū Muh'ammed al-
Hūsain Ibn Masūd al-Ferā' of Baghdād";
dicendum erat: *el-Ferrā* (i. e. pellio) *el-Ba-*
ghavi (i. e. oriundus ex oppido بغ vel غشور
provinciae Churāsān).

Adjiciuntur codici nostro fol. 381. v. 382.
r. annotationes nonnullae, vitam maxime viro-
rum quorundam clarorum inter Muhammedanos
spectantes. Sunt ex horum numero 'Alī bin
Abi Tālib, Anas ibn Mālik, Abū Hureira,
'Abd allāh bin 'Abbās, 'Omar bin el-chattāb,
aliique.

LVI.

(N. 13. in fol.; olim N. 42. in 8vo.)

Ibn el-Meleki commentarius in corpus tra-
ditionum es-Szaghānī, fol. min., foll. 311.
chartae orientalis laevigatae, char. Nestāliq
bene scriptus atque conservatus, sine titulo.
Praefatio incipit fol. 2. v. his verbis: الحمد لله
، على حديّة البداية والاسلام وعظمة الدراية والاعلام ،
وبعد يقول الضعيف العوزيز عبد الحديف بن عبد العزيز
المعروف بابن الملك الحفوف حيف انلك غفر الله له
، مبارق الازهار ، atque commentarii titulum :
مبارق الازهار ، وفي شرح مشارق الانوار ،
item plenius traditur nomen

libri, quem explicare aggressus est: كتاب مشارق كناب مشارق, الانوار في صحاح الاخبار, pro quo in catalogo librorum Ms. excerpto ex 'Ilâg'i Chalfae lexico, Bibliothecae nostrae n. 41. in fol., fol. 297. r., legitur: مشارق الانوار النبوية من صحاح الآثار المضغوية. Hujus libri auctor in ejus praefatione (codicis nostri fol. 6. r.) nominatur: الحسين بن محمد بن الحسن الصغاني; additur, cognomen derivari a nomine oppidi صَعَان in provincia Mâ werâ en-nahr. Apud 'Ilâg'i Chalfam secundum epitomen Haamiensem vocatur: الحسن بن محمد رضى الدين, neque minus in Casirii catal. bibl. Escur., ubi liber ejus exstat sub n. 1686., vocatur الحسن, et adjicitur, eum hunc librum edidisse a. h. 661. (Chr. 1263.) — Incipit commentarius in codice nostro fol. 3. r.; textus verba minio distinguuntur; adjectae sunt haud raro notae marginales et interlineares. Desinit codex fol. 311. r. In subscriptione habes librarii nomen: حسين بن عمر عن قصبه درويش المحتاج الى رحمة الوهاب — في مدرسة قرة كوز, et scriptionis annum 1051. (Chr. 1641.) — Inter commentarios in librum esz-Szaghâni ab 'Ilâg'i Chalfa enumeratos est noster. Aliud ejus exemplum asservatur in Biblioth. Univ. Lipsiensis. Ejusdem scriptoris est codex noster LXIV., ubi in praefatione vocatur: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين,

LVII.

(N. 14. in fol.)

Fragments libri de traditione prophetica, in fol., foll. 47. chartae orientalis laevigatae,

char. Neschi, magno quidem et distincto, sed non pulchro, scripta, usu trita et aqua nonnihil laesa. Adsunt novem folia extrema quinternionis 35ti; quinterniones 36tus, 37mus, 38vus integri et 40mi folia priora octo ex opere aliquo copioso, cujus titulum et auctorem ernere non contigit. E capitum inscriptionibus adsunt haec: fol. 2. v. باب فضل صلاة التطوع; 4. v. باب اندعوات; S. r. باب اتمام الصلاة والخشوع فيهما; باب العمل بالسنة; 15. v. باب الترفق; 13. r. المستجابات; باب ما قيل كيف; 20. v. باب الحزن في امر الآخرة; 18. r. باب علامات; 27. r. باب انتقكم; 22. v. اصح الرجل; 37. r. باب احاديث ابي ذر الغفاري; 32. r. الساعة; باب الحكايات; 41. v. باب الاجتهاد في الضاعة.

LVIII.

(N. 19. in 8vo.)

Fragments tria libri de doctrina traditionali, in 8vo, foll. 58. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi pulchro scripta. Fragmentum primum continetur foll. 1—S. atque olim quaternio octavus libri alicujus majoris fuit; secundum, foll. 9—17., ejusdem libri quaternio decimus fuit cum primo folio undecimi; tertium, foll. 1S—5S., ab ultimo folio quaternionis decimi tertii usque ad penultimum duodevicesimi pergit. Quae adsunt, omnia ad ritus in precationibus observandos pertinent. Libri nomen et auctorem ignoramus.

CODICES DE DOCTRINA FIBEL.

LIX.

(N. 18. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 3. in 8vo.)

El-Ghazālīi Quadragesarius de principiis religionis, in 4to. foll. 160. chartae laevigatae, partim char. Neschi, sed inde a fol. 60. v. char. Nesta'liq satis bene scriptus, bene conservatus. Est hic tractatus pars libri جوامع جوامر (انقسام الثالث) et tertia quidem, ut praefatio codicis nostri (fol. 1. v.) docet; cf. praeterea Hāg'ī Chalfa, ed. Flügel. vol. I. p. 243. vol. II. p. 646. Sed quae posteriore hoc loco de totius libri divisione traduntur, ea ad nostrum tantummodo tractatum pertinere videntur. Sic enim legimus in praefatione: فنه ينقسم جمل مقاصدنا الى علوم واعمال والاعمال تنقسم الى طاهرة وباطنة والباطنة تنقسم الى تركيبة وتحليلية فبى اربعة اقسام علوم واعمال طاهرة واخلاق مذمومة تجيب [تجب] التركيبية عنها واخلاق محمودة تجيب [تجب] التحليلية بنا وكل قسم يرجع الى عشرة اصول واسم هذا انقسام كتاب الاربعين فى اصول الدين cet., ex quibus verbis ea, quae affert Hāg'ī Chalfa, ex parte corrigi poterunt. Respondent illis singulorum capitum tituli: fol. 2. r. lin. 1.: انقسم الاول فى جمل العلوم; fol. 14. r. lin. 3.: انقسم الثانى فى الاعمال الطاهرة; fol. 52. r. lin. 4. a fine: انقسم الثالث فى تركيبة القلب عن الاخلاق; انقسم الرابع فى الاخلاق; fol. 98. v. lin. 5: المذمومة, الحمودة. Sequitur denique fol. 156. r. lin. 5. a fine: خاتمة فى مناظرة النفس. Subscriptio legitur fol. 158. v. lin. 3. sqq., secundum quam scriptus est codex mense G'umādā priore a. h. 966. (Chr. 1559.) in urbe Sophia (في بلد صوفيا). In inferiore ejusdem paginae parte, itemque foll. 159. 160. et fol. 1. r. varia continentur, Arabice et Turcice scripta, maximam partem e diversis libris excerpta et ad ipsum librum

non pertinentia. Praemisit libro notitiam uberiorem vir doctissimus *Adrianus Reeland*, qui codicem nostrum ex auctione Jac. Golii comparaverat. Cf. Index codd. Mss. ex biblioth. Relandi in calce libri de religione Mohammedanica, N. I. Aliud ejusdem libri exemplum Relandus indicat in Biblioth. Univ. Lugd. N. 346. (Catalogi impressi pag. 422.) Cf. J. II. Hottingeri Promtuarium s. Biblioth. orient. pag. 173.

LX.

(N. 19. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 4. in 4to.)

Ignoti auctoris liber *de mirabilibus mundi invisibilis*, cui titulus: معدن العلوم ومرسل انيموم, i. e. *fontina doctrinarum et movile cogitationum*; in 4to, foll. 30. chartae, ut videtur, Europaeae, char. Neschi, Turcica, ni fallimur, manu satis bene scriptus, bene conservatus. Praefationis initium fol. 1. v. hoc est: الحمد لله المعروف بدليله اصادق فى قلب الملكوت على كتير الانعام وقليله, Sequuntur deinde lin. 6. sqq. haec de libri argumento et nomine: اما بعد فهذا كتاب مختصر مجموع فى عجائب ملكوت الله تعالى وذكر اول ما خلق الله وذكر اول مخلوقته بما سمعنا فى ساداتنا ورويناها موضوعا فى الكتاب وسميته معدن (sic) العلوم ومرسل انيموم ما جمع من العلوم الآخرة وبالله التوفيق, Quae verba excipiunt relationes illae fabulosae, quae libri argumentum constituunt, de septem coelis, de tartaro, paradiso, cet., quarum initium hic habes: وروى ان الله تعالى خلق من قبل الدرة والنعرش والكبرى والسموات والارض والجنة والنار ثمانين الف مدينة بعضها فوق بعض كمدينة منها مثل الدنيا عشر مرات cet. Desinit codex fol. 30. r. Subscriptio haec est: تحت عجائب الملكوت بعون الله تعالى,

*es-Sûsi el-Merghati**) (محمد بن سعيد بن محمد) (ابن يحيى بن حمد أنسوسى المرغنى), ab ipso carminis auctore conscriptus, eademque manu exaratus, qua praecedentes commentarii 3. et 4. Auctoris nomen exhibet praefatiuncula, in qua de libri argumento leguntur haec: وبعد فقد تنقيد مختصار (sic) على نظمنا المسمى المقتنع في اختصار علم أبي مفرع سالوسى --- بعد ما كنت قبل هذا وضعت عليه شرحا طويلا -- ومن اراد الطول الكثير فعليه بشرحنا الكبير المسمى الممتنع (الممتع leg.) في شرح المقتنع وسميت هذا التنقييد بالملتع على مسائل المقتنع, Unde apparet, codicem Academiae I. R. Vindobonensis, quem descripsit Krafftius n. CCCXLV., prolixiorum illum commentarium continere, quem antea ediderat auctor, cujusque exemplum nostra quoque bibliotheca possidet, n. 36. in 4to. Ipsius carminis titulus videtur esse legendus: المقتنع في علم أبي مفرع, In fine libri nostri, fol. 117. v. 118. r., hanc habes carminis clausulam:

قد انتبى المختصر المقصود, وربنا لا غيره الحمود,
سميته المقتنع في علم ابي, مفرع ابغى نفع امة الندى,
آياتة فحى وامة شمر, مصليا على الرسول النباشم,
ش (شرح i. e.) اعنى قد انتبى هذا المختصر بحمد الله
الذى لا يحمد غيره على كل نعمة منيا اتمام هذا المختصر
الذى سميته بالمقتنع اى يقنع قارئه ويكفيه في علم النظم
المنسوب للشريخ ابي مفرع --- وآيات هذا المختصر عددها
نقط كلمة فحى وحى تسعة وتسعون بيتا مائة الا واحدا
وكان نضمه (نظمه leg.) في عام شم وهو عام اربعين والى
cet.

6. Claudunt codicem, fol. 118. v.—121. v., varia fragmenta, char. Africano male exarata nec eadem omnia manu, precatationes, incantamenta et similia, quae singula recensere supersedemus.

LXII.

(N. 20. in 4to; olim N. 81. in 4to.)

Idem *compendium officiorum, morum et jurum*, auctore *Abū Muḥammed 'Abil allāh bin Abi Zeid el-Qairawāni*, de quo diximus ad codicem praecedentem; in 4to, foll. 97. chartae Europaeae recentioris, char. Neschi distincto, sed non pulchro scriptum, punctis vocalibus instructum et bene conservatum. In dorso operculi Europaei impressum est: *Dogmat. Maleki*. Praemittitur codici folium unum, numero non signatum, cui nomen suum inscripsit *Jens Krag Høst*, d. 9. Januar. 1791. In fine codicis, fol. 97. v., scriptio absoluta esse dicitur medio mense Rebi' priore a. h. 1129. (Chr. 1717.) Sed juxta notatur annus hoc modo: 1125.

LXIII.

(N. 21. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 6, 2. in 4to.)

Fragmentum libri de officiis, moribus et juribus, auctore ignoto, in 4to, foll. 20. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Incipit fol. I. r. in medio capite (شعبة) XVII., desinit fol. 20. v. in medio capite LII. Exempla inscriptionum singulorum capitum haec sunt: cap. 18.: نشر العلم الشرعى اى اظيار وتبليغه; cap. 19.: وعدم اخفائه; cap. 20.: تعظيم القرآن الجيد; cap. 21.: اداء الصلوات الخمس; cap. 22.: الصوم; cap. 23.: ايتاء الزكوة; cap. 24.: الاعتكاف; cet.

LXIV.

(N. 16. in fol.)

Volumen primum commentarii in Ibn es-Sū'ātīi librum de institutionibus juris Muhammedani, auctore *Ibn el-Metek*; in fol. min., foll. 203. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum, bene conservatum. Inter alia, quae diversi hujus codicis possessores primis foliis inscripsere, fol. 1. v. leguntur excerpta nonnulla ex opere historico (تاريخ), auctore

*) Plenius hoc nomen tradit Krafftius (die Handschriften d. K. K. orient. Akad. n. CCCXLV.), simul *bin Aḥmed* legens pro *bin 'Hamd*, et *el-Merghischi* pro *el-Merghati*, quod nos dedimus, hunc codicem nostrum secuti et codicem N. 36. in 4to, de quo postea agemus.

سیدی احمد المقری. Fol. 5. v. 6. r. ipsi libro praemittitur index librorum et sectionum (فهرست انکتب والفصول). Duodeviginti sunt libri qui sequuntur: كتاب الطيارة; انصوم; الزكوة; انصلوة; كتاب الطيارة; الحج; الاجارة; الاقرار; المأذون; الحجر; الرهن; البيوع; الحج; انصلح; الحوانة; الكفالة; الوكالة; المضاربة; الشريعة; الشفعة. Sectiones sunt XCIII. Praefatio incipit fol. 8. v. his verbis: يا من لا حول كمال كمانه نطابق وصف الفصحاء. Auctorem prodit ea 'Abd el-Latifum bin 'Abd el-'Aziz bin Emin ed-din, eundem, qui in codice nostro LVI. notus esse dicitur sub nomine *Ibn el-Melek*. Opus juridicum, in quod commentarium scripsit, vocat is: مجمع البحرين; quo nomine significatur, quod plenius dicitur apud 'Häg'i Chalfam: مجمع البحرين وملتنقى; مؤلفه النحرير أحمد بن أحمد بن علي بن ثعلب بن الساعاتي الحنفية (Chr. 1295.) Recensetur etiam in catalogo librorum MS., ex 'Häg'i Chalfae lexico excerpto, (MS. Biblioth. nostrae, fol. 278. v.) inter commentatores ejus libri noster عبد اللطيف ابن عبد العزيز بن ملك (sic). Idem liber videtur indicari in catal. libb. MSS. beati Silvestre de Sacy, n. 49., sub hoc titulo: Medjma' al-bahraïn oïa moltéqa 'n-neïraïn (النيرين), le confluent des deux mers et la rencontre des deux principes lumineux (le soleil et la lune); traité de jurisprudence, suivant la doctrine d'Abou Ihanifah, par 'Aly ben as-sâ'ât ach-châmy. — Ipse commentarius incipit in codice nostro sub finem fol. 8. v. et desinit fol. 203. r., ubi in subscriptione promittitur volumen secundum, quod incipere debebat a capite de donationibus (كتاب الهبة).

LXV.

(N. 20. in 8vo; olim N. 49. in 8vo.)

Compendium juris (المختصر), auctore *Abû-l-'husein Ahmed bin Mu'hammed ibn Hamdân el-Qudûri*, in 8vo, foll. 132. numeris signatorum chartae orientalis laevigatae, char. Nestaliq bene scriptum, satis bene conservatum.

Praemittuntur folia tria non signata, quorum primo, initio paginae primae, inscriptum est: كتاب القُدورى. Annotata sunt praeterea in hoc folio varia, quae ad ipsum librum non pertinent, de mensuris, numis et ponderibus, de piaculorum generibus, et alia. In margine sinistro primae paginae adscriptum est: القُدورى منسوب الى قُدورة اسم تحلة ببغداد cet., quod non concordat cum iis, quae legimus apud Ibn Chalikânnum, edit. de Slane, pag. 30., apud Sujûtium in libro *Lubb el-lubâb*, edit. Veth., p. 204., et Abu-'lfedam, vol. III., p. 92. — Sequentia duo folia continent indicem (فهرست) singulorum librorum compendii Qudûriani. Numerantur quidem libri tantum CXVI., sed cum repetatur librarii errore numerus XCVIII., vere efficiuntur libri CXVII. In codicibus bibl. senat. Lips. apud Fleischerum N. CC. et CCI. numerantur libri LXX. et LXII., in codicibus Dresdensibus apud Fleischerum N. 27. LXIII., et N. 126. et 161. LXVII. libri, quod ita efficitur, ut, qui hic libri sunt, alibi capita habeantur.

Incipit codex ab ipso libro primo, fol. 1. v., iisdem verbis, quae notavit Fleischerus (in catal. Lips. n. CC.); ultimus liber, incipiens fol. 129. v., hic quoque, ut in cod. Dresd. n. 161., est de testamentis (كتاب الوصية). Desinit codex fol. 132. v., in media pagina atque linea, in haec verba: وحما زوج. Pauca deesse videntur. Notae marginales et interlineares adscriptae sunt haud paucae. Accedunt in fine codicis folia non signata undecim, quorum ultimo verba nonnulla inscripta sunt. Partem hujus libri e codd. Dresdensibus n. 27. et 126. edidit b. Rosenmüllerus in *Analectorum Arabicorum* parte I. sub hoc titulo: Institutiones juris Mohammedani circa bellum contra eos, qui ab Islamo sunt alieni. Lips., 1825. 4to.

LXVI.

(N. 22. in 4to; olim N. 11. in 8vo.)

Liber *G'ewâhir el-fiqh* (جواهر الفقه) i. e. Gemmae jurisprudentiae, auctore *Tâhîr bin*

Islâm bin Qâsim el-Anszâri el-Chuwârezmî, 4to, foll. 113. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi Turcica, ut videtur, manu bene scriptus. bene conservatus. Praecedunt folia duo, numeris non signata, in quorum priore praeter alia nonnulla, a possessoribus libri annotata, legitur titulus: جوامع فقہ، quem simili modo repetit fol. 1. r. Incipit praefatio *) fol. 1. v. his verbis: الحمد لله الذي هدينا لمعرفة واكمنا بتقواه وطاعته، quae cum iis non concordant, quae tradit 'Hâg'i Chalfa, ed. Flüg. vol. II. p. 645. sq. E praefatione deprompsimus auctoris nomen, quod dedimus; sed recedunt paululum a scriptione nostra codex Gothanus n. 229., qui exhibet pro ظاهر، et Parisinus n. 417., qui habet pro بين سلام. Ipse liber in praefatione vocatur: كتاب الجوامع، ut apud Herbelotium et in cod. Parisino; sed in fine cod. Gothani et apud 'Hâg'i Chalfam plenius legitur: كتاب جوامع الفقہ. Enumerantur in praefatione libri, quibus maxime usus est auctor in conscribendo suo opere, et indicatur in decem capita divisio, quorum tituli iis accurate respondent, quos recenset Fleischerus in catal. biblioth. Senat. Lips. pag. 483. In clausula libri, fol. 112. v. 113. r., indicantur mensis annusque, quo auctor finem operae imposuit, mensis Ramadhân a. h. 771. (i. e. Chr. 1370.); quocum consentiunt 'Hâg'i Chalfa et Herbelotius s. v. Khouarezmi; sed idem s. v. Giavaher hoc anno mortuum esse libri auctorem perhibet.

LXVII.

(N. 23. in 4to; olim N. 72. in 4to.)

Poëma iambicum de quaestionibus juridicis controversis, auctore *Neg'm ed-din Abu 'Hafs 'Omar bin Muhammed en-Nesefî*, in 4to, foll. 142. chartae orientalis vetustae laevigatae, char. Neschi non pulchre quidem, sed distincte scriptum; codex temporis injuria nonnihil laesus,

*) Sedecim fere primae praefationis lineae desunt in exemplo biblioth. Senat. Lips.

ab initio mutilus. Deesse videtur introductioni tantum pars aliqua. Sequuntur enim capita decem integra, quem numerum in codice Dresdensi n. 130. animadvertit Fleischerus. Caputum tituli in codice nostro hi sunt:

باب اندى اختص ابوحنيفة ، باب 1. fol. 11. r.: باب من المسائل الشريفة ، باب 2. fol. 25. v.: باب اندى اختص به يعقوب وحنظيف حسن مرغوب ، باب فتاوى العالم الرباني محمد بن ، باب 3. fol. 39. r.: الحسن الشيباني ، باب فتاوى ، باب 4. fol. 49. v.: الشيعي مما الثاني يأتي ولا نص عن الشيباني ، باب 5. fol. 52. r.: باب فتاوى الشيعي والشيباني خالفه وذات نص ، باب 6. fol. 65. r.: الثاني ، باب 7. fol. 79. v.: على خلاف مذهب الشيباني ، باب اندى اختص له واحد بمذهب واباب ذو فوايد ، باب 8. fol. 90. v.: باب الجوابات التي قل زعم مخالفًا ، باب 9. fol. 108. v.: احكامه فيما ذكر ، باب 10. fol. 132. r.: انشائي وحده وما به قل وقتلنا ضده ، باب فتاوى مالك ابن انس وفيه يسر الحفظ : 132. r.: — Magna pars codicis notis marginalibus et interlinearibus instructa est.

In fine, fol. 142. r. et v., leguntur haec, quae nomen libri continent et auctoris, cum temporis indicatione et versuum computatione: ود انتصبي نظم الخلافيات ، والحمد لله على الخصال ، تمر الصلوة وانسلم ابدا ، على النبي الهاشمي سمردا ، وصاحب انظم ابو حفيص عمر ، من نشف تر خدا في صقر ، لنصف يوم السبت وقت التغديه، في سنة الاربع والخمسمائة ، وجملة الابيات يا صدر الفيه ، القان والستون والستماية ، وستة والله يجزي نظمة ، جنات عدن وقصورا ناعمة ، cet. Idem versuum numerus 2666, qui legitur apud Fleischerum in catal. bibl. Dresd. I. 1. Adjicitur denique scriptionis annus 731. (Chr. 1331.) et librarii nomen: اسحق بن محمد بن احمد ، ابن علوسه ، Exempla hujus libri inveniuntur in Bibl. Reg. Paris. n. 1434. et 1436.; item in Bibl. Gothana, n. 187., unde titulum duplicem exhibet Möllerus: كتاب المنظومة في الخلافات

، كتاب الخلافات نظم في العيون ، et: والعيون ، De ipso scriptore vid. Herbelotium et de-Rossium, s. v. Nassafi.

LXVIII. LXIX.

(N. 24. 25. in 4to; olim N. 24. 25. in 4to.)

De virtutibus et vitiis commentarius, auctore *Muhammad bin Ibrahim bin Jahja bin 'Ali el-Kutbi*, volumina duo in 4to, foll. 151. et 150., char. Neschi scripta et bene conservata, quae integrum quidem opus exhibent, sed neque ab eodem librario neque eodem tempore scripta sunt. Volumen prius paulo minoris formae, quam posterius, et antiquiore et doctiore manu exaratum est. Utrumque suum habet operculum, cui inscriptum est: هذا الجزء الاول (الثاني) من كتاب العبر وانغر في علم الاخلاق لابن ، الكتبي. In vol. I. fol. 1. r. libri titulus, auro et variis coloribus distinctus, plenius ita legitur: الاول من غرر الحمايين (الخصايس leg.) النقايس الفاضلة ، محمد الك. Infra hanc inscriptionem scriptum est: برسم الجنب العال القضاى البدرى الدميرى ناظم ديوان البيمارستان المنصورى اسبغ الله ضلاله ، الحمد لله الذى جعل اللسان عنوان الانسان. Libri titulum ea repetit

et divisionem indicat in XVI. capita, quorum unumquodque complectitur tres sectiones (فصول). Capitulum indices hi sunt: 1. في الكرم 2. في اللوم في العي 3. في الفصاحة 4. في الحمق 5. في العقل 6. في البخل 7. في النغفل 8. في الذكاء 9. في العفو 10. في العجز 11. في الصدقة 12. في العزلة 13. في الانتقام 14. في الصدقة 15. في العزلة 16. In fine voluminis, fol. 150. v., legitur clausula, ut fieri solet, sed sine indicatione temporis.

Voluminis secundi fol. 1. r. titulum libri offert truncatum, ut in operculo, et auctoris nomen: محمد الكتبي. Fol. 1. v. incipit caput IX. Sed capitulum indices in hoc volumine non semper iidem, quos dedimus e praefatione. Inde a fol. 103. alia manu exaratus est liber, non quidem pulchriore, sed magis distincta. Clauditur totum opus fol. 149. r.

Auctoris nomen in catalogo librorum ex *Häg'i Chalfa* excerpto, quem bibliotheca nostra possidet, sic scribitur: محمد بن ابراهيم بن البحر محمد بن يحيى الكتبي; sed corrigendum est: محمد بن يحيى الكتبي. Herbelotius, s. v. Gorar al-Khassais, addit praenomen *Abu 'Abdallah* et cognomen *el-Watwat* (الوطواط); Möllerus in catal. bibl. Goth. n. 126. nomen honorificum *G'emäl ed-din*. Cf. praeterea Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 434, I. et 886.

CODICES DE ARTE HOMILETICA ET LIBRI PARAENETICI.

LXX.

(N. 17. in fol.; olim N. 9. in fol.)

Codex in fol., foll. 230. chartae orientalis firmae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Continet is:

I. *Librum de arte homiletica*, cui titulus (fol. 3. r.): كتاب المدحش i. e. (orator) animos percellens, auctore *G'emäl ed-din Abü'l-ferej 'Abd er-rahmán bin 'Ali bin Muhammad bin*

el-G'auzi el-Hanbeli. Huic titulo in margine adjecta est inscriptio, utrumque librum, quem continet codex, respiciens: (sic) كتاب مدحش ، في الخصائرات والمواعظ وكتاب مر تجل (sic) ، الحمد لله الذى لا منتهى لعضاياه ، اما بعد فاني قمت بحمد الله في علم النوع باجده وأمله وانثرت (واثرت leg.) ان انتقى في هذا الكتاب من ملة في علوم القرآن ، 1. fol. 3. v.

2. fol. 9. r.: في تعريف اللغة، 3. fol. 13. v.: في عيون التواريخ، 4. fol. 18. r.: في علوم الاحاديث، 5. fol. 22. r.: في ذكر المواعظ، Sed ultimum hoc caput divisum est in duas sectiones (قسمين)، quarum priori viginti sex فصول comprehendenti. inscriptum est: قسم يذكر فيه القصص، posteriori, centum فصول tenenti: قسم فيه المواعظ مطلقاً، et haec quidem sectio longe majorem totius libri partem occupat, inde a fol. 38. v. usque ad fol. 177. v., ubi in media pagina abrumpitur oratio. Differt haec libri divisio ab illa, quam offert Catal. Biblioth. Lugd. n. 435., ubi XXXV. capitum fit mentio. — Sequitur:

II. *Liber de arte homiletica*, cui titulus (fol. 179. r.): كتاب المرتجل i. e. (orator) ex tempore dicens, auctore eodem *Abu-Ifereg' ibn el-G'auzi*. Fol. 179. v. paucis verbis auctor libro suo praefatur. Praefationis initium hoc est: الحمد لله القادر القاهر الباطن الظاهر، لما حيست بواسطة رايته شأباً حسن السميت يصلح ان يكون واعضاً فشكى الى تحليط حسن الوعظ فامليت هذا الكتاب من خاضري مرتجلا، Dividitur hic liber in decem lectiones (مجالس)، in quarum fine legitur, fol. 215. r.: آخر كتاب المرتجل والحمد لله وحده، ولما فرغت من اتمام طلب الذي املينته عليه ان املني عليه بمجالسا في ذكر مشوراء فامليت هذه مجالسا في ذكر رجب ومجالسا في ذكر رمضان ومجالسا في ذكر العشر من ذي الحجة والعييد وانضفت الى ذلك المرتجل وولد الحمد، المجلس الحادي عشر، et sic sequuntur quattuor lectiones, undecima, duodecima, decima tertia et decima quarta, usque ad fol. 228. r., ubi desinit codex, ad finem non perductus. — De utriusque libri auctore vid. *Ibn Challikāni* vitas virorum illustrium, edit. de Slane vol. I. pag. 391. sq., ubi natus esse dicitur G'emāl ed-dīnus noster circa annum 508. vel 510., mortuus Baghdādi, m. Ramadhāno a. h. 597. (Chr. 1201.), quocum consentiunt *Abulfeda*, ed. *Adleri*, vol. IV. p. 194. et *Hāg'i Chalfa*, vol. I. n. 492. et

1336. Vide etiam *Herbelotium*, s. v. *Aboulfarage Ben Ali Ben Al-Giouzi*: *Möllerum* in *Catal. Bibl. Goth.* n. 6.; *Hamakeri* specimen *catal. bibl. Lugd.* p. 246. et *Casirii catal. bibl. Escur.* n. 539. 714. 733. 762. 1269. Cave confundas nostrum cum nepote ejus, cui nomen erat: شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قرة على سبط جمال الدين ابى الفرج ابن الجوزي، auctore clarissimi libri *Mir'at ez-zemān*, de quo vid. *Abulfeda*, vol. IV. p. 350. et 566.; *Freytag*, selecta ex *hist. Halebi*, pag. LII.; *Reinaud*, *extraits des hist. Ar.*, pag. XXIII. Idem intelligendus est apud *de-Rossium* in *dizion. stor. degli autori Arabi*, pag. 86., s. v. *Giuzi (Ebn) Sebt Abulfaragio figlio d'Ali* (i. e. *Schems ed-din Jūsuf sibt Abū-Ifereg' bin 'Alī ibn el-G'auzi*). Apud *Möllerum* n. 239. *Mūsa* legitur pro *Jūsuf*. Avo tribuit, quae sunt nepotis scripta, *Herbelotius* s. v. *Giouzi*, et hunc, nomen ejus corrumpens, filium *G'emāl-ed-dini* facit pro nepote.

LXXI.

(N. 26. in 4to; olim N. 14. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 328. chartae Europaeae. char. Neschi distincte quidem, sed non pulchre scriptus, bene conservatus. Fol. 2. r. inscripta sunt haec: شيخ ميران ابن شبيب مخدوم نقب فارسي، "Schaich Mirā' filius Schaich Machdūm, alias dictus Fārsi-mullā, i. e. *Eques* (seu etiam *Persa*) doctus, *Trangambariae* per aliquot annos *Societati Indicae* interpretis Persici operam nauans, anno 1728. duo haec manuscripta Arabica descripsit pro quatuordecim Thaleris. "C. T. Walther." Et fol. 3. r.: "I. Manuscriptum dictum *Illuminans corda*, cuius autographum puncta vocalia non agnoscit, librarius autem rogatus in quibusdam locis pro arbitrio ea addidit. II. *Liber concionum* sexaginta quatuor, quas singulis feriis sextis nec non diebus festis in oratoriis suis recitant, quamobrem, ne in vocula quadam errent,

"vocalia accuratissime apposita sunt." Continentur enim hoc volumine:

I. Fol. 4. r.—203. v. Liber منير القلوب i. e. *illuminans corda*, auctore ignoto. Inscriptio praemittitur, fol. 4. r., quae satis probat, librarium puncta vocalia adiecisse pro arbitrio, grammaticae scilicet leges parum curantem. Fol. 4. v. incipit praefatio his verbis: الحمد لله المتفضل بما لا تحصى اعدادنا من النعماء، Docet auctor, rogatum se, ut componeret librum من الواعظات والبراجرات والحكايات النافعات والبشريات sa- النذيرات وكل ما فيه زجر للقلوب القاسية من الذنوب فجمعتها (التصنيف) من كتب من الكتب مع الاخبار والاثار والاحاديث والاعمال الصالحة والخيرات من امور الدين، Dividitur is in XXI. capita، مشتملة، من الذنوب، Incipit caput primum (في الايمان) fol. 5. v.; clauditur ultimum (في لقاء الله تعالى) fol. 203. v. Adjiciuntur inscriptionis annus mensisque أئ القاعد a. h. 1140. (Chr. 1728.)

II. Fol. 204. r.—328. r. *Conciones Ibn Nubbatae*. Inscriptionem praemisit librarius fol. 204. r.: هذا الكتاب الخطبة من تصنيف امام الهمام شمس العلماء والعلوم ابن نباتا (sic) صاحب رسة الله عليه، Additur deinde, minore characterere scriptum: هذا كتاب الخطبة من تصنيف الامام الهمام العالم العلامة ابي يحيى وعبد (sic) الرحمن بن اسمعيل نباتنة المصري رضى الله عنهم: (sic) ونفعنا بعلمه آمين نقل من طبقات الاستوى رضى الله عنه، Sed verum auctoris nomen est: Abû Ja'hd 'Abd er-Ra'him bin

Mu'hammed bin Isma'il Ibn Nubbâta; cf. Kraft, die Handschriften der K. K. Akad. zu Wien, n. CDLXXIV. et Hâg'i Chalfam, vol. III. pag. 158. sq. Fol. 204. v. incipit prima oratio, quae est primi diei Veneris mensis Mu'harrem. Tertia mensis 'Sa'bâni (fol. 268. v.—270. v.) illa est, quam publici juris fecit H. Mac Guckin de Slane in Journ. Asiatique, 3^e série, vol. IX. pag. 66. ss. Post orationem quintam mensis Aù Thig'g'e sequitur fol. 317. v.: (sic) الخطبة الاستسقاء، ad cuius finem legitur, fol. 319. r.: تمت كتابة الخطب يوم الأحد تسع من شهر الصفر سنة cet. أربعين ومائة ألف (sic) من بعد الهجرة النبوية، Sed adduntur deinde: الخطبة لعبد الآخى (fol. 319. v.) et alia oratio, cui inscribitur: الخطبة الاخرى هذا يقرؤ في العيد، Clauditur liber fol. 326. v. verbis: تمت تمام شد، subjuncta precatione (fol. 327. r.—328. r.), in qua leguntur haec: اللهم آيد دولت الملك الاعظم والحقان المكرم --- السلطان ابن السلطان ابن سلطان ابن خاقان ابن خاقان انسلطان تييمور (sic) بادشاه غازى السلطان باهر بادشاه غازى انسلطان حمايون --- اكبر --- جهانكبير --- شاه جيهان --- اراجى شفاعت نبيك الحجازى ابو المنظر محيى الدين محمد شاه اورنگ زيبن عالم كبير بادشاه غازى السلطان شاه عالم --- محمد معظم الدين --- محمد فرخ سير --- محمد رفيع القدر --- شهاب الدين دور بخش محمود بادشاه غازى خلد الله ملكه وسلطانه، واناض على العالمين بره واحسانه، cet.

CODICES DE THEOLOGIA MYSTICA.

LXXII.

(N. 27. in 4to; olim N. 27. a. in 4to.)

Commentarius in carmen Muhammedis et Alemi (محمد اعلمى)، cui titulus: النصيحة الرضية الى الطريقة الحمديدية، i. e. admonitio grata ad in- eundam viam sanctam Muhammedicam; in 4to,

fol. 52. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Titulus alia manu, atque ipsius codicis, adjunctus est fol. 1. r.: كتاب النصيحة الرضية الى الطريقة الحمديدية وهى شرح تأييد الشيوخ الامام العالم العلامة مربي المهريدين والمنهج الى مسلك السالكين الشيخ محمد العلمى

، قدس الله سره العزيز ، quibus verbis subjunguntur haec, quae ad alios libros spectant, eodem volumine olim comprehensos: ويليه ترغيب اعد اسلام ، في سكنى الشام لابن عبد السلام ، كتاب تصوف لابن عطاء الله اسكندري هو التنوير ، ترجمه في الكلام على ذكر الله سبحانه وتعالى ، فتح البصاير لعبد القادر ، ايضاً نبذه للشيخ عبد القادر الكيلاني ، quae omnia habes in bibliotheca nostra. Sed constat ex praefatione libri nostri (fol. 1. v. 2. r.), non commentarium, sed ipsum carmen Taicum (تائية) illo titulo, quem dedimus, inscribi, commentarium postea addidisse auctorem. Praefationis initium: الحمد ، له الهادي الى صراطه المستقيم ، Ipsi carminis initium (fol. 2. r.) hoc est: الحمد لله بدى في مقالتي ، واستغفر الله من جهمي وزلاتي ، Clauditur liber fol. 52. v.

LXXIII.

(N. 28. in 4to; olim n. 27. c. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 27. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene

conservatus. Titulus legitur fol. 1. r.: كتاب التنوير في اسقاط التديب* للشيخ -- ابى العباس احمد ابن عطا الله الاسكندري cet. Fol. 1. v. post Besmelam auctoris nomen repetitur, addito titulo honorifico تاج الدين. De hoc libro ejusque auctore vide 'Häg'i Chalfam, vol. II. pag. 456.; Herbelotium s. v. Tanouir escath altadbir et s. v. Atha allah, ubi vero pro A'hmed bin Mu'hammed perperam scribitur Mu'hammed bin A'hmed et adjicitur cognomen e's-'Sädili. Idem fortasse liber est tractatus ille, de quo Casirius agit n. 782.; alia ejusdem auctoris opera vid. in Catal. Bibl. Paris. n. 419. Bibl. Bodl. n. 120, 3. — In fine codicis, fol. 27. r., notatur librarii nomen: مصطفى بن ابراهيم بن خالد ، الدمشقي الشافعي الرفاعي ، cum anno et mense, Szafer a. h. 1025. (Chr. 1616.)

* In margine additum manu b. Rasmussen: التديب.

CODEX DE DOCTRINA DRUZORUM.

LXXIV.

(N. 21. in 8vo.)

Catechismus doctrinae Druzorum, in 8vo, foll. 16. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi recentiore tempore distincte scriptus, bene conservatus. Incipit liber fol. 1. v., explicit fol. 15. v. Quaestiones numerantur 104.

Est idem liber, quem e cod. Göttingensi edidit Jo. God. Eichhorn in Repert. für bibl. und morgenl. Litt. Tom. XII. pag. 155—197. Numerantur quidem apud Eichhornium quaestiones tantum 103., sed in cod. nostro quaestio trigesima prima Eichhornii censetur continere quaestiones duas. Codex a C. Niebuhr ex oriente allatus.

CODICES BIBLIORUM VERSIONES CONTINENTES.

LXXV.

(N. 18. in fol.; olim N. 32. in 4to.)

Pentateuchi versio Arabica, fol., foll. 289. chartae orientalis crassae vetustae, char. Neschi vetusta manu bene scripta, omissis tamen saepe punctis diacriticis, bene conservata; folia tantum 2. v. et 288. r. recentiore manu, sed docta, suppleta sunt. Fol. 1. r. inscriptum est: *Le pentateuque de moÿse en Arabe*. Ipse liber incipit fol. 2. v.: بسم الله الحى القديم الأزلى ، نبتدى بعون الله تعالى بكتب أسفر الاول من التوراة cet. Va- riarum libri sectionum initia rubro colore notari solent, et vario quidem modo. Exempla haec sunt e libro Genesis: cap. 2, 4.: هذا تكوين السماء والأرض في انبدى خلق الله السموات والأرض cet. Variarum libri sectionum initia rubro colore notari solent, et vario quidem modo. Exempla haec sunt e libro Genesis: cap. 2, 4.: هذا تكوين السماء والأرض حين كونه سدر (i. e. ٦٦٥) ثاني من الفراش (٣٦٦٥) i. e. الاول ، Cap. 6, 9. in initio Paraschae secundae: الاصحاح الثاني ، Ibid. v. 14: قصة الطوفان ، Loco primi versus capituli X. legitur tantummodo inscriptio: نسبة بنى نوح ، Cap. 11, 10.: اصحاح عاشر من أسفر الاول ، Cap. 12, 1.: فراشه ثلثة من السفر الاول ، Post cap. XIV. notatur: سلا . Ante cap. 18.: فراشه رابعه من سلا واصحاح حادى : Ibid. post v. 15.: السفر الاول ، عشر ، cet. Finitur codex fol. 288. r. — Adjecta est codici notitia, manu b. Jo. Chr. Kallii, professoris quondam Hauniensis, Danice scripta. Animadvertit is, hanc versionem differre omnino ab illis, quas legimus in Bibliis polyglottis Parisiensibus et Anglicanis, in editione Erpenii et Congregationis de propaganda fide; stilum et vertendi modum non eundem esse per totum librum, ideoque fortasse censendum, non ab uno homine eam esse confectam; orthographiae leges interdum violari. Addit eam Judaicae videri originis, cum lectiones sabbathicae saepius notentur et minores etiam sectiones spatiis vacuis indicentur; e diversis tamen locis se colligere, versionem e Graeco vel

Syriaco exemplari esse factam. Aetatem codicis quadringentos fortasse annos attingere*). — Sed haec omnia accuratioris disquisitione indigent; textus tamen Hebraici verba non anxie reddi ab interprete, linguae Arabicae, ut videtur, bene gnaro, certum est.

LXXVI.

(N. 19. in fol.; olim Nr. 38. in fol.)

Fragmenta duo versionis Arabicae Veteris Testamenti, in fol., foll. 20. chartae orientalis firmatae antiquae, char. Neschi vetusta manu bene scripta. Praemittitur folium unum, numero non signatum, cui inscriptum est manu b. Moldenhaweri: "Liber Jobi et Judic. 5. e codice A. 49. S. G. elter Num. 9." Continet autem hoc volumen: I. Fol. 1. et 2. versionem libri Judicum, a voce ממצרים c. 6, 8. usque ad vocem הירדנה c. 8, 4. II. Fol. 3. et 4. r. versionem secundi libri chronicorum a voce העם c. 35, 12. usque ad finem libri, cui subjungitur fol. 4. v. subscriptio haec: قر وكمال المجزو الثاني (الثاني) من دم نامين (دبري ديوم) i. e. من سفر الملوك وهو الرابع جزو من كتاب اسفار الملوك وولد المجد cet. Sequitur: III. fol. 4. v.—20. v. versio libri Jobi ab initio usque ad finem versus 29. capituli 40. Initium hujus libri hoc est: نبتدى بمعونة الروح القدس نكتب سفر نبوة ايوب ابن زار النبي المغبوط وبلوايه وصبره وایمانه بالله ربه وحسن عزاه وكثرة شكره فيما جلبه عليه الشيطان من الازواج وهو واقف برحمة ربه وكانت بلاده اليبتيه ، وكان يقال لمدينته cet. Quae quidem verba Christianum produunt scriptorem, linguae Arabicae mediocriter gnarum, qui versionem suam ad exemplar Graecum videtur liberius expressisse.

*) Vixit Kallius medio saeculo XVIII.

LXXVII.

(N. 22. in 8vo: olim N. 45. in 8vo.)

Versio Arabica libri Psalmsorum, in 120, foll. 156. chartae Europaeae, ut videtur, laevigatae, char. Neschi perbene scripta, optimae condicionis. Praemittuntur folia quattuor, numeris non signata, quorum ultimo suum nomen inscripsit Frid. Rostgaard, addens manu praeceptoris sui Jacobi Damasceni hoc Psalterium ex Syriaca versione translatum Parisiis describi se curavisse, a 1697. Titulum fecit Jacobus ille, fol. 1. r., hoc modo: كتاب مزامير داوود النبي والملك ، عليه افضل السلام ، . Ipse liber incipit fol. 1. v. Initio psalmi LXXVII. (fol. 66. v.) adscriptum est: نصف المزامير . Post psalmum CL. (fol. 127. r.) legitur: وهذا المزمو ر خارج عن العدد قاله داوود ، et sequitur psalmus ille, qui legitur in editionibus versionis Alexandrinae, incipiens: صغييرا كنت في اخوتي ، . Desinit is fol. 127. v. — Fol. 128. nihil inscriptum est, sed fol. 129. r.—140. v. sequuntur: العشرة تسابيح ، *deccm cantica*, quorum primo praemittuntur haec verba: التنسجة الاولى لموسى . Sed hoc non verum; sequitur enim canticum Mosis Exod. 15, 1—19., quod deinde excipiunt: 2. Deut.

32, 1—43. 3. 1 Sam. 2, 1—10. 4. Hab. 3, 2—19. 5. Jes. 26, 9—20. 6. Jon. 2, 3—10. 7. Dan. 3, 52—57. secundum versionem Alexandrinam. 8. Dan. 3, 58—90. secundum eandem versionem. 9. Luc. 1. 46—54. 10. Luc. 1, 68—79. — Sequuntur denique fol. 141. r.—156. v. العشرون كاتسما اولي ، *viginti cathismata*. Singulis precibus inscribitur: دكصا كاتسما اولي ، et sic porro. In fine codicis notatur scriptionis tempus (mensis Kánùn posterior a. Chr. 1698.) et locus cum librarii nomine, سليمان برسم خزنة ، ابن يعقوب سامي ، فريدريكوس روستغارد ، انسيد .

LXXVIII.

(N. 23. in 8vo; olim N. 41. in 8vo.)

Fragmentum versionis Psalmsorum Arabicae, in 120, foll. 15. chartae orientalis crassae laevigatae, char. Neschi distincte scriptum. Continentur hoc volumine psalmi I—XV. integri, et decimus sextus usque ad medium versus undecimum. Psalmi IX. et X. juncti sunt, ita ut decimus sextus respondeat decimo septimo in codice Hebraico. Fol. 8. v. in superiore margine inscriptum est nomen Th. Bartholini.

CODICES THEOLOGICI CHRISTIANI.

LXXIX.

(N. 29. in 4to; olim N. 47. in 8vo.)

Pharetra Christiana Catholica, liber theologicus, in 4to, paginarum 264. chartae Europaeae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, satis bene conservatus. Pagina prima, Arabice scripta, ad eum librum, quem indicavimus,

nihil attinet, sed finem continere videtur alius cujusdam libri vel tractatus, cui juncta erant, quae sequuntur. Notatur in summo margine dextro: (sic) تفسير على التوراة ، et laudantur Latina oratione in utroque margine locus scripturae e 2 Cor. 8. et alius e Chris. (i. e. Chrysostomi) hom. 4. in Matth. — Pag. 2. legitur inscriptio libri insequentis:

السلام

بسم الاب والابن وروح القدس

نبتدى بعون الله... - الكتاب يتسمى الجمعية المسيحية القاتوليقيه اثنى يوجد*) فبينما ثلاثة انواع السنيام المقدسه الدين (sic) هم شهادات من الكتب** المقدسه واقوال القديسين وتفسيرهم على الكتب*** المقدسه وامثال وحكايات مستخرجه**** من بعض المورخين المعروفين بسيرتهم الصالحه والمشهورين بعلمهم الثابت ،

Haec omnia pigmento rubro scripta sunt. Sequitur deinde praefatio libri (pag. 2—7.), cui adjecta in margine exteriori versio Latina, caractere minuto et eleganti a Francogallo quodam, ut videtur, scripta. Sed eadem, ni fallimur, manus Arabicum quoque textum exaravit. Majori tantum paginae 7. parti versio addita non est. In margine praefationis exteriori leguntur annotationes Arabicae, loca scripturae sacrae et patrum ecclesiae laudantes. Ipse liber incipit pag. 8. Primi capituli titulus hic est: الفصل الاول ان البارى هو واحد في ذاته ، (ذاته 1.) وغير منتيا في كمالته ، Textus Arabicus versione Latina etiam hic stipatus est, sed haud rarae sunt lacunae quum in illo, tum in hac obviae, maxime versus finem codicis; ita paginae 196. et 223. nihil habent scripti, et pagg. 215. 224—238. versionem tantum exhibent. In pagg. 169. 170. Arabica alia manu minus docta scripta sunt et verbis nonnullis Copticis mixta. Recensetur ibi ecclesiarum Aegypti pars quaedam. Annotationes Arabicae breviores hic illic in margine adjectae sunt, et explicationes Latino sermone scriptae nonnunquam textum Arabicum interrumpunt. Pag. 174. versioni, quae sola ibi legitur, ad marginem adjiciuntur Graeca quaedam e Theophylacti commentario ad 1 Cor. 11. Ultima, quae ad hunc librum pertinent, paginae sunt 239. 240., Arabica tantum continentes.

*) Ita secunda manu scriptum; legebatur autem: توجد.

**) Articulus secunda manu additus.

***) Articulus a secunda manu.

****) Antea erat: المستخرجه .

Sequitur deinde pag. 241—252. *Calendarium Copticum*, cum Sanctorum nominibus, duabus in unaquaque pagina columnis eademque manu, ut videtur, qua praecedens liber, Arabice scriptum. Inscibitur ei, pag. 241.: نبتدى بعون الله تعالى الاستكسار القبطى ، Supra paginam annotatum est: „qd ibi Caractere nigro „scriptum ex Libro est, qd vero Rubro ex —*)“; „f. significat fabulam, h. haereticum, E. Epum, „B. qd inuenitur in Breviario etc. etc.“ Mensium nomina haec sunt: 1. توت, ejus initio adscriptum est: 8. September); 2. بابيه; 3. ختور; 4. بيموده; 5. كيينك; 6. طوبه; 7. امشير; 8. بيميات; 9. مسرى; 10. بوشنس; 11. اييب; 12. بوونه. In inferiore parte paginae 252. Arabica quaedam leguntur, quibus inscribitur: خطبه. Pag. 253. Coptica quaedam vocabula continent, addita pronuntiatione caractere Latino. Pag. 254. Arabica sistit, quae quo pertineant, non liquet. Pag. 255—263. continent *tabulam chronologicam Patriarcharum Alexandriae et Antiochiae* (بطاركة الاسكندريه وانطاكيه) secundum aeram Christianam et Muhammedanam, eadem manu scriptam. Adjiciuntur etiam Chalifarum nomina et deinde eorum loco Ejjubidarum Aegypti. Deesse videtur hujus tabulae initium; incipit enim, quod adest, a Patriarchis Alexandrinis vigesimo quinto et vigesimo sexto, Dioscoro (ديسقوس) et Timotheo (طيومتاوس); vid. historiam Patriarcharum Alexandrinorum, ab Eusebio Renaudot editam, pag. 114. sqq. Antiochenorum ultimus est Joannes (يوحنا), regnante chalifa el-Mu'taszim billáh, Hârûni filio; Alexandrinorum series pag. 262. deducitur usque ad medium fere saeculum XVII., et adduntur manu recentiore pag. 263. patriarchae nonnulli seriores. Calendario quoque et patriarcharum tabulae hic illic adpersae sunt notulae, Latino sermone scriptae. In paginae 263. inferiore parte Arabica leguntur, eadem manu exarata, qua totus codex, et similiter pag. 264.,

*) Deletum est quod hoc loco scriptum erat. -

ubi clausula apponitur ex Ecclesiastae cap. 12. versic. 13. et 14. petita: الجامع آخر القول اسمع ،
الجامع آخر القول اسمع ، واحفظ الخ ، cum versione Latina.

LXXX.

(N. 20. in fol.; olim N. 26. in fol.)

Catechismus Lutheri minor, Arabice versus, in fol., foll. 22. chartae Europaeae, char. Neschi distincte scriptus, bene conservatus. Fol. 1. r. legitur Germanice: "Der kleine Catechismus Lutheri in Arabische Sprache übersezt von Salomon Negri zu Halle im Wapfen-Haufe."

"1716." Fol. 2. v. inscriptionem habes Arabicam: التعلیم المسیحی علی مذعب التفصیل العلامة: حجة الملة النصرانية وفخر الضائفة الالمانية سيدنا مرتينوس،
توضيوس. Incipit ipse liber fol. 2 v., finitur fol. 21. v. Clausula additur fol. 22. r.: وقد كان انقراغ منه نهار الاربع (sic) ثمر في يوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة ١٧٩١ بيد سليمان الاسود الدمشقي (sic) وقد كتب يرسم خزائنة كتب بيت البتنامي الذي في مدينة حال في بلاد ساكسونيا مر

Cum illa versione, quam Halis excudendam curavit Jo. Henr. Callenberg, a. 1729. 12o, comparationem codicis nostri instituere non contigit; cf. Selmurreri bibl. Arab. p. 276.

CODICES MATHEMATICI, ASTRONOMICI, CHRONOLOGICI, ASTROLOGICI.

LXXXI

(N. 21. in fol.; olim N. 27. in fol.)

Euclidis Elementorum libri V-XV. Arabice, codex in fol., fol. 214. chartae orientalis vetustae laevigatae, char. Neschi antiqua manu distincte scriptus, sed omissis plerumque punctis diacriticis, bene conservatus, cujus tamen ea pars, quae priores quattuor libros olim continebat, nunc desideratur. Notatur enim fol. 1. r. in summa pagina ad sinistram: آ من ح ، h. e. folium primum quinternionis octavi. Legitur praeterea pagina eadem *Guil. Postelli* manu scriptus libri titulus:

"Quintus euclidis liber de elementis geometricis Interpte Isaaco ben genino, emendatore thebitio ben coratio. Ad finem vero elementorum et demōstrationum durat. Desyderantur 4 primi.

"Postelli et Posteritatis."

Infra inverso libro inscriptum est: "Paraphé au desir de l'arrest du 5. juillet 1763. Mesnil."

Folio 1. v. incipit liber V., cui inscribitur: المقالة الخامسة من كتاب اقليدس في الاصول نقل اسحاق
المقاله الخامسة من كتاب اقليدس في الاصول نقل اسحاق ،
ابن حنين واصلاح ثابت ابن قره ، atque similiter indicatur initium librorum VI—X. (fol. 15. r. 36. v. 52. v. 66. v. 80. r.) In clausula, libro decimo adjecta, fol. 151. r., nomini Qābiti bin Qurre additur cognomen el-Harrāni (الحرائي)،
وفي اخر ما نقله اسحاق واصليه ثابت
ويتلوه نقل الحجاج بن يوسف بن مضر الوراق لمعيته*) من
المقاله الحادي عشر [ه] من (fol. 151. v.) haec est: من
كتاب اقليدس في الاصول نقل الحجاج ابن يوسف بن مضر
الوراق من الترجمة الثانيه ،
Similia leguntur fol. 174. r. in fine libri undecimi, ubi scriptum est: الترجمة
الثانيه ،
et initio libri duodecimi; item fol. 189. r. in fine ejusdem libri et 189. v. in initio libri decimi tertii, qui errore librarii vocatur duodecimus. In fine hujus libri fol.

*) Hoc vocabulum quibus punctis scribendum sit, nobis non constat. Reliquis, quae ex hoc codice dedimus, puncta diacritica adjecimus; quae perperam posita erant, correximus.

201. v. adscriptum legitur: تمت مقاله الثالثه عشره من كتاب اقليدس في الاصول وفي اخر ما نقله الحجاج ابن يوسف ابن مطر الوراق من الترجمة الثانيه وتم بتمامنا كتاب اقليدس في الاصول Sequitur deinde fol. 202. r. inscriptio libri decimi quarti: مقاله الاولى من كتاب ايسقلايس وفي الرابعه عشره [ه] من كتاب اقليدس في الاصول نقل قسطا بن لوطا، مقاله الاولى من كتاب ايسقلايس: Versionis auctor hoc loco vocatur: قسطا بن لوطا البعلبكي. Libri ultimi inscriptio, fol. 211. r.: مقاله الثانيه من كتاب ايسقلايس وفي الخامسه عشره من كتاب اقليدس في الاصول ترجمه قسطا بن لوطا البعلبكي، Desinit codex fol. 214. v. in media pagina post sextam ejus libri figuram. — Fol. 188. v., figurae delineandae, ut videtur, destinatum relictum est vacuum.

Videtur igitur secundum ea, quae ex fol. 151. r. deprompsimus, versio *Is'hâqi bin 'Hunein*, a *Θābito* recognita, usque ad finem tantum libri decimi pertinuisse, ita ut libri XI—XIII. ex editione secunda et emendatiore versionis *'Haq'g'âqi bin Jûsuf* essent recipiendi, supplementa *Hypsielis* vero e versione, quam condiderat *Qustâ bin Lûqâ* vel *Lâtâ*, ut his scriptum reperitur in codice nostro. Conferantur de his versionibus eorumque auctoribus J. C. Gartz de interpretibus et explanatoribus Euclidis Arabicis, pag. 7. sq. 20. sq. 25. sqq. 37. sq.; G. O. Flügel de Arabicis scriptorum Graecorum interpretibus, pag. 11. 14. sq. 17. sq., et J. G. Wenrich de auctoribus Graecorum versionibus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armeniacis, Persicisque, § CXVI. CXVII. Wenrichius quidem *Is'hâqum* omnes elementorum Euclidis libros Arabice vertisse tradit, auctoritate nixus *Mu'hammedis bin Is'hâq en-Nedim* et *G'emâl ed-dini el-Qnfti*, et codices recenset Bodlejanos duo, Parisiensem unum, quibus priores tredecim libri ab *Is'hâqo*, *Hypsielis* supplementa a *Qustâ* Arabice reddita, contineri feruntur. Sed ea res disquisitione accuratiore jam nobis indigere videtur. — Notandum prae-

terea, quod *Ibn Challikân* (ed. de Slane, Vol. I. pag. 147. et 245.) versionem librorum Euclidis, hoc est elementorum, adscribit *Huneino bin Is'hâq*, qui pater *Is'hâqi* nostri, quocum consentit inter alios *Hâq'î Chalfa*, vol. I. pag. 381. sq. Sed ita res fortasse expedienda, ut statuas sub auspiciis patris filium versionem condidisse, unde utriusque nomen ei quasi adhaereat. Jure enim huc refertur, quod in universum annotat *Herbelotius* s. v. *Honain*: "Il se servit beaucoup d'Ishak son fils et de "Hobaiz" [leg.: *Hobaisch*] "son neveu dans "les versions qu'il entreprit."

Hâq'î Chalfa l. laud. alique *Θābitum* quoque nostrum, mortuum a. h. 288. (Chr. 901.), inter Euclidis translatores recensent, sed minus accurate; is enim recognovit tantum versionem *Is'hâqi* vel *Huneini**, ut ex *Ibn Challikâno* quoque patet, vol. I. p. 147.

Hypsielis nomen, cui in codice nostro perperam ubique adscripta sunt puncta diacritica, a nobis restitutum est. Desiderantur ejus supplementa in *Naszir ed-dini* recensione elementorum Euclidis, Romae impressa a. 1594.

LXXXII.

(N. 22. in fol.; olim N. 41. in fol.)

Codex in fol., foll. 128. chartae orientalis crassae et antiquae, char. Africano bene scriptus, sed tunc vehementer laesus. Continet is bonam partem libri cujusdam mathematici, agentem *de arithmetica, geometria et stercometria*. Auctoris nomen ignoratur. Quod enim inscriptum est folio, numero non signato, in capite libri: "Euclidis", id verum non est. Illic liber divisus erat in duo genera disciplinarum mathematicarum (جنسَيّ التعلِيم الرياضية); utrumque genus varias complectebatur species (انواع), in alias species denuo divisas, quarum partes ap-

*) Versionem *Qustae* habet Flügelius, l. I. pag. 17., sed id errore niti non est dubium.

pellabantur sectiones (فصول). In margine recentiore quadam manu annotantur singularum uniuscujusque sectionis propositionum numeri, litterarum Arabicarum valore numerico expressi. Quod adest, variis constare videtur fragmentis, quae recensere conabimur.

1. Fol. 1—20. Sectionis primae, nescimus cujus speciei, pars, item ejusdem speciei sectio secunda, tertia et quartae pars. Incipit enim fol. 1. r. a fine propositionis cujusdam vicesimae quintae et non interrupto ordine pergitur usque ad quadragesimam quintam, quam continuo sequuntur (fol. 4. v.) propositiones decima septima et decima sexta. Excipit hanc inscriptio sectionis secundae: *بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله*, الفصل الثاني في خواص الاعداد الاضافية. Numerantur ejus propositiones viginti sex, et deinde duodetricesima, undetricesima, tricesima, sed sic ex correctione secundae manus; antea enim scriptum erat: 27.28.29. Sectio tertia incipit fol. 12. r.: *بسم الله*, الفصل الثالث في خواص الاعداد من جهة مشابيتها. Adjicitur in margine inscriptio Graeca: *περὶ τῶν ἀριθμῶν ἀναλογίας καὶ πρὸς τὰ σώματα ἐπίπεδα καὶ γραμμῶς συγκρίσεως*. Haec sectio continet propositiones XVII. Fol. 16. r. incipit sectio quarta: *الفصل الرابع في خواص الاعداد بحسب اضافتها الى اجزائها*. In margine: *περὶ ἀριθμῶν ιδιότητος, καὶ τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὰ μέρη συγκρίσεως*. Enumerantur propositiones decem usque ad finem fol. 19., post quod excisum est folium unum. Nihilominus folio sequenti leguntur propositiones undecima, duodecima et decimae tertiae pars; abrupitur enim oratio in media propositione, fol. 20. v. extr.

2. Fol. 21—53. Ex generis primi specie secunda sectionis primae pars et sectio secunda. Sed illa species num fuerit subdivisio alius speciei necne, non liquet. Sequitur generis primi speciei tertiae species prima, tribus sectionibus constans, et speciei secundae sectionis

primae pars. Incipit enim fol. 21. r. in media propositione vicesima quinta sectionis ejus, quam diximus, eamque sequuntur propositiones XXVI—XXXII., ita tamen ut loco notae tricesimae secundae repetatur nota tricesimae primae. Ad duodetricesimam annotatur in margine: *ὁδε πολὺ λείπει*. Fol. 23. v. incipit: *الفصل الثاني*, من النوع الثاني في سطوح الدوائر, cum nota marginali Graeca: *περὶ τῶν κύκλων περιφέρειας*. Propositiones habet haec sectio I—XXIV. et XXVI—XXIX. — Fol. 32. v. incipit species (major) tertia: *النوع الثالث من جنسى المتعاليم*, الرياضية في خواص السطوح بحسب اضافتها الى بعض وهو ينقسم الى ثلاثة انواع, النوع الاول في خواص الخطوط والزوايا والسطوح بحسب اضافتها الى بعض على جهة النسبة, النوع الثاني في خواص الخطوط والزوايا والسطوح بحسب اضافتها الى بعض من جهة الاشتراك والتبنيان, النوع الثالث في خواص الخطوط والزوايا والسطوح بحسب اضافتها الى بعض من جهة القرض والوضع, والنوع الاول من هذه الانواع ينقسم الى ثلاثة فصول الفصل الاول في القول الكلى على النسبة والتناسب, الفصل الثاني في خواص الخطوط والزوايا والسطوح المستقيمة الخطوط بحسب اضافتها الى بعض على جهة النسبة, الفصل الثالث في خواص الزوايا (الدوائر leg.) بحسب اضافتها ما يقع فيها من الزوايا والخطوط والسطوح. Fol. deinde 33. r. incipit prima illa sectio: *في القول الكلى*, continens propositiones decem; fol. 36. v. sequitur sectio secunda cum inscriptione manca; desunt enim verba *على جهة النسبة* et *المستقيمة الخطوط*. Complectitur haec sectio propositiones XVIII., quarum numeri ex parte secunda manu correcti. Fol. 43. v. incipit sectio tertia, in cujus inscriptione rectius, quam supra, legitur: *في خواص الدوائر*. Numerantur hic XVII. propositiones continuas, quarum ultima trunca; videtur excidisse folium unum post folium 50. In sequenti folio enim habemus propositionis undevicesimae finem cum vicesima, quae ultima est

ejus sectionis. Excipit hanc fol. 51. v.: النوع الثاني من النوع الثالث من الجنس الاول من جنسى التعاليم الرياضية في خواص الخطوط والزوايا والسطوح بحسب اضافة بعضها الى بعض من جينة الاشتراك والتباين وهو ينقسم الى فصلين ، الفصل الاول في خواص الخطوط والسطوح بحسب اضافة بعضها الى بعض من جينة الاشتراك والتباين ، الفصل الثاني في خواص السطوح والدوائر بحسب اضافة ما يقع فيها من الخطوط والسطوح على جهة ، التباين والاشتراك. Adsunt tantum, pag. eadem, sectionis prioris propositiones prima, secunda et tertiae initium, et post lacunam duorum foliorum excisorum, uti videtur, fol. 52. 53., propositionis octavae finis, nona et decimae pars major.

3. Fol. 54—57. Devehimur nunc ad sectionem secundam e speciei (majoris) quartae speciei tertia, quae ad genus primum haud dubie pertinet. Sic enim legitur fol. 54. r. in summa pagina: الفصل الثاني من النوع الثالث من النوع الرابع في خواص خطوط وزوايا وسطوح القطوع [ب] باضافة بعضها الى بعض. Adsunt propositiones prima, secunda et pars tertiae. Sed haec iis, quae sequuntur, non erant anteponebenda; continent enim

4. Folia 58—71. clausulam sectionis prioris et sectionem posteriorem speciei secundae e generis primi speciei (majore) tertia; ejusdem tertiae speciei (majoris) speciem tertiam, duabus sectionibus constantem, ita tamen ut posterioris sectionis pars major desideretur. Legitur enim fol. 58. r., post clausulam propositionis ultimae sectionis praecedentis, inscriptio haec: الفصل الثاني في خواص السطوح والدوائر الخ، omnino ut dedimus supra e fol. 51. v. Propositiones habet haec sectio undecim. Fol. 62. r. incipit: النوع الثالث من النوع الثالث من الجنس الاول من جنسى التعاليم الرياضية في خواص الخ، وهو ينقسم الى فصلين، الفصل الاول في خواص الخطوط والزوايا والسطوح المستقيمة الخطوط، الفصل الثاني في خواص الدوائر بحسب اضافتها الى الخطوط والزوايا والسطوح، المستقيمة الخطوط. Sectio prior propositiones

continet triginta et sex. Posterioris inscriptio tantum adest et propositionis primae pars, fol. 71. v.

5. Sequuntur folia duo, 72. 73., quae continent sectionis nescimus cujus propositiones secundam ex parte, tertiam, quartam et quintae partem; sed haec ad ea, quae praecedunt, non videntur pertinere.

6. Foll. 74—78. continent finem speciei primae e speciei (majore) quarta (generis primi) et initium sectionis prioris speciei secundae. Sequitur enim fol. 77. v. post illius propositiones XIII—XXII. inscriptio: النوع الثاني من النوع الرابع في خواص الاكبر والقطوع الحادثة فيها من غير اضافة بعضها الى بعض وينقسم الى فصلين، الفصل الاول في خواص الدوائر الواقعة في الكرة من غير اضافة الخ، الفصل الثاني في خواص دوائر الاكبر وقسيها وأوتارها بحسب اضافة بعضها الى بعض. Sed prioris sectionis tantum I—IV. adsunt; desideratur figura ad illustrandam quartam propositionem destinata.

7. Foll. 79—93. continent sectionis posterioris ejusdem speciei finem et initium sectionis prioris speciei tertiae e speciei (majore) quarta. Legimus enim post illius propositiones III—XXI., fol. 90. v., hanc inscriptionem: النوع الثالث من النوع الرابع في قسوع الاساطير والمحروقات المستديرة وهو ينقسم الى فصلين، الفصل الاول في وجود القطوع وخواصها الاول (sic) من غير اضافته بعضها الى بعض، الفصل الثاني في خواص خطوط وزوايا وسطوح القطوع باضافة بعضها الى بعض. Prioris sectionis hic habemus propositiones I—III.

8. Foll. 94. 95. continent propositiones duodecimam et decimam tertiam cujus nescimus sectionis.

9. Foll. 96—103. exhibent propositionis nonae partem et propositiones X—XXIII. integras, pertinentes, ni fallimur, ad sectionem illam, cujus initium legebatur fol. 90. v.—93. v., atque sic post fol. 103. videtur fuisse locus inserendi folia illa 54—57., supra male collocata.

10. Foll. 104—120. continent speciei (majoris) quintae speciem priorem, duabus sec-

tionibus constantem. Fol. 104. r. enim legitur: النوع الخامس من جنسى التعاليم الرياضية في اضافة الجسام وسطوحها بعضها الى بعض وعونون ، النوع الاول في اضافة الجسام المستقيمة السطوح وسطوحها بعضها الى بعض ، النوع الاول ينقسم الى فصلين ، الفصل الاول في مقدمات تنصرف في ما بعد من العلوم ، الفصل الثاني في اضافة الجسام المستقيمة السطوح وسطوحها بعضها الى بعض . Complectitur sectio prior propositiones octo ; posterior incipit fol. 108. r. ubi inscribitur : الفصل الثاني من النوع الاول من نوعي النوع الخامس في اضافة مجسامات وسطوح الجسامات المستوية السطوح بعضها الى بعض ، qui titulus recedit paululum ab illo, qui legebatur fol. 104. r. Ejus sectionis hic habemus propositiones XXV., quarum tamen ultima abrumpitur fol. 120. v. Interponuntur enim

11. Fol. 121. propositionis decimae pars, undecima et duodecima ex parte, quae ad ea fortasse pertinent, quae in fine folii 53. erant interrupta.

12. Foll. 122—127. continent secundae speciei ex eadem specie (majore) quinta propositiones decem, quarum ultimae in fine videntur deesse nonnulla. Fol. 122. r. inscriptio quidem sic habet: الفصل الثاني من النوع الخامس في اضافة مجسامات وسطوح الجسامات المستديرة بعضها الى بعض ، النوع ; sed recte corrigitur in margine: الفصل . Adjicitur quoque notula Graeca: περι στερεῶν.

13. Fol. 128. r. cum praecedente cohaerere non videtur. Est finis propositionis ultimae hujus libri, id est primi generis التعاليم الرياضية . Legitur in media pagina: تم الكتاب , eadem manu scriptum, qua totus codex.

Adjectae sunt passim per totum codicem notae marginales Arabicae, seriore manu char. Africano negligenter exaratae. — Fol. 128. v. inscriptum est: „Coll. Paris. Societatis Jesu“; et fol. 1. r. in margine interiore legitur, ut in codice LXXXI.: „Paraphé au desir de l'arrest du 5. juillet 1763. Mesnil.“

LXXXIII.

(N. 23. in fol.; olim N. 21. in fol.)

De stellis fixis liber astrognosticus, auctore Abū 'l-husein 'Abd er-rāhman bin 'Omar es-Szūfi er-Rāzi, fol., foll. 126. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Praemittitur codici folium, numero non signatum, cui in prima pagina inscriptum est:

تصوير صور الكواكب لعبد الرحمن الصوفي .

Sed paulo aliter titulus legitur fol. 1. r.:

الكواكب والتصوير تليف ابي الحسن عبد الرحمن بن عمر الصوفي رحمه الله تعالى . Incipit praefatio fol. 1. v. : قال ابو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفي رمة الله عليه بعد ان حمد الله واتمنى عليه وصلى على رسوله المصطفى وآله*) انى رايت كثيرا من الناس يخوضون في طلب معرفة الكواكب الثابتة ومواقعها من الفلك وصورها ووجدتهم على فرقتين . In margine autem adscriptum est:

قال عبد الرحمن بن عمر المعروف بابي الحسين الصوفي بعد آه subjuncto vocabulo نسخه , quod aliud ejusdem libri exemplum designat, ex quo haec desumpta sunt. — Exposita in praefatione studiorum ratione, quae persecutus erat a. h. 335. (Chr. 94 $\frac{6}{7}$.) in oppido ed-Deinewer et a. h. 337. (Chr. 94 $\frac{8}{9}$.) Iszpahānae, ad enarrandam hujus quoque libri originem accedit auctor, quem 'Adhad ed-daulae Buweihidae obtulit, in cujus aula versatus est inde ab a. h. 349. (Chr. 960.) — Ipsa XLVIII. signorum coelestium descriptio incipit versus finem fol. 9. a signo ursae minoris. Singulorum signorum, excepto tantum uno, adjiciuntur figurae elegantissime pictae et duplici plerumque modo delineatae, ita ut signum quale in ipso coelo, qualeque in globo coeli imaginem referente appareat, conspicias. Subscriptio in fine codicis, fol. 126. r., haec est: نقل من النسخة التى كانت لابي الحسين الصوفي بخط فرج بن عبد الله الحبشى مولاه والتصوير والمجد اول بخط ابي الحسين رمة الله تعالى عليه وفي النسخة التى للوقف ندار العلم ببين

*) Insertum est h. l. a secunda manu vocabulum وبعد .

انسوريين بمدينة السلام وكتب في ذي القعدة من سنة اربعة واربعماية لنبجيرة والحمد لله --- ، وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة المعطر شذاعا لسيدعا ومولعا الجذاب الكريم تعالى الامير حسن افندي باش خليفة الرزنامة (sic) على يد كاتبه الفقير --- محمد المغربي في يوم الثلاثاء المبارك ثالث شهر ذي الحجة الحرام ختام سنة ١٠٠٠ Fol. 126. v. subjungitur index imaginum, signa coelestia referentium, char. Nasta'liq exaratus. — Codicem in oriente comparatum Hauniam transmiserunt a. 1763. Niebuhrius ejusque in itinere comites; vid. J. D. Michaelis literar. Briefwechsel, Th. II. pag. 78.

Conferantur de hoc libro ejusque auctore, quae disputavit clar. Ideler in libro: Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen, pag. XLIX. sqq. Auctoris praenomen secundum codicem nostrum est *Abū 'Thusein*, quod Abulfaragius quoque habet in hist. dynastiarum, pag. 325., et Herbelotius s. v. Razi. Dederunt alii cum titulo codicis nostri *Abū 'Thasan*, ut G'emâl ed-din el-Qufti apud Casirium, vol. I. pag. 361., et Idelerus. Neque magis de ipsius libri nomine constat; ab inscriptione codicis utraque recedunt et Abulfaragius, qui habet: كتاب الصور السماوية مصور، et G'emâl ed-dinus, apud quem legitur: كتاب الكواكب الثابتة مصور،

LXXXIV.

(N. 30. in 4to.)

Musae bin Ma'hammed Qâdhizâde notae in El-G'aghminii) compendium astronomicum*, quod inscribitur: المختص في علم الهيئة; codex in 4to, foll. 155. chartae orientalis laevigatae, char. Neseli satis bene scriptus, bene conservatus. Titulus fol. 1. r. inscriptus hic est: شرح الجعميني **) المسمى بالمختص في علم الهيئة للشهيد

*) *C'aghminium* Persae vocant, cognomine ab oppido *C'aghmin* derivato, in Ch^uarizmia sito.

**) Eodem nomine, quo auctor, ipse quoque liber ejus designatur; vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 601.

الامام العلامة المغنن موسى الشيبير بقاضى زاده النبرسلى الحنفى رحمه الله تعالى. Praefatio incipit fol. 1. v. ab his verbis: الحمد لله الذى جعل الشمس نبياء وانقم نوراً. Primae duae paginae char. Nasta'liq scriptae sunt, sed eadem manu, qua totus codex. Inscriptus est commentarius (fol. 4. r.) clarissimo nomini principis et astronomi Ulûg Begi (ألوغ بيك بن) (شاد رخ بن تيمور كوركان) et incipit fol. 4. r. in fine paginae, desinit fol. 154. r. — Sententiae circulis et figuris astronomicis illustrantur. Notae marginales et interlineares inveniuntur haud paucae, et illae quidem ab ipso librario plerumque scriptae, hae vero alia manu et Turcico partim sermone. — Clausula additur fol. 154. v., char. Nasta'liq scripta, qua docemur, codicem scriptum esse in gratiam cujusdam Scheich Mu'hammed Efendi, manu Derwisch Mu'hammed, e posteris Scheichi Schahqobâd, mense Ju' 'lqa'de a. h. 1098. (Chr. 1687.) Adjiciuntur pagina eadem disticha nonnulla Persica, et fol. 155. r. variae notitiae, eadem, qua totus codex, manu exaratae.

El-G'aghminii liber in catalogo librorum, ex 'Hâg'i Chalfa excerpto, quem saepius memoravimus, his verbis indicatur: المختص في الهيئة. Dissentiunt tamen viri docti de hujus scriptoris nomine; verum dedisse nobis videtur Casirius, vol. I. pag. 382.: Abū 'Abd allâh Ma'hmûd bin Mu'hammed bin 'Omar. Inter commentatores El-G'aghminii in eodem illo catalogo, ex 'Hâg'i Chalfa excerpto, recensetur et Mûsâ bin Mu'hammed Qâdhizâde et Fadhl el-'Ubeidi. Clar. Fleischer quo jure in catal. Biblioth. Dresd. n. 131. cognomen Qâdhizâde jungat nomini commentatoris G'elâl ed-din Fadhl allâh el-'Ubeidi, nos quidem nescimus, sed verendum, ne unum fecerit e duobus, et constare videtur, commentatoris nostri verum nomen fuisse Szalâh ed-din Mûsâ bin Mu'hammed bin Ma'hmûd Qâdhizâde er-Rûmi. Cf. Th. Hyde in praefatione in

tabulas Ulugh Beighi, pag. XV.; Herbelot s. v. Cadhi Zadeh al-Rûmi; Casiri, vol. I. pag. 352.; Toderini Litt. der Türken, (interpretationis Germ.) vol. I. pag. 148.; Gartz de interpretibus et explanatoribus Euclidis Arabicis, pag. 30.

LXXXV.

(N. 31. in 4to; olim N. 15. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 18. chartae laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus. Folio I. r. inscriptus est titulus: هذه جداول انسابه السنوية، على التمام والكمال، السنوية; sunt enim, quae sequuntur, *tabulae multiplicationis, ad calculum sexagesimalem pertinentes*, quae usum habere videntur in computando solis loco in coelo. Fol. 1. r.—11. r. continentur tabulae quadraginta, in quibus numeri litterarum valore numerico expressi sunt. Folia 11. v.—14 v. secundum inscriptiones destinata erant tabulis XLI—LIV., sed numeros inscribere praetermissum est. Fol. 15. r.—16. r. tabularum LV—LX. exigua tantum pars expleta; fol. 16. v. nihil habet scripti. — Fol. 17. r.—18. r. sub finem paginae legitur pars introductionis (مقدمة), illustrando tabularum praecedentium usui destinatae, sed ab initio mutilae. Subscriptio adiecitur in ima pagina: cet., et notantur fol. 18. v. scriptionis annus et mensis, Mu'harrem 1175. (Chr. 1761.).

Hunc codicem in Oriente comparatum a. 1763. Hauniam miserunt Niebuhrius et socii; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, T. II. pag. 80. n. 11.

LXXXVI.

(N. 32. in 4to, olim N. 52. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 109. chartae orientalis laevigatae, varios tractatus continens de usu variorum instrumentorum astronomicorum. Sunt ii:

1. كتاب حاوي اختصارات في العمل بربع المقنطرات
Summa compendiorum de operationibus cum quadrante circulatorum ad horizontem parallelorum, auctore *Bedr ed-din Abû 'Abd allâh Mu'hammed bin Mu'hammed bin A'hmed*, pro genie Imâmi G'e-mâl ed-din 'Abd allâh el-Mârdîni. Libri titulus cum parte nominis auctoris inscriptus est fol. I. r. At plenius nomen exhibet praefatio, fol. 1. v.: ابو عبد الله محمد بدر -- ائدين سبط الشيخ الامام -- جمال الدين عبد الله المارديني -- ، يقول فقير رمة ربه محمد بن محمد بن احمد ، سبط المارديني الموقت بالجامع الارزم ، Cf. Hâg'i Chalfa, ed. Flüg., vol. III. pag. 11., et Casirium, vol. I. n. CMXXVI. 6. Divisus est hic tractatus in introductionem, triginta capita et coronidem. Incipit introductio fol. 2. r.; caput primum fol. 4. v. Clausula legitur fol. 45. v., quae docet hoc exemplum absolutum esse die 24. mensis Reg'eb [a. h. 1068. (Chr. 1658.)] Scriptura Neschica, haud mala; in margine saepe adji-ciuntur annotationes.

2. Clausulae hujus tractatus continuo sub-jungitur fol. 45. v. initium alius ejusdem libri, similis argumenti, qui inscriptione caret. In margine tantum notatur: معرفة المنعم (موجب*) بالربع الحبيب. Agit enim liber *de usu quadrantis* ejus, quem astronomi Arabes vocant الربع الحبيب i. e. *sinu instructum*. Praefationis initium, lin. 9., hoc est: الحمد لله الذي ، et paulo post, lin. 5. a fine, legitur: اما بعد فان الربع الحبيب ليس في الالات الفلكية من اشرف مند ، et paulo post, lin. 5. a fine, legitur: اما بعد فان الربع الحبيب ليس في الالات الفلكية من اشرف مند ، Quae verba cum iis fere respondeant, quae Casirius laudat, vol. I., ad n. CMXXVI, 2., jure nobis suspicari videmur, initium hoc esse non quidem ipsius libri *المنعم* في العمل بالربع الحبيب, auctore eodem *Bedr ed-dino*, cujus erat praecedens tractatus, sed initium compendii ejus libri, quale in codice etiam LXXXVII. legitur et in ipso hoc codice nostro fol. 53. v.—72. r. commentario instructum est.

*) Legendum fortasse: نتيجة.

Sed h. l. orationis series abruptur in fine folii 46.

3. Fol. 47. r. alius cujusdam tractatus nomen iterum iterumque inscriptum est, hoc modo: رسالة في علم — رسالة الميقاتة ، — كتاب رساله الميقاتة ، رسالة في علم — رسالة الميقاتة ، — كتاب رساله الميقاتة ، at ipse tractatus desideratur. Infra titulum enim tabulae tantum nonnullae leguntur, male exaratae, quibus inscriptum est: مطالع; et fol. 47. v. sequuntur alius libri titulus et praefatio: [هذا كتاب المتنوي وهو اصول اصول اصول الدين في كشف اسرار الوصول واليقين وهو ثقة الاكبر وشرح الازهر] — يقول العبد — محمد بن محمد بن الحسين الميقاتي. Sed hujus quoque libri continuatio desideratur.

4. Sequitur, post annotationes nonnullas a variis libri fortasse possessoribus fol. 48. r. inscriptas, libellus de operationibus cum semicirculo aequinoctiali. Sic enim legitur post Bismelam fol. 48. v.: وبعد فهذه فوايد في معرفة العجل بنصف دائرة المعدل. Scriptura Neschica bona. Finitur libellus fol. 53. r. in media pagina.

5. Fol. 53. v. incipit eadem manu scriptus commentarius in Bedr ed-dini [Sibi] el-Mârdîni tractatum de operationibus cum quadrante, sine instructo, auctore Ahmed bin Ahmed 'Abd el-hagg es-Sunbâti: توضيح لطيف على الرسالة الموسومة في العجل بالربع المجيب تأليف الشيخ العلامة بدر الدين المارديني. Bedr ed-dini tractatus idem est, quem exhibet cod. LXXXVII. Absolvitur commentarius fol. 72. r. Adjicitur quidem fol. 72. v. clausula quaedam (خاتمة), quadrantis usum itidem spectans et pessime exarata; at tamen haec ad eundem librum pertinere non videtur.

6. Eadem pessima manu, qua fol. 72. v., sequens quoque libellus exaratus est, fol. 73. r.—81. v., qui inscribitur: كفاية المتنوع في العجل i. e. بدير الدين المارديني ، كفاية المتنوع للشيخ — بدر الدين المارديني ، compendium de operationibus cum quadrante resecto, sive sectore, quem astronomi nostri vocant, auctore Bedr ed-din el-Mârdîni. Sed plenius in ipso libelli limine auctoris nomen legi-

تال الشيخ — بدر الدين سبط العلامة جمال الدين المارديني — ، الحمد لله الذي جعل المتنوع علامات لاوقات السجود. Titulum hujus libri laudat Hâg'i Chalfa*), cumque divisum esse contendit in quindecim capita; in codice tamen nostro dividitur in capita viginti.

7. Post fol. 82., cui praeter notulas nonnullas nihil inscriptum est, sequitur libellus, cui titulum fecit librarius (fol. 83. r.) hoc modo: هذه الدرر الفاخرات في العجل بربع المقنطرات في جميع الانتظار والجهات للعلم العلامة البحر الفياض سيدي احمد i. e. Liber margaritarum pretiosarum, ageus de operationibus cum quadrante circularum ad horizontem parallelorum, omnibus terrae regionibus accommodatus, auctore Ahmed esch-Scherefi. Incipit is fol. 83. v., clauditur f. 109. v.; constat praefatione et viginti capitibus et bene scriptus est caractere Neschi. Absolutus est m. Reg'eb a. h. 1157. (Chr. 1744.)

Hunc codicem ex Oriente Hauniam transmiserunt Niebuhrius et socii; vid. J. D. Michaelis literar. Briefwechsel, T. II. p. 79. n. 7.**)

LXXXVII.

(N. 33. in 4to; olim N. 50. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 14. chartae laevigatae, caractere ad Nasta'liq accedente satis bene scriptus, varios itidem tractatus continens de usu quadrantis.

1. Fol. 1. v. incipit tractatus de operationibus cum quadrante circularum ad horizontem parallelorum: رسالة في العجل بالربع الموسوم بالمقنطرات ،

*) Ed. Flüg. vol. I. pag. 346. n. 890. Sed pronuntiandum est: كفاية المتنوع.

**) Brevissima codicis notitia, quam hic liber exhibet, indicat tantum illud nomen, quod dedimus e fol. 47. v.: Mu'hammed bin Mu'hammed bin el-Husein el-Balchi, et nomen Ahmedis esch-Scherefi, ut nos scripsimus, auctoritatem secuti Sujutii in libro Lub el-lubâb, edit. Vethii, pag. 152.

introductione et decem sectionibus constans. Auctoris nomen discimus e praefatione commentarii, cujus initium continet hic noster codex, n. 3.; est is *G'emâl ed-dînus*, جمال الدين ابن الجرى. Clauditur hic libellus fol. 5. r. lin. 5.

2. Fol. 5. r. lin. 6. sequitur *tractatus de operationibus cum quadrante sinu instructo*: , رسالة في العمل بالربع المجيب , introductione et viginti capitibus constans, auctore *Bedr ed-din Sibî el-Mârdîni*, ut apparet e commentario, quem continet codex noster LXXXVI., n. 5. Finitur liber fol. 9. v. lin. 3. Videtur esse idem liber, quem recenset A. Krafft, *Handschriften der orient. Akad. in Wien*, pag. 137. n. 5., in scribendo auctoris nomine paululum tamen recedens ab eo, quod nos dedimus ad cod. LXXXVI., n. 1. Cf. praeterea *Catal. Biblioth. Lugd.*, pag. 456. n. 1140. 1143. et 1147.

3. Sequitur denique fol. 9. v. lin. 4. *initium commentarii in G'emâl ed-dîni tractatum de operationibus cum quadrante circolorum ad horizontem parallelorum*, auctore *Jûnus bin 'Abd el-qâdir bin 'Ahmed er-Reschedi*. In praefatione enim, quae incipit ab his verbis: الحمد لله , الذي اعطا من شأ ما شا , اما بعد فيقول العبد -- يونس ابن عبد القادر ابن احمد الرشدى الشافعى -- شرح لطيف على الرسالة العشرة فصول الموضوعة في العمل بالربع الموسوم بالمقنطرات تأليف الشيخ -- جمال الدين ابن الجرى رحمة الله عليه , Ab-rumpitur commentarius in fine fol. 11. r., ultra prima tractatus illius verba non progrediens. Foll. 11. v. — 14. v. vacua sunt.

LXXXVIII.

(N. 34. in 4to; olim N. 49. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 94. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Continet is *tabulas astronomico-chronologicas*, auctore *Ridhvân Efendi*. Fol.

1. r. inscriptus est titulus hoc modo: الجوهرة الالامعة والنتيجة الجامعة لشيخنا العالم -- رضوان افندى -- , i. e. *Gemma splendens et summa comprehendens*. Juxta adscriptum est: نتيجة رضوان افندى الكبيرى ; sed supra titulum perperam scriptum legitur: هذه نتيجة رضوان افندى -- .

Infra adjectae sunt annotationes nonnullae astronomicae, Turcica manu exaratae. Fol. 1. v. praefatio legitur brevissima, cujus hoc est initium: الحمد لله الذي زين السما بزينة الكواكب , وسيرها بقدرته رب المشارق والمغرب , Sequitur deinde usque ad finem fol. 3. r. tractatus introductorius, in tres sectiones divisus, quarum hi sunt indices: sectio I. في معرفة التاريخ العربى , sectio II. معرفة في معرفة تحويل الشمس الى مقوم الشمس , روس البروج . Ipsae tabulae incipiunt fol. 3. v. et desinunt fol. 93. v.; computatae sunt ex horizonte urbis Qâhiraе. Primae tabulae (fol. 3. v. 4. r.) superscriptum est: جدول تقويم الشمس لطول مصر وعودته من ساحل البحر العربى على اصول الفلك بيك صاحب الرصد الجديد السمرقندى تحرير العبد الفقير رضوان عفى عنه , Quae deinde sequuntur tabulae, fol. 4. v. — 7. r., pertinent ad annos Arabum 1094 — 1402. sive Coptorum annos 1400 — 1699. In margine fol. 4. v. notatum est manu recentiore: اول التواريخ . — Ex inscriptionibus reliquarum tabularum hasce annotamus: fol. 7. v.: مدخل السنين الرومية وشهورها , fol. 8. r.: جدول مدخل اشهور العربية , fol. 10. v. (a manu secunda): اول جدول توسط : fol. 33. v.: اول جدول التحويل الكوكب (الكواكب) (leg.: الكواكب) اول سنة ١٠٠٠ عربية لى على اصول الفلك بيك تحرير رضوان افندى , Fol. 94. r. in superiore parte columnae primae recensentur signa coelestia (البروج الشمالية والبروج الجنوبية), et subjiciuntur notulae nonnullae astronomicae, quae ad ipsum librum non videntur pertinere.

Codicem in Oriente comparatum Hauniam miserunt Niebuhrius ejusque in itinere comites; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, T. II. pag. 79. n. 8.

LXXXIX.

(N. 35. in 4to; olim N. 47. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 26., char. Neschi satis bene scriptus, bene conservatus. Continet is *tabulas astronomico-chronologicas* cum tractatu introductorio, quibus in praefatione hunc titulum fecit auctor: ، بغيّة النفس في حل الشمس. Librarius vero fol. 2. r. inscripsit titulum hoc modo: هذه نسخة (نتيجة) الافكار في اعمال الليل والنهار للعلامة محمد بن محمد اللادقي تغمده الله برحمته ، وأميين تحت فراغ في ٢٣ شوال سنة ١١٧٤. Juxta quoque adscriptum est: رسالة اللادقي. Propter quam discrepantiam in nomine libri fas erit dubitare, num vere Muhammed ille, fil. Muhammedis. Laodicemus, ejus auctor sit habendus. Fol. 2. r. praeter titulum inscriptae sunt annotationes nonnullae de longitudine urbis Qâhirae et Meccae; item de anno vulgari et intercalari; ipse vero liber incipit fol. 2. v. Indices decem capitum tractatus introductorii hi sunt: cap. I. في أيام الاسبوع ، في معرفة حساب الجمل ، cap. II. في حساب القلم الهندى ، وعلاماتها ، cap. III. في معرفة التاريخ العربى واوائل سنين وشهوره بالحساب ، cap. IV. في معرفة التاريخ القبطى ، cap. V. في معرفة مقوم الشمس ، cap. VI. التاريخ الرومى ، cap. VII. في نقل مقوم لبلد اخرى ، cap. VIII. في معرفة وقت ، cap. IX. في معرفة الشمس في البروج الاثنى عشر ، cap. X. في معرفة وقت ، cap. XI. في معرفة الشمس في البروج الاثنى عشر ، cap. XII. في معرفة الشمس في البروج الاثنى عشر. Absolvuntur haec omnia cum coronide fol. 10. r. Deinde sequuntur tabulae computatae ex horizonte urbis Qâhirae. Et primae quidem tabulae fol. 10. v. 11. r. inscriptum est: جدول تقويم الشمس على الرصد الجديد لصول ندمه من ساحل البحر العربى ، Fol. 11. v. Arabum anni 1169—1203. componuntur cum annis Coptorum 1473—1506. Fol. 12. r. destinatum erat tabulae, quam praetermisit librarius. Alias tabulas astronomicas exhibent foll. 12. v.—26. r.

Pertinet ad codices a Niebuhrio Hauniam missos; vid J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, T. II. pag. 80. n. 12.

XC.

(N. 24. in fol.; olim N. 22. in fol.)

Codex in fol., foll. 75. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Continet hic codex *ephemerides anni solaris*, qui incipit a die 14to mensis Szafar a. h. 1057. (Chr. 1647.), conditas a *Muhammede el-Maghrîbi*. Fol. 1. r. in parte inferiore paginae prope marginem exteriorem transverse inscriptum est: تقويم السنة الشمسية الواجبة في ١٤ صفر العربيه حساب الفقير محمد الكتبى *) عفا عند ، ommissa, ut vides, anni Arabici nota, quam e praefatione ipsoque libro deprompsimus. Praefatio incipit fol. 1. v. his verbis: الحمد لله الملك ، العالم العالم بما كان وما يكون من غير تعليم ، Compositum esse librum Qâhirae concludere licebit ex inscriptione capitis introductorii, quod praefationem excipit, fol. 2. r. med.: الكلام على احوال مصر الخروسة صينيت من الضمير والخروسة ، احكام طالع حصرة مولانا سلطان ، جدول معرفة : الاسلام آيد الله بانتصر التمام ، صورة ضوائع البلدان والاقليم والحكم علينا ماقول الحما ، المتقدمين ، multaeque tabulae astronomico-chronologicae, orationi continuatae intermixtae, usque ad medium fol. 75. v., ubi adjicitur clausula: حساب العبد الفقير الى الله تعالى شيخ محمد المغربى الحنفى ، عامله الله باطفه الحقى ،

XCI.

(N. 36. in 4to; olim N. 77. in 4to.)

Commentarius uberior, quo carmen suum astrologicum instruxit Abû 'Abd allâh Muhammed bin Sa'ûd es-Sûsî, in fol., foll. 76. chartae laevigatae, char. Neschi, sed Africana manu, eleganter magis quam accurate scriptus, bene conservatus. Auctoris nomen, quod dedimus, legitur fol. 1. v. in limine libri. Praefationis initium hoc est: الحمد لله الذى من علينا

*) Ita legendum videtur hoc cognomen, in ipso codice non distincte scriptum.

والنبار، (sic) أَيْبِل اوقت علم اوقت اَيْبِل. *Plenius exhibet ea nomen auctoris, fol. 2. r. lin. 5. 6.: محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى بن احمد بن داود بن محمد بن بكر بن يعزى السوسى المرغنى* Krafflius, die Handschriften der orient. Akad. zu Wien, p. 138. n. CCCXLV., nisi quod alterum cognomen effert: el-Merghischi. Ab ejusdem viri docti sententia in nomine quoque poematis efferendo recedimus, hoc commentario illustrati, legentes: *المُفَنِّع في علم ائى مُفَرِّع*. Incipit commentarius fol. 2. v. lin. 3., absolvitur fol. 75. v., ubi in fine paginae nomen demum commentario

imponit auctor: *وسميت هذا الشرح الممتع في شرح المفنِّع ومعناه انه يتتبعك اذا نظرت فيه مسايل من العلم*. Est igitur idem liber, quem descripsit Krafflius l. l. *Commentarii brevioris, cui nomen المفنِّع على مسايل المفنِّع, notitiam supra dedimus sub N. LVI, 5. — Quae sequuntur fol. 76. r. et v., ad ipsum librum non pertinent; post preactionem absolutae operae adjectam, ut videtur, a librario adduntur notulae nonnullae de variis ponderibus, de Romanorum mensibus cet., litterarum denique Syriacarum delineatio rudis.*

CODICES DE GEOGRAPHIA ET HISTORIA NATURALI IN UNIVERSUM.

XCH.

(N. 25. in fol.; olim N. 39. in fol.)

Compendium de rebus mundi mirabilibus, cui nomen: تحفة الالباب وخبئة الاعجاب i. e. Donum cordibus oblatum et res mirabiles selectae, auctore Abū 'Abd allāh Mu'hammed bin 'Abd er-Rā'him bin Sulcimān bin Abi --rrebi' el-Quisi el-Audalusī el-Gharuūfī; fol., foll. 30. chartae Europaeae, char. Africano recentiore manu satis bene scriptum. Praefatio incipit fol. 1. v.; capitulum index hic est: Fol. 2. v. cap. I.: في في صفة الدنيا وسكانها من انسيها وجنينا, fol. 5. r. cap. II.: في صفة عجائب البلدان وغرائب البنين, fol. 18. r. cap. III.: في صفة البحار وعجائب حيواناتها وما يخرج منها من العنبر والنفار وما في جزائرها من انواع انقط في صفة الحفاهيم والقبور. وما صنعت من العظام ليوم النشور, fol. 23. v. cap. IV.: In fine codicis, fol. 29. r., librarius auctorem hunc librum conscripsisse narrat a. h. 420. (Chr. 1029.); sed id manifesto nititur errore, cum ipse profiteatur fol. 21. r. lin. 9., se in Aegypto versatum esse a. h. 512. (Chr. 1118.) Conf. praeterea Hāg'i Chalfa, vol. II. pag. 222. et

Herbelot s. v. *Tohfat alalbab u nokhbat alaa-giab.*)* — Exaratus est codex noster a. h. 1187. (Chr. 1773.), mense ربيع الثنوع. Foll. 29. v. 30. nihil habent scripti.

XCH.

(N. 37. in 4to; olim N. 11. in 4to.)

Compendium geographiae et historiae naturalis notissimum, cui nomen: خريدة العجائب خريدة العجائب i. e. Margarita rerum mirabilium et unio rerum memoria dignarum; in 4to, foll. 213. chartae laevigatae, char. Neschi non male scriptum. Titulus libro praefixus, fol. 1. r., nomen auctoris hoc modo tradit: Sirāg' el-dīn Abū 'Hafs' 'Omar bin Mazhaffur b. Mu'hammed b. 'Omar Abi --lferāris Ibn el-Werdi el-Quraschī el-Bekrī. Incipit praefatio fol. 1. v.; absolvitur liber fol. 213. r. Scriptus est mense Ramadhān a. h. 1031. (Chr. 1622.); librarii nomen منصور العطار. Conf. severum de hoc

*) In Catal. Bibl. Goth. n. 304. corrigendum est الاحباب pro الالباب.

libro 'Häg'i Chalfae judicium, vol. III. pag. 132. sq. Vid. praeterea Wüstenfeld, Literatur der Erdbeschreibung bei den Arabern, in diario: Zeitschrift für vergleichende Erdkunde, herausgeg. von J.G. Lüdde, vol. I. pag. 55. sq.

XCIV.

(N. 26. in fol.; olim N. 40. in fol.)

Ejusdem libri apographum alterum, fol., foll. 90. chartae Europaeae, char. Africano recentiore manu, eademque, ut videtur, qua codex noster XCII., satis bene scriptum. Praemittitur codici, fol. 2. r., notitia brevis, char. Rabbinico, sed lingua Hispanica scripta, quam h.l. char. Romano reddimus: "El nombre de este libro es el diamante bueno, onde esta el globo de todo el mundo, ciudades de tierra y de la mar, islas y todas cosas del mundo todo, bien claro, cosa por cosa." Subjungitur altera notitia, codicem XCII. spectans, olim cum hoc nostro uno volumine compactum, cujus haec fere sunt verba: "Tam bien esta en el otro libro, onde dice el auctor de dijo (?) se llama essech el fekih el imam Sidi Muhamed ben Abderechim ben Suleiman el Garnadi el Kaisi; Dios lo tenga en piedad! Amen." — Praefationi fol. 2. v. superscripta sunt haec: *عذة خريدة العجب (sic) في ذكر اقليم البلدان والجزور*, *والجزور وغيرهم وبالله تعالى التوفيق*, fol. 89. v.; absoluta est scriptio mense ربيع a. h. 1189. (Chr. 1775.)

XCV.

(N. 38. in 4to; olim N. 53. in 4to.)

Ejusdem libri apographum tertium, ab initio mutilum; in 4to, foll. 225. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptum. Incipit codex, ut nunc est, fol. 2. r., ab his verbis, quae leguntur in editione Tornbergii*)

*) Fragmentum libri Margarita mirabilium auctore Iba-el-Vardi, Prooemium, Caput II. III. IV. et V. continens. Pars prior. Upsal., 1835. 8vo.

fol. ٥. lin. 7. a line: *أن الكتب الموضوعه*, ita ut duo codicis folia interciderint videantur. In fine codicis, fol. 223. v.—225. r., post poema illud de rebus ultimis, quod librum claudere solet*), nonnulla adduntur, schaliludium spectantia, cum delineatione tabulae latrunculariae et poemate, auctore انشريف بن اليبارية, de quo vid. 'Häg'i Chalfa, vol. III. pag. 252. n. 5227.

XCVI.

(N. 39. in 4to; olim N. 79. in 4to.)

Flores selecti, liber agens *de rebus mirandis in terra marique*; codex in 4to, foll. 158.***) chartae Europaeae, char. Africano satis bene scriptus. Fol. 2. r. inscriptum legitur: "Ignoti auctoris epitome de admirandis maris et terrae. Arabice, ex Africa." Sed e catalogo librorum, ex 'Häg'i Chalfa excerpto, auctorem esse discimus *Sehems ed-dinum Muhammed bin Abi Talib el-Anszari*. Incipit libri praefatio fol. demum 11. v. et ab his quidem verbis: *الحمد لله*

فيذا كتاب سميتة نخبة الزهر في عجائب المير والجم يشتمل على علم هيعة الارض [و] اقليمنا وتقاسيمنا واختلاف القدماء في ذلك وعلامتنا ومعورحنا من انجار المنصلة والانبهار والنفصلة والجزاير والجبال والانبهار cet. Fol. 12. r.—16. r. indicatur libri divisio in novem capita et singulorum capitum in sectiones (فصول). Ipsi libro, incipienti fol. 16. r., passim additae sunt delineationes variae; interdum spatia, delineandis mappis geographicis destinata, vacua sunt relicta, ut fol. 25. v. 27. r. 32. r. et v. — Fol. 148. v. librarius negligens, vel potius fallax, a capitis septimi sectione septima saltu progreditur ad sectionem octavam capitis noni, quae est ultima libri. Fol. 151. r. adjicitur tabula mensium Arabicorum, Persicorum, Copti-
corum, Syriacorum aliorumque; fol. 151. v. legitur clausula finalis tantum: *انتبهي الكتاب المبارك* cet. Folia, quae sequuntur, vacua sunt.

Aliud ejusdem libri exemplum recensetur in catal. Bibl. Richianae, N. 308. (Fundgruben

*) Conf. Fleischeri Catal. Bibl. Reg. Dresd. n. 102.

**) Signata sunt codicis folia numeris 2—159.

des Orients, vol. IV. pag. 293.) Sed ibi impressum est: نخبة الدعر; mendose, ni fallimur. Ceterum catalogi ejus auctor lectorem ablegat ad Herbelotium: nobis vero non contigit reperire in Biblioth. orientali locum, ubi de scriptore nostro agatur. Susplicamur tamen ejusdem auctoris esse codicem Parisiensem illum, ex quo clar. Norberg exprompsit particulas nonnullas, de templis Solis, Lunae et Saturni apud Sabios; Lond. Goth., 1798. et 1799. 4to.

XCVII.

(N. 40. in 4to; olim N. 42. in 4to.)

Auctoris anonymi *liber de geographia et historia naturali*. cui nomen: الدر المنصود في عجائب الوجود i. e. Margaritae bene ordinatae, liber agens de rebus mirabilibus mundi; codex in 4to, foll. 125.*) chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, ab initio et in fine mutilus; quamobrem fol. 1. r. superscriptum est: "Fragmentum operis geographici." Ab initio tamen unum tantummodo folium deesse videtur; ipsum certe fol. 1. et folii 2. initium in praefatione versantur, quae libri nomen, quod dedimus, exhibet et divisionem in sex capita indicat. Caputum recensio hic est: cap. I. في ذكر المبدأ وثمان الخليفة ووصف الارض وتربيعها وما في ذكر شرف. cap. II. خص الله به كل جزو من اجزائنا، مم على الارض من تسييد (تشبييد. leg.) البنيان وماثر. cap. III. العجارات في سماير البلدان وعجائب الجبال والجزاير. cap. IV. في ذكر شرف من عجائب انواع الحيوانات البريه والبحريه. cap. V. في ذكر شرف. cap. VI. في ذكر الجموع والاحجار. Subinde adjectae sunt figurae; alibi spatia reperiuntur vacua, illis delineandis destinata. Capituli sexti pars extrema desideratur, quae arbores plantasque, alphabetico ordine digestas, inde a littera ش

complectebatur. Ultimum enim, quod adest, plantae nomen est شقايق النعجان.

XCVIII.

(N. 41. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, cui titulus: تقويم البلدان لصاحب حماة، *Geographia Ismail Abulfedae* etc.: descripsit ex autographo --, quod est in Bibl. Leidense, n. 57., Jo. Jac. Reiske. Mens. Sept. et Octobr. anni 1745. Leidae.*) Notitias varias inscripsit Reiskius et margini hujus tituli et duobus foliis, numeris non signatis, quae titulum praecedunt. Sequitur deinde in dorso ejus folii, cui inscriptus est titulus, "Carmen ex cod. Seebischiano in Abulfedae geographiam." Innui videtur codex Biblioth. Reg. Dresd., n. 379. signatus. Folium sequens continet additamentum ad ipsius libri pag. 80. Textum Abulfedae Arabicum exhibent paginae sequentes 263., numeris signatae. In margine passim adjiciuntur notulae et collationes librorum MSS., maxime Parisiensis. Pag. 263. legitur in margine: "absolvi d. 23. Octobr. 1745. domi meae." Post interpositas paginas albas decem et paginam unam, ex Assemani Biblioth. orientali excerpta tenentem, sequuntur primum folia novem notarum marginalium, Arabice scriptarum, ad Abulfedae geogr. tabulas IX—XXIV. XXVII. XXVIII.: deinde initium indicis in Abulfedae geographiam, quod tamen ultra vocem جكل non procedit; folia denique nonnulla, annotationes varias continentia. — De hoc codice conf. Reiskens Lebensbeschreibung pag. 152. n. 1.

XCIX. C.

(N. 42. et 43. in 4to; olim N. 3. et 4. in 4to.)

Volumina duo, in 4to, quibus continetur bona pars clarissimi *lexici geographici* مجمع البلدان, auctore *Abū 'Abd allāh Jūqūt bin 'Abd allāh.*

*) Turbatus est a bibliopega foliorum ordo. Is post fol. 84. collocavit foll. 103—125.; deinde foll. 95—102.; tum foll. 87—94.; denique foll. 85. 86.

*) Vid. in Catat. Bibl. Lugd. impresso n. 1700.

Volumen prius est foll. 378. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi non pulchre quidem, sed distincte scriptum. Fol. 2. r. haec legitur inscriptio male exarata: الجز [و] الاول من معجم البلدان للا - - (؟) ابي عبد الله ياقوت ابن عبد الله الرومي (sic) الاصل البغدادي المنشأ للمؤلف رحمه الله. Praefatio incipit fol. 2. v.; tractatus introductorius fol. 9. v. Dividitur is in quinque capita, quorum indicem hic subjungimus, e praefatione depromptum: cap. I. في ذكر صورة الارض, cap. II. في وصف اختلافيم في الاصطلاح على معنى الاقليم وكيفية في ذكر. cap. III. واشتقاقه ودلائل القبلة في كل ناحية, الفاظ يكثر تكرار ذكرها فيه يحتاج الى معرفتها كالمريد في بيان. cap. IV. وانفسخ والبلبل والكورة وغير ذلك, حكم الارضين والبلاد المفتوحة في الاسلام وحكم قسمة انقي في جمل من. cap. V. والخراج فيما فتح صلحا او عنوة, اخبار البلدان التي لا يختص ذكرها بموضع دون موضع لتكمل فوايد هذا الكتاب ويستغنى به عن غيره في الباب, Lexici pars prima, continens litteram Hamza, incipit fol. 34. v.; sed abruptitur illa fol. 200. r. in descriptione urbis Antiochiae (انضايه). Sequuntur deinde partes eae, quae continent litteram ذال (inde a fol. 201. v.), را (206. v.), زاي (292. r.) et سين (fol. 326. r.); haec vero abruptitur fol. 377. v., ubi ultimo loco agitur السقى.

Volumen posterius, eadem manu scriptum, duabus partibus constat, quarum prior est foliorum 171., posterior foll. 216. Fol. 2. r. legitur titulus: الجز [و] الثامن من معجم البلدان تأليف - - - ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الاصل للمؤلف رحمه الله عليه, فا. Fol. 2. v. incipit littera. Lacuna exstat fol. 21. v., ubi interrupta est lin. 9. descriptio pagi فربيط; initium vero fol. 22. r. versatur in describenda فرخشا. Fol. 57. r. sequitur littera قف, quae absolvitur fol. 171. v. Quam partem excipere debebat كتاب انكاف; sed praeter ipsam hanc inscriptionem nihil adest. Annotavit infra b. Adlerus: "Hic deest litera ك et initium litterae Mem." Adde, quod littera quoque لام omnino deest. — Alterius partis titulus, fol. 1. r., hic est: العاشر

cet. من *) كتاب معجم البلدان تأليف الاجل ياقوت. Fol. 1. v. sequitur pars litterae ميم, incipiens a nomine مكا; deinde litterae نون (fol. 50. v.), واو (126. r.), ها (164. r.) et يا (192. v.) integrae. Secundum subscriptionem finalem, fol. 216. r. et v., totum opus absolutum est Halebi die vicesimo mensis Szafar a. h. 621. (Chr. 1224.); sed haec ad nostrum codicem non referenda, verum ipsius auctoris sunt verba, a librario e codice, quem secutus est, huc translata. Obiit Jäqütus a. h. 626. (Chr. 1229.)

CI.

(N. 44. in 4to.)

Codiculus chartaceus, in 4to, paginarum 20., char. Neschi manu b. P. Lemmingii scriptus, *fragmenta nonnulla de Nigritia* tenens, excerpta e codice aliquo, ut videtur, Seetzeniano. In summa enim pag. 1. supra textum Arabicum legitur: "Kahira 1808. U. J. Seetzen." Quae nostrum apographum continet, haec sunt: primum index capitum XXVIII., de terra et rebus Nigritarum agentium; capiti primo inscriptum est: الباب الاول في ذكر من يتنسب انبيد, السودان. Deinde sequuntur excerpta breviora e capitibus I. II. IV—VI. VIII. IX. XII—XIV. X. et XI.; uberiora e capp. XVI—XIX. In media pag. 20. abruptitur codex post inscriptionem capitis XX.: الباب العشرون في ذكر شعرائهم, ومن تمثل منهم بشعر,

CII.

(N. 45. in 4to.)

Codex chartaceus, in 4to, paginarum 55., char. Neschi manu ejusdem Lemmingii scriptus, excerpta tenens e codice Parisiensi *de geographia Africae septentrionalis*. Titulus, quem vernacula lingua libro praefixit vir doctus, hic est: "Om Nordafricas Geographie, udkrevet ved Doct. P. Lemming af N. 1635. i Pariser-

*) Addita sunt a secunda manu verba: العاشر من

Bibliotheket. 1818—1819." Quae leguntur inde a pag. 3. usque ad finem pag. 44., respondent codicis Paris. foliis 28. v.—104. v., ubi is desinit. Initium est post Besmelam: ذم بلاد افريقية و حدودها و مر سميت افريقية. Sequuntur deinde pag. 45—53. excerpta e codicis Paris. foliis 9. v.—28. v.; pag. 53—55. e codicis foll. 1. r.—9. v. In fine pag. 55. Danice annotatur: "Ceder i folio, mæggebiff Skrift, ifte medtaget af Tiden, Vand og Dime, etc. Uden Begyndelse og Ende. Bladetallet er 104. r. og v. Har net hørt til Arias Montanus's Samling, efter Bindet at slutte" cet. Annotationes quoque permultae Danice scriptae, codicis Paris. lectionem spectantes, textum comitantur. In fine voluminis adjectum est folium unum, quinque lineas tenens, quae scripturam codicis illius accurate imitantur.

CIII.

(N. 46. in 4to.)

Codiculus chartaceus, in 4to, paginarum 25. praeter titulum et additamentum ad pag. 9., char. Neschi a b. Lemmingio scriptus, *descriptionem itineris per Africam septentrionalem* continens, ab homine, cujus nomen nos latet. a. h. 688. (Chr. 1289.) suscepti. Titulum praefixit Lemmingius, Danice scriptum: "En Reise fra Fes til Alexandrien, udskreven ved Doct. P. Lemming af No. 1738. i Escorial-Bibliotheket. A. 1819." Incipit pag. 1. his verbis: وهذا الرحلة بدأت بتقييدها في تلمسان --- كان سفرنا --- في الخامس والعشرين من ذي قعدة عام ثمانية وثمانين وستماية ومبداً (sic) من حاجة*) صائياً الله وكان شريقنا

*) حجة nomen est provinciae regni Maroecani; vid. Hüst Efterretninger om Marokos, pag. 67. sq. (vers. Germ.

على بلاد القبلة cet. Post absolutum librum, pag. 24. med., adjicitur brevis descriptio codicis Escorialensis 1738., char. Africano scripti, unde deprompta sunt, quae praecedunt; sed non indicatur quo numero signetur ille in catalogo Casiri impresso. Pag. 25. denique habes excerpta e praefatione libri, quae tamen de auctore ejus certiores nos non faciunt. Fortasse suspicari fas est, codicem illum a Casirio describi vol. II. pag. 165. n. 1733., auctoremque esse ابو محمد العبدري البلسي.

CIV.

(N. 27. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 12. in 4to.)

Fragmentum descriptionis Hispaniae, auctore ignoto; codex in fol., foll. 43. *) chartae Europaeae laevigatae, char. Neschi manu, ni fallimur, Michaëlis Szabbagh scriptus. Incipit fol. 1. r. a capite primo, cujus haec est inscriptio: انبأب الاول في وصف جزيرة الاندلس وحسن حوايينا واعتدال مزاجينا ووفور خيراتها واستوائينا واشتمالينا على كثير من الخاسن واحتوائينا وكرم بقعاتنا التي سقتنا سماً انبركات بنافع انواعينا وذكر بعض ما نثرها الجلوة النصور وتعداد كثير ما لنا من البلدان والكور المستمدة من اضوائينا. Desiit codex fol. 45. v. in fine capituli illius. Adjecta sunt folia nonnulla alba, quorum ultimo inscripsit clar. Silvestre de Sacy: "Fragmens extraits d'une Description de l'Espagne. 6 cahiers."

pag. 70.); Graberg von Hemsö, das Sultanat Moghribul-Aksá, übers. von A. Reumont, pag. 6.

*) Signata sunt ea numeris 1—30. 32—40. 42—45.

CODICES DE HISTORIA ANIMALIUM.

CV. CVI.

(N. 47. et 48. in 4to; olim N. 45. et 46. in 4to.)

Ed-Demirî de vita animalium opus majus, alphabetico ordine digestum; volumina duo, in 4to. Volumen prius est foliorum 402. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi medioeriter scriptum. Fol. 1. r. legitur titulus: الجزء الأول من حياة الحيوان الكبير* للشيخ الدميري رحمه الله تعالى، Post praefationem (fol. 1. v.) incipit littera Hamza (fol. 2. r.) a descriptione leonis, quem honoris causa ceteris animalibus praeponendum duxit auctor. Pergit hoc volumen usque ad finem litterae Sin, fol. 401. v.**)

Volumen posterius, foliorum 588. chartae laevigatae, multo melius scriptum est et incipit fol. 2. v. a littera Schîn: absolvitur fol. 585. v. Docet subscriptio totum opus ab auctore Muhammed bin Mûsa bin 'Isâ bin 'Ali ed-Demiri esse absolutum mense Reg'eb a. 773. (Chr. 1372.); apographum nostrum ad finem perductum a. 1142. (Chr. 1730.) ab Ahmede fil. Abû -Icheir.

*) Vox الكبيرى recentiore manu addita est, deprompta fortasse ex utriusque voluminis subscriptione finali.

**) Non deest in exemplo nostro historia Chalifarum, s. v. أوز inserta; vid. P. de Gayangos, the hist. of the Mohammedan dynasties in Spain, vol. I. pag. XXVII.

De Demirio et utraque vitae animalium editione, majore et minore, vid. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 122. sq.; Wüstenfeld, Geschichte der arab. Aerzte und Naturforscher, pag. 154. sq. Conf. praeterea indicem omnium animalium, de quibus agit editio major, apud Hammerum, Wiener Jahrbh., vol. LXVI. Anzeigeblatt, pag. 35. sqq., et quae idem vir doctus annotavit in eisdem diarii vol. C. pag. 74.

CVII.

(N. 49. in 4to.)

Codiculus chartacens, in 4to, paginarum 16., manu b. Lemmingii scriptus. Titulus primae paginae inscriptus hic est: "1. *Liber camelorum* et 2. *Liber ovium*, auctore Adsmâi. (Om Kamelernes og Faarenes Naturhistorie.) Udskræve af N. 1700. i Esenrial-Bibliotheket ved Doctor P. Lemming. A. 1819." Pag. 3. incipit: كتاب انشاء للاصمعي، liber ovium, auctore *Aszma'i*; clauditur is pag. 7. — Sequitur pag. 8.: كتاب الابل عن ابي سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي، liber camelorum, auctore eodem, usque ad pag. 15. Adjiciuntur pag. 16. notulae nonnullae, a Lemmingio Danice scriptae, de reliquis libris Arabicis, quos continet idem codex Esenrialensis. Cf. Casiri Biblioth. vol. II. pag. 157.

CODICES DE MEDICINA.

CVIII.

(N. 24. in 8vo; olim N. 28. in 8vo.)

Libellus de sanatione prompta, auctore clarissimo medico Abû Bekr Muhammed bin Zakhirijâ er-Râzi; in 8vo, foll. 13. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus. Fol. 1. r. inscriptus est titulus: كتاب بروتو (sic) ساعة للشيخ العارف بالله تعالى أبو بكر

محمد بن زكريا الرازي في علم الطب رحم الله مؤلفه أمين، Praefationis initium, fol. 1. v., hoc est: الحمد لله مستحق الحمد كما هو اخله والصلاة Dividitur libellus in XXV. capita, quorum primum incipit fol. 2. v. lin. 7. Sed codex in fine mutilus desinit in medio capite XXIV., fol. 13. v. Cf. Wüstenfeld, Gesch. der arab. Aerzte und Naturf., pag. 43. n. 9.

CIX.

(N. 50. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, paginarum 368. Titulus paginae primae inscriptus hic est: "Liber medicus كتاب زاد المسافر في علاج الادواء التي تعرض في الجسد، Zad el Mosaferi seu 'Eφόδια τοῦ ἀποδημοῦντος vel *Viaticum Peregrinantis*, auctore Abi Gaḡfar Almado, filio Ibrahimi, filii Abi Chaledi, arabice ex codice msto Seebischiano, sed eo non optimae notae, foliorum 302., descripsi. Jo. Jac. Reiske." Incipit ipse liber pag. 3., absolvitur pag. 359. Subscriptionem adjecit Reiskius, quae sequitur: "Incepi Dresdae incunte Augusto et absolvi Lipsiae d. 11. Sept. 1747. — In his desinebat codex Seebischianus fol. 303. p. 1. A fol. 303. p. 2. incipiebat liber Arabicus كتاب عمل العطريات liber de praeparatione odoramentorum, quem nolui describere. Continuabat is ad finem usq. codicis, id est ad pag. 2. fol. 339. adeoq. implebat fere fol. 37." — Sequetur pag. 360—362. index capitum, quem cl. Seebisch codici suo adjecerat; pag. 363—368. ejusdem Seebischii notae de hoc libro ejusque versione Graeca.

De ipso auctore, quem *Ibn el-G'ezūr* appellare solent, mortuo post a. h. 400. (Chr. 1099.), atque de ejus libro vid. Wüstenfeld, *Gesch. der arab. Aerzte und Naturf.*, pag. 60. sq.; 'Häg'i Chalfa, vol. III. pag. 528. Conf. *Fleischer Catal. codd. Bibl. Reg. Dresd. n. 209. Reiskens Lebensbeschr.* pag. 158.

CX.

(N. 51. in 4to; olim N. 48. in 4to.)

Clarissimi medici *Davidis Antiocheni liber memorialis cordatorum et collectio mirandorum*, 4to, foll. 443. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, ab initio paululum laesus. Praefationis initium, fol. 2. v.: سبحانك مبدع مواد الكاينات بلا مثال سبق، نomen, quod libro imponit auctor, hoc est: تذكرة اولى. Dividitur in intro-

ductionem, quattuor cap-la et coronidem; sed caput quartum, singulos morbos ordine alphabetico persequens. in hoc nostro codice, ut in aliis plerisque, ultra litteram ط non procedit: reliqua desunt. Incipit introductio fol. 3. v.; cap. I. fol. 8. r.; cap. II. fol. 17. r.; cap. III. fol. 31. r.; cap. IV. fol. 306. v. Absolvitur quod adest fol. 442. v. Vid. de hoc libro ejusque mutilatione 'Häg'i Chalfa, vol. II. pag. 260. sq. Cf. Wüstenfeld, l. l. pag. 158.

CXI.

(N. 52. in 4to; olim N. 64. in 4to.)

Auctoris anonymi *tractatus de re medica*, qui vocatur *Quaestiones Schihäbicae*, 4to, foll. 78. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Initium praefationis, fol. 1. v.: الحمد لله الذي خلق مخلوقات بقدرته وعلم الانسان ما لم يعلم بحكمته. Narrat auctor, hunc tractatum, cui nomen: رسالة انسايل الشيبائية (sic) في الصناعة الطبية, compositum esse in gratiam bibliothecae domini Schihäb ed-din 'Ahmed bin 'Isä. Halebi dynastae; indeque procul dubio libri nomen repetendum est. Dividitur in octoginta capi'a, quorum index habetur fol. 1. v.—3. v. Absolvitur caput ultimum fol. 78. r.; additur subscriptio: تم كتاب مسایل الرسائفة (sic) انشيبائية في علم الصناعة الطبية، Scriptum est apographum nostrum a. h. 1095. (Chr. 1684.) mense Rebi' priore.

CXII.

(N. 28. in fol.; olim N. 20. in fol.)

Ibn G'azlae liber pharmacologicus clarissimus, cui nomen: منتج ابييان فيما يستعمله الانسان، i. e. Via regia explicationis, liber agens de iis, quibus uti solet homo: in fol., foll. 307. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi magno bene scriptus. Libri titulum exhibet fol. 1. r., sed subjungitur, quod ad rem non pertinet: وعوايضاً من مفردات ابن ابييضار نفع الله به امين امين،

— Auctoris nomen in codice nostro non deprehendimus, notatur vero in altero, quod sequitur, ejusdem libri apographo. Integrum nomen, de quo dissentiant viri docti, videtur fuisse: أبو على يحيى بن عيسى ابن جزلة. Vid. Wüstenfeld. Gesch. der arab. Aerzte und Naturf., pag. 84. sq. Conf. Silvestre de Sacy, chrestom. Arabe, 2e édit., vol. I. pag. 268. sq. — Praefationis initium idem est, quod ex Hâg'i Chalfa dedit de Sacy. Recensus medicamentorum alphabeticus incipit fol. 15. v., absolvitur fol. 307. r., ubi adjicitur subscriptio finalis; scriptionis annus non indicatur. Folia 1—20. et ultimae tres paginae alia manu scripta sunt, atque reliqua libri pars.

CXIII.

(N. 53. in 4to; olim N. 63. in 8vo.)

Ejusdem libri apographum alterum, in 4to, foll. 340. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Fol. 1. r. inscriptus est titulus: كتاب منياج البيان* (sic) لابن جزلة في (sic) منياج البيان صناعة الطبيب الفاضل يحيى بن جزلة (sic). Praefatio incipit fol. 1. v.; recensensus medicamentorum fol. 20. r.: absolvitur liber fol. 339. v. Subscriptio docet, scriptum esse hoc apographum in usum Mu'hammedis ejusdem, fil. Chalili, a librario أحمد النمسيسي et ad finem perductum mense Schawwâl a. h. 1039. (Chr. 1630.) Fol. 340. annotata sunt nonnulla, e scriptis Râzii excerpta.

CXIV.

(N. 54. in 4to; olim N. 70. in 4to.)

Tubulae pharmacologicae, auctore, si librario fides habenda, *Ibn el-Beitâr*; codex in 4to, foll. 116. chartae laevigatae, char. Neschi di-

*) Reposuit secunda manus الأنبيان; antea scriptum erat: الدكان.

**) Verba في النطب a secunda manu addita.

stincte scriptus. Titulus inscriptus est fol. 2. r.: كتاب الطب لرئيس الحكماء للشهيد الفاضل ابن البيطار نفعنا الله بعلومه وبركاته أمين. Praefatione hic liber caret: sequuntur enim inde a fol. 2. v. tabulae, quibus medicamentorum ratio et usus breviter exponuntur. Varii, quos quaeque tabula persequitur, tituli hi sunt: النوع، الماعية، الادوية، منفعة في اعضاء الراس، القوة، المزاج، الاختيار، منفعة في اعضاء الغدا، منفعة في آلات النفس، كيفية استعماله، كيفية استعماله، جميع البدن، ما يستعمل منه، عدد الادوية، بدله، اصلاحه، مضرته. Disponuntur varia medicamenta secundum ordinem alphabeticum, qui vocatur اجد. Primum, de quo agitur, est اترج; ultimum غالية, fol. 115. r. Panca in fine desiderantur. Dispositione et tota ratione abhorrent hae tabulae a majore illo *Ibn el-Beitâr* opere, quod vocatur جامع مفردات: الادوية والاغذية, ideoque nobis quidem veri simile non videtur, utrumque librum ejusdem esse scriptoris.

CXV.

(N. 55. in 4to; olim N. 38. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 79. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, usu aliquantum tritus. Continet is:

I. Librum, qui vocatur: اندرة المختبة في الادوية الأجنبية، i. e. *Margarita selecta*, liber agens *de medicamentis probatis*, laudatum ab Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 211. sq., et Naszro. fil. Naszri, auctori adscriptum. Ab ejus tamen sententia recedit is, qui codicem nostrum scripsit eique fol. 1. r. hunc titulum praefixit: كتاب الادوية (الندرة) المختبة في الادوية الأجنبية والصناعات المستعربة (المستعربة) والاعمال الحسنه المقربة (sic) تأليف القاضي العارف العلامة الورع الواحد ابي بكر محمد cct. *) Praefationis initium, fol. 1. v., idem est, quod dedit Hâg'i Chalfa:

*) Corrigendum videtur: ابي بكر بن محمد بن ابي بكر. Infra hunc titulum annotatum est: "Ex bibliotheca Erici Rosencrantz."

librum vero composuit auctor jussus a Davide. fil. el-Melik el-Muzhaffar, fil. el-Melik el-Manszûr; atque sic corrigendus est Hag'i Chalfae textus impressus. Dividitur quidem hic liber in duodecim capita; sed abrumpitur in codice nostro, fol. 46. v., in medio capite XI. — Sequuntur deinde:

II. *Excerpta e variis libris, de re medica* maxime agentibus, fol. 47. r.—69. v. Et primum quidem fol. 47. r.—55. v. ex anonymo libro leguntur capita nonnulla, quorum hi sunt tituli: باب منافع — باب في طرد النيوام والحشرات، — باب منافع القنفذ، — باب منافع الخمار، — البقر، — باب منافع — باب منافع التمساح، — منافع الثعلب، — الوعل. Haec alia excipiunt, ex alio libro, ut videtur, deprompta, fol. 55. v. extr.—66. v.

Singulis sectionibus praefiguntur inscriptiones hujusmodi: دوا لوجع الاسنان، — دوا لوجع دوا — دوا للشعر، — دوا للخصبة، — الاضراس، — تضعف المعدة، cet. Interpositis excerptis nonnullis, quae medicinam non spectant, subjungitur denique indicatio remediorum variorum, non eadem manu scripta et pessime exarata, fol. 68. r.—69. v. — Adjicitur in fine codicis:

III. *Tractatus de compositione medicamentorum*, auctore, si librario fides habenda, *Schems ed-dino Muhammede*. Hunc enim titulum libello praefixit, fol. 70. r.: خواص من الاقرايذينا ومنافع غير واحد نلشبيخ شمس الدين محمد شبيخ والنوايف رحمه الله، cet. Initium libri, fol. 70. v., hoc est: انقول في عمل الاشرية واللعوق والربويات وقنون، العمل في الاشرية، cet. Absolvitur fol. 79. v.

CODICES DE HISTORIA.

CXVI.

(N. 25. in Svo.)

Codex Reiskianus. in Svo. paginarum 419. Titulum inscripsit Reiskius pag. 1: كتاب المعرف في اخبار العرب وانسابهم تأليف ابي محمد عبد الله بن *Ibn Cotaibah Notitiae et origines* virorum apud Arabes aut rebus gestis aut eruditione illustrium per tria ferme prima Hegrae saecula. Descripsi ex codice quondam Warneriano. nunc Bibliothecae Leidensis n. 752., sed eo pessimae notae. Joann. Jacob Reiske. Leidae mense Octobr. et Nov. 1745." Praemittuntur titulo folia duo, variis notitiis impleta; alias continet pag. 2. Ipsum Ibn Quteibae apographum incipit pag. 3. Sub finem pag. 8. annotavit Reiskius: "Transsillii hic a pag. 9. usq. ad p. 47. de prophetis;" similiterque sub finem pag. 408.: "Transibo reliqua de regibus Himjaritis, quia jam alibi

habeo." In fine codicis denique, pag. 419., leguntur haec: "Hic sequebatur caput de regibus Persarum, quod, quia alias habeo, neglexi. Sic, si hoc caput exceperis. et caput de regibus Homeritarum, et caput in initio libri, de prophetis et sanctis veteris Testamenti, totum habeo كتاب المعارف Ibn Coteibae in his paginis, verbulo non multatum. Q.F.F.S. — Absolvit d. 22. Nov. 1745. Leidae." Adjicitur etiam librarii subscriptio finalis, qualis in codice Lugdunensi legitur. — Conf. de hoc libro Catal. Biblioth. Lugd. n. 1773. Reiskii Prodidagmata, in caele libri: Abulfedae tab. Syriae, ed. J.B. Köhler; pag. 231. Reiskens Lebensbeschr., pag. 165. n. 37. Hamakeri specimen catal. codicum Bibl. Lugd., pag. 1. sqq. Mölleri Catal. Bibl. Goth. n. 316. Catal. Bibl. clar. de Hammer, Wiener Jahrbh. vol. LXVIII. Anzeigbl. pag. 51. sq.

Ex hoc apographo Reiskiano Eichhornius in libro, qui inscribitur: Monumenta antiquiss. hist. Arabum, edidit genealogias Arabum (p. 61—148. Eichh.), historiam regum Gassaniorum (p. 150—171.) et historiam regum Hiraë (p. 178—203.); de quibus conf. Schnurreri Biblioth. Arab. pag. 160. sq. Aliam ejusdem apographi particulam (cod. nostri p. 297—303.) edidit J. L. Rasmusen in additamentis ad hist. Arabum ante Islamismum, p. $\nu\alpha$ — $\nu\zeta$.

CXVII.

(N. 56. in 4to.)

Ejusdem libri apographum alterum, in 4to, quod e Reiskiano accurate descripsit Joh. Bernh. Köhler, partim, ut annotavit in ipso titulo, pag. 1., Lipsiæ a. 1763. mense Aprili, maximam vero partem, a pag. 100., Lubecæ mensibus Augusto et Septembri a. 1780. Praemittuntur titulo eadem notitiæ, quas suo apographo praelixerat Reiskius; ipse liber continetur paginis 3—319., ubi in fine legitur: "Absolvi ipse Lubecæ d. 6. Octobr. 1780."

CXVIII.

(N. 57. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, historici maxime argumenti. Continet enim:

I. *Excerpta e Mas'ūdii prætis aureis*, et capita quidem I—VIII. X. et XI. integra, capitum vero XII—XIV. partes; quæ paginas occupant 104., notis passim auctas. Praecedit etiam Index in Mas'ūdium foliorum 16. De hac codicis parte conf. Reiskii Prodidagmata, pag. 235.; de cod. Lugdunensi n. 1730., quo videtur usus esse Reiskius, vid. Hamakeri Specimen Catal. Bibl. Lugd. pag. 46. Conf. praeterea quæ annotavit Guil. Cureton in Catal. Codd. Orient. Musei Brit. parte II. pag. 142. Sequuntur:

II. *Excerpta de rebus medicis*, foll. 12. Pag. 1. in superiore parte marginis hæc leguntur: في الطب النبوي "Collectanea medica Levini Warneri." Constant ea capitibus duobus, in sectiones LIX. divisas; sed multa in fine omituntur, neque de auctore libri nobis constat. Multi enim sunt de medicina prophetica scriptores, ut videre licet apud Håg'i Chalfam, vol. IV. pag. 131. sq., et in Catal. Bibl. Lugd. impresso liber ille, quem exscripsit Reiskius, non videtur recenseri. Excerpta de medicina prophetæ alia excipiunt de simplicibus cet. Annotavit Reiskius in fine, fol. 12. r.: "d. 21. April. 1746."

III. Claudunt volumen *Excerpta e libro: طبقات الشافعية* i. e. *Classes Schāfi'itarum*, auctore Tāg' ed-din 'Abd el-Wahhāb Ibn es-Subkī, quæ Reiskius descripsit e cod. Lugdunensi duorum voluminum, n. 1860. catalogi impressi; vid. ejus Prodidagmata, pag. 237. Conf. praeter Håg'i Chalfam, vol. IV. pag. 139—143., Hamakeri specimen catal. Bibl. Lugd. pag. 173. not. 605.

Reiskius excerptis suis inscripsit: "Particula exigua ex as-Sabakeo. Obiit anno 755;" sed erravit vir doctissimus et in efferendo hujus scriptoris nomine, et in indicando mortis anno. Diem enim obiit Ibn es-Subkī a. h. 771. (Chr. 1379.) anno vero 756., aut fortasse 755., pater ejus; vid. Håg'i Chalfa, vol. I. pag. 143. n. 19. F. Wüstenfeld, die Academien der Araber, pag. 40. sq. Post titulum sequitur in apographo nostro Reiskiano Index "auctorum, quos citat as-Sabakensis," nomina 47 enumerans. Deinde in foliorum 38. parte anteriore scripta sunt excerpta e primo volumine operis Ibn es-Subkī; pars posterior versionī adjiciendæ fortasse erat destinata. Post interposita nonnulla folia alba incipiunt excerpta e tomo secundo, sed ultra tertiam paginam non continuantur. — Ceterum de hoc codice nostro vid. Reiskens Lebensbeschr., pag. 160. n. 16.

CXIX.

(N. 26. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, cui hunc titulum praefixit Reiskius: كتاب فيه تاريخ الامم تليف حمزة بن الحسن الاصمعياني *Hamzah Ispahanensis Ratio-*
narium Temporum, quo successiones regum Persarum, Romanorum, Graecorum, Judaeorum, Aegyptiorum, Lachmitarum, Gassanidarum, Kenditarum, Koreischitarum, Chorasanicorum etc. traduntur; e codice msto Bibliothecae Leidensis n. 767. legati Warneriani descripsit Jo. Jacob Reiske." Infra scriptum est: "Codex pro principe quodam videbatur scriptus fuisse, tam grandi, pulchro et magnifico caractere erat exaratus. Modo aequae bene et accurate fuisset scriptus, quam pulchre fuit. Multum etiam ab aqua et putredine passus erat;" et e regione tituli vir doctissimus annotavit: "Hunc librum is demum recte intelliget, qui Persice calleo." — Non tamen integrum hic habes illius libri apographum, sed excerpta tantum, quae paginas implent 157. Adsunt post praefactionem capitis primi pars maxima, secundi pars exigua; capita VI. VII. et IX. integra; decimi partes. Conf. Reiskii Prodidagmata, pag. 230. sq. In fine libri legitur: "Absolvi Leidae d. 14. Septembr. 1745." Adjicitur "Index in Ibn Hamzah Ispahanensem"; sic enim per errorem scripsit Reiskius. Ceterum vid. Reiskens Lebensbeschr. pag. 165. n. 41.

Ex apographo Reiskiano capita VI. VII. IX. et decimi sectiones I. et II. publici juris fecit J. L. Rasmussen in libro, qui inscribitur: *Historia praecipuorum Arabum regnorum ante Islamismum*. Haun., 1817. 4to. Integrum librum e codd. Lugdunensi et Habichtiano edidit I. M. E. Gottwaldt. Petrop. et Lips., 1844. Svo.

CXX.

(N. 27. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, continens:

I. *Excerpta e clarissimo libro* ومراة الزمان

auctore *Schems ed-din Abū -Imzahaffar Jūsuf bin Qara 'Alī sibt G'emāl ed-dīn Abī -Ifereg' ibn el-G'auzī*. Reiskius inscripsit pag. 1.: "Excerpta ex libro *Abil Muthaffari Jusef el Gjuzi* *ibn el-G'auzī* sen *Speculum Temporum* dicto, spectantia historiam Muhammedis maxime. Ex codice Leidense Warneriano n. 973. (Catalogi p. 480. n. 1750.)" Haec excerpta paginas tenent 3—81.; vid. Reiskii Prodidagmata, pag. 234. Conf. praeterea Mölleri Catal. Bibl. Goth. n. 239. Curetoni Catal. Codd. Orientt. Musei Brit., P. II. pag. 145. — Adjiciuntur recensensus scriptorum, ab auctore libri laudatorum, et "Index in الجوزي".

II. Posteriorem codicis partem occupat *apographum partis lexi geographici*, auctore *ez-Zamachscharī*. Titulum inscripsit Reiskius pag. 1.: كتاب الجبال ولامكنة (sic) وأمياه تصنيف الشيخ الامام ابى اسحق * انقاسم محمد بن عمر الزمخشري رحمه الله. Postmodum addidit: "Est liber non magni momenti aut usus. Habui a cl. Abraham Gronovio." Incipit textus Arabicus pag. 3.; abrumpitur pag. 51., ubi agitur de شاجب. De hoc libro vid. Hamakeri Specimen catal. Bibl. Lugd., pag. 113. sqq. Wüstenfeld, *Literatur der Erdbeschr. bei den Arabern*, in diario: *Zeitschrift für vergl. Erdkunde*. Vol. I. pag. 40. — Praecedunt apographum Reiskianum et recensensus auctorum vel poetarum, quos citat Zamachscharius, et index geographicus. — Codicis nostri fit mentio in libro: *Reiskens Lebensbeschr.* pag. 165. n. 35.

CXXI.

(N. 29. in fol.; olim N. 8. in fol.)

Compendium historiae dynastiarum, auctore *Gregorio*, filio *Aharonis*, Primate Orientis, quem Arabes vocant *Abū -Ifereg'*; fol., foll. 169. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Folio, numero non signato, quod codici praemittitur, inscriptum est: تاريخ مختصر

* Super vocem اسحق Reiskius scripsit: "delendum".

الدول. Fol. 1. v. incipit ab ipsis praefationis verbis primis: الحمد لله (leg. لله) الاول بلا بدايه ، Clauditur liber fol. 169. r., ubi habes subscriptionem librarii، حسين بن حسن القسطنطيني بلاد (بلدا) (leg. الرومي محندا) (sic) المقيم بدار انغريه والحيرة ، والكهيه بمنزل المولى حسن افندي ، qui operam absoluit mense G'umâdâ priore a. h. 1074. (Chr. 1663.)، eodem anno، quo prodiit Pocockiana hujus libri editio. In margine ejusdem paginae alia manu adscripta est brevis notitia vitae Gregorii، cui haec praemittuntur verba: وجد في بعض النسخ من هذا الكتاب بخط الشيخ الامام خاتمة الحفائظ قاضي القضاة شمس الدين بن خلدان ما صورته ، Quibuscum comparanda sunt quae de codice suo narrat Pocockius in praefatione، pag. 2. sq.، et quae contra eum monuit J. S. Assemanus in *Bibl. orient.* vol. II. pag. 266. not. Pocockium، quae in codice repererat، fideliter retulisse، jam quidem certum est؛ sed num jure notitia illa de vita Gregorii tribuatur Ibn Challikâno valde dubium esse videtur. Is enim mortem obiit a. h. 681. (Chr. 1282.)، Gregorius vero librum suum ad finem non perduxit ante a. 683.؛ unde concludere licebit annotationem illam biographorum Arabicorum clarissimo temere adscribi. — Ceterum de Gregorio vid. Assemani *Bibl. orient.* vol. II. cap. XLII.، ubi de historia nostra dynastiarum maxime agitur pag. 309—311.

Hunc codicem Qâhiraë emit b. von Haven؛ vid. J. D. Michaelis *liter. Briefwechsel*، Th. II. pag. 43. n. 31.

CXXII.

(N. 58. in 4to)

Codex Reiskianus، in 4to، continens Reiskii apographum ejus partis *Annalium Abulfedae*، quae versatur in *historia Islamismi*. Paginae 1. superscriptum est: "Abulfedae Annales Moslemici"; quae verba excipit textus Arabicus. qualem ex hoc ipso apographo *) edidit b. Ad-

*) Dissecta sunt codicis folia in commodiorem typographi usum.

lerus. Occupat is paginas 1029.؛ in fine legitur: "absolvi d. 29. Maji 1749." Adjiciuntur notae marginales، criticae maxime et ab Adlero partim e codicis nostri appendice huc translatae، cui Reiskius inscripsit: "J. J. R. Notae Criticae ad textum Arabicum Abulfedae". — Conf. de hoc codice Reiskens *Lebensbeschr.* pag. 152. sq. n. 4. *) et Adleri praefatio in *Annales Muslemicos*.

CXXIII.

(N. 30. in fol.; olim in *Bibl. Univ. Haun.* N. 9. in fol.)

Codex in fol.، foll. 33. chartae Europaeae laevigatae، char. Neschi manu، ni fallimur، Michaëlis Szabbâgh scriptus، continens *Excerpta e Prolegomenis historicis Ibn Chaldûni*. Praemittuntur folia duo، numeris non signata، quorum alteri inscripsit b. Silvestre de Sacy: "Extraits des *Prolegomènes historiques d'Ebn Khaldoun*. 4 cahiers. fol." Textus Arabicus incipit fol. 1. v. ab ipso praefationis initio: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول العبد الفقير: --- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي وفقه الله تعالى، الحمد لله الذي نه العزة والجبروت وبيده انك ، والمملوك ، cet. Fol. 3. r. incipit tractatus introductorius: المقدمة في فصل علم التاريخ؛ fol. 11. v. liber primus: في ضبيعة العبران؛ cet. Hujus libri sectio prima (الفصل الاول في العبران انبشري على) (الجملة) ، sex مقدمات complectens، maximam codicis partem occupat، usque ad finem fol. 30. **) Quae sequuntur fol. 31. 32. tres exhibent sectiones (فصول) ، quae pertinent ad ejusdem libri primi sectionem (majorem) quintam ***). —

*) Alterum ejusdem libri apographum Reiskianum، anno 1745. scriptum، cujus mentio fit ibidem، n. 3.، Adlero concesserat Ill. Sulmus et jam asservatur in Bibliotheca Univ. Kiliensis. — Reiskii Notae philologicae، Index Arabicus et versio Latina adsunt iu *Bibl. Reg.*

**) Respondent haec iis، quae apud clar. de Hammer (*Journ. Asiatique*، Tom. I. 1822. pag. 270.) sunt partis primae libri primi capita sex.

***) Apud Hammerum (l. l. pag. 276.) capita 24—26. libri quinti.

Conf. clar. de Hammer in Wiener Jahrb. vol. LXVIII. Anzeigbl. pag. 39. sq. Catal. Codd. Orient. Mus. Brit. Pars II. pag. 144. sq.

CXXIV.

(N. 31. in fol; olim N. 23. in fol.)

Notissimum *Ibn Schihnae opus historicum*, in fol., foll. 154. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Fol. 1. r. legitur titulus: كتاب روضة المناظر في علم الاوائل والاواخر تأليف الشيخ الامام العارف العلامة ابو (sic) انوليد محمد بن اندين ابن محمد ابن الشحنة الحنفى cet. In limine praefationis, fol. 1. v., auctoris nomini praemittitur titulus honorificus *محب الدين*; quocum consentire videntur codices Parisiensis 617., Vindobonensis (apud Krafftium, Handschriften der orient. Akad., n. CCXLIII.) et Hammeri (Wiener Jahrb. vol. LXVIII. Anzeigbl. pag. 52. sq.); apud Hâg'i Chalfam vero vol. III. pag. 491. sq., ipse vocatur زين الدين, filius autem ejus محب الدين; idemque pro روضة المناظر habet روض المناظر. De divisione libri vid. quae recte docuerunt Hâg'i Chalfa et Herbelotius s. v. Schuhnah, a quibus recedens doctissimus Kraftius verendum ne incidit in errorem. — Secundum subscriptionem finalem, fol. 154. v., absolutus est codex noster die Veneris, 12mo mensis G'umâdâ posterioris a. 833. (Chr. 1430.), h. e. duodevicesimo post mortem auctoris anno*); scriptus برسم انعم انفقير -- زين الدين خصم بن شرف الدين موسى المستولى بالملطنة الحموية بدولة ملك الامرا جليان الاسنى***) cet. — De hoc libro conf. quae congressit clar. Guil. Cureton in Catal. Codd. Orient. Mus. Brit. Part. II. pag. 146. sq.

Codicem nostrum Qâhiraë emit b. von Haven; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel. Th. II. pag. 41. n. 23.

CXXV.

(N. 28. in 8vo.)

Ejusdem libri apographum Reiskianum, in 8vo, char. Neschi bene scriptum, sed ita, ut libri initium sit more Europaeo ad sinistram. Praemittitur codici post folium unum, variis notitiis impletum, titulus: كتاب روضة المناظر في علم الاوائل والاواخر للقصة الى انوليد محب اندين ابن محمد ابن الشحنة الحنفى رحمه الله تعالى، "Chronicon Ibn Scheelma. e Codice msto DOrvilliano descripsit Jo. Jacobus Reiske. Leidac. mense Januario 1745. Collatus cum cod. msto Bibl. Leidensis." Textus Arabicus occupat folia 1—314., ita tamen, ut in parte anteriore tantum uniuscujusque folii scriptus, pars aversa vero collationi codicis Bibl. Lugd. destinata sit. Adjicitur fol. 354—368. "Appendix seu supplementa longiora e Codice Leidense, quae suis locis commode inseri nequibant." — Conf. Reiskii Prodidagmata pag. 230. n. 3. Reiskens Lebensbeschr. pag. 165. n. 34.

CXXVI.

(N. 59. in 4to; olim N. 13. in 8vo)

Liber historiarum, cui nomen: كتاب الجمان في مختصر اخبار الزمان, i. e. *Liber margaritarum, compendium historiarum* auctore *Schihâb ed-dîn Ahmed el-Maqarrî el-Fâsi*: in 4to, foll. 232. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Titulus fol. 1. r. inscriptus hic est: كتاب تاريخ الجمان في مختصر اخبار الزمان تأليف العلامة محقق الزمان وفريد العصر والاوان مولانا الشيخ شهاب اندين مقري* انعاسى نعمده الله برسمه امين،

*) Sic h. l. scribitur cum duplici Râ; quod confirmat pronuntiandi modum, quem secuti sunt clarissimi viri Steph. Quatremère et J. de Hammer. Derivandum hoc cognomen, a nomine loci Arabico مقري. Conf. tamen quae disputavit Pascualis de Gayangos, the hist. of the Mohammedan dynasties in Spain, vol. I. pag. 301. sq., a nomine Barbarico Maqra vel Maq-

*) Errant Herbelotius, de Gayangos aliique, mortem ejus referentes ad a. h. 883.

**) De lectione vocabuli الاسنى certi non sumus.

piunt praefatio et sectio prima fol. 1. v.; sectio secunda fol. 71. r.; tertia fol. 138. r. Subscriptio, quae legitur fol. 232. r., docet, scriptum esse codicem nostrum manu محمد بن حاج درويش a. h. 1054. (Chr. 1644.) Vid. de hoc libro praeter Herbelotium s. v. Gimman et Möllerum in Catal. Bibl. Goth. n. 319., notitiam uberiorem, quam dedit Ill. Silvestre de Sacy, Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblioth. du Roi, vol. II. pag. 124—163.)*

Codex Qâhiraë emtus a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, Th. II. pag. 41. n. 22., ubi tamen perperam clarissimo scriptori historiae Nûr ed-dîni et Szalâh ed-dîni, Abû Schâme Damasceno, hic liber adscribitur.

CXXVII.

(N. 60. in 4to; olim N. 50. in 8vo.)

Ejusdem libri sectio prima, in 4to, foll. 118. chartae, ut videtur, Europaeae, char. Neschi recentiore et ad Africanum accedente, in regno Maroccano, ni fallimur, sed parum accurate exarata. Incipit praefatio fol. 1. v., sectio prima fol. 2. r.; clauditur eadem fol. 118. r., ubi legitur: كمل بحمد الله -- وهو مختصر (sic) ابن الاول شقرة من الفصل الاول (sic) ect. Unde hauserit librarius nomen ابن شقرة, nobis non liquet, neque magis, quemnam significet anni mensem, adjiciens codicem esse absolutum die 27mo من بيع النبي a. h. 1175. (Chr. 176½.)

qara deducens cognomen el-Maqri vel *el-Maqqari*. Alii scriptorem nostrum vocant الشاذلي المغربي; vid. Mölleri Catal. Bibl. Goth. n. 319.; Hammerum in Wiener Jahrb. vol. XCIX. pag. 19., et quae annotavit P. de Gayangos, the Hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. XXIV.

*) In libri titulo ibi pro مختصر في مختصر legitur; nomen auctoris de Saecyus pronuntiabat *Almokri*. Vixit is secundum eundem medio saeculo nono a fuga, quod verius nobis videtur, quam quod legitur in Catal. Codd. Musei Brit. Part. II. pag. 163., obiisse eum a. h. 1041. (Chr. 163½.)

CXXVIII.

(N. 61. in 4to; olim N. 9. in 8vo.)

Liber historicus, cui nomen: اخبار الدول، واثار الاول، i. e. *Historia dynastiarum et monumenta rerum priorum*, auctore Abû -l'Abbâs *Ahmed bin Jusuf bin Ahmed ed-Dimaschqi*; codex in 4to, foll. 300.)* chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, optimae condicionis. Fol. 1. r. legitur titulus, notitiam hujus libri exhibens, ex 'Hâg'i Chalfa petitam; vid. edit. Flüg. vol. I. pag. 186. Tradit is e G'enâbii (الجنابي) libro excerptum esse hunc nostrum, significans sine dubio amplissimum illud opus: الحمد لله على تصارييف العبر عند سماع التواريخ والسير، Tractatus introductorius incipit fol. 3. r.; caput I. fol. 12. r. Capitulum recensum dedit J. L. Rasmussen in Annalium Islamismi praefatione pag. IV. sqq.; versionem capitulum XLV—LIII. Latinam, in eodem libro pag. 61—134. Capituli ultimi sectio ultima (fol. 240. r.—299. r.) compendium lexicum geographici continet. Secundum epilogum auctoris (fol. 299. r. v.) ad finem perductus est hic liber primo die mensis Mu'harrem a. h. 1008.***) (Chr. 1599.) Exemplum nostrum absolutum est mense Schawwâl a. 1169. (Chr. 1756.), et a b. von Haven Qâhiraë emtum; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 40. n. 15. — Ex his, quae diximus, corrigendus ex parte Herbelotius s. v. Akhbar al doval u athar al oval et s. v. Damaschk. Conf. praeterea Mölleri Catal. Bibl.

*) Signata sunt ea numeris 1—9. 9b. 10—299.

**) Eundem annum exhibent codices Bodlejanus n. 771. et Musei Brit. n. 284., similiterque 'Hâg'i Chalfa auctorem tradit hunc librum composuisse a. 1007., mortuum esse a. 1009. Sed cum liber ipse referat res gestas a. h. 1018, errorem subesse suspicamur, ita ut pro 1008. (1007.) scribendum sit 1018. (1017.), quod habet Rasmussen, et pro 1009. similiter 1019., quod dedit Cureton.

Goth. n. 318. Cureton in Catal. Codd. Orient. Musei Brit. Part. II. pag. 147.

CXXIX.

(N. 62. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, *Excerpta historica* continens e *Nuweirii Encyclopaedia Arabica*, cujus notitiam uberiolem dedit Reiskius in *Prodidagmatis*, pag. 232. sqq. Titulus libro a Reiskio praefixus hic est: "Caput quartum sectionis quartae tomi quinti magni operis نبأية في فنون الادب *Nuweirii*, agens *de rebus gestis Arabum ante Muhammedem*. Descripsi Lugduni Batavorum mense Julio anni 1741." Attamen plus continet codex, quam quod promittit inscriptio. Adsunt enim et caput IV. et V., quod utrumque ipse Reiskius a se exscriptum profitetur in conspectu *Encyclopaediae Nuveirii*, l. l. pag. 234. Textus Arabicus occupat paginas 106. Incipit cap. V. (في أيام العرب) pag. 35. — Adjiciuntur "Index in *Nuweirii Historiam Arabiae*" et notitiae nonnullae, Reiskii manu scriptae.

Capitis quarti eam partem, quae agit de ruptura catarrhactae Marebensis publici juris fecit Reiskius in libro, quem edidit de *Arabum Epochae vetustissima Sail ol arem*. Lips., 1748. 4to. — Idem capitis quinti partem Latine vertit et inseruit libro suo, qui inscribitur: "Prima lineae historiae regnorum Arabicorum", qui in Bibliotheca nostra asservatur, manu auctoris scriptus.*) Eam versionem in usum suum convertit J. L. Rasmussen in conscribendo libro de historia praecipuorum Arabum regnorum ante Islamismum, pag. 81—100., ut ipse professus est in praefat. pag. V. sq.

*) Errat enim doctissimus F. Wüstenfeld, qui hunc librum ex apographo Gottingensi nuper edidit, autumans in Biblioth. Regia non ipsum librum inveniri, sed collectanea tantum, quibus in componendo illo usus sit Reiskius. Est idem omnino liber, quem hic habemus, et quem edidit Wüstenfeldus; sed qualis erat, Reiskius eum edere volebat.

CXXX. CXXXI.

(N. 32. et 33. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. n. 1. et 2. in fol.)

Opus historicum, *de vita maxime Mu'hammedis Prophetae* agens, adjecta tamen brevi de successoribus ejus narratione, auctore *Husein bin Mu'hammed b. el-Hasan ed-Dijärbekri*; volumina duo, in fol. Volumen prius foliorum est 257. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptum. Fol. 1. r. legitur: للجلد الاول من الخميس في احوال نفس نفيس للديار بكري ، الحمد لله الذي خلق . Praefationis initium fol. 1. v.: الحمد لله الذي خلق . نور نبية قبل كل اوايل ، De divisione libri vid. *Häg'i Chalfa*, vol. III. pag. 177.*) Subsistit volumen prius fol. 257. v. in fine capitis tertii partis tertiae (الموضى الثالث من الركن الثالث) , i. e. in fine anni tertii a fuga Mu'hammedis; incipit ab anno quarto volumen secundum, quod est foliorum 357., alia manu, minus eleganter, sed magis distincte scriptum. In fine fol. 357. v. legitur subscriptio: اننبى الى عنا تليف شيخنا مولانا حسين انديار بكري الختفى نزيل بلد الله الحرام -- وهو للجزء [و] الثاني من سير النبي صلعم واسمه كتاب الخميس ، — Conf. de hoc libro doctissimus Weil, in praefatione libri: *Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre*, pag. X. sqq.

*) *Häg'i Chalfa* in libri titulo pro نفس نفيس habet: النفس النفيس, contra codicum, ut videtur, omnium auctoritatem. Idem pro الخميس alios pronuntiare tradit الخميس, quod ipsum Möllerus dedit in Catal. Bibl. Goth. e codice 279. — Auctorem librum suum absolvisse contendit *H. Chalfa* a. h. 910. (Chr. 1534.), mortuum esse circa a. 966. (Chr. 1553.); quod si verum est, succinetae successorum Prophetae historiae pars extrema, quae usque ad mortem Sullani 'Uṣmānī Selīmī II., a. h. 932. (Chr. 1574.), pertinet, ut ipse *H. Chalfa* commemorat, ab alio scriptore adjecta est; conf. O. de Platen in praefatione libri: *Geschichte der Tödtung des Chalifen Omar*, (Berl., 1837. 8vo.) pag. 17. — Exstat opus nostrum in Bibl. Reg. Paris. n. 635.; pars extrema videtur contineri in cod. Goth. n. 326. Corruptus est titulus apud P. de Gayangos, the *Hist. of the Moh. dyasties in Spain*, vol. I. pag. XXIV.

CXXXII.

(N. 34. in fol.; olim N. 15. in fol.)

Ejusdem operis volumen prius, in fol., foll. 373. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptum. Fol. 1. r. legitur: تاريخ الحميسى الذى اشتريته من تركة اسماعيل بيك في - - (*). In-
fra possessoris alicujus nomen inscriptum est. similiterque fol. 2. r. Praefatio incipit fol. 2. v., omisso tamen initio, cujus partem dedimus e codice praecedente, ita ut h. l. prima verba sint: اما بعد فيقول - - حسين بن محمد الحج. Desinit codex fol. 373. v. in medio capite quinto partis tertiae, quod enarrat res gestas a. h. 5. Ultima codicis verba haec sunt: مروياتنا في الكتب المتداوله سبعة احاديث منها في البخارى حديث وفي. Subscriptae erant lineae nonnullae, nunc erasae, quarum loco aliam subscriptionem adjecit eadem manus, qua docemur exaratum esse codicem nostrum mense Ramadhân a. h. 1009. (Chr. 1601.) ab على بن عمر العاملى بلدا الصكر اوى ونا الشافعى مذهباً.

CXXXIII.

(N. 35. in fol.; olim N. 12. in fol.)

Pars historiae Islamismi, auctore ed-Ae-
hebi; codex in fol., foll. 262. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi magno et distincto scriptus. Hujus operis amplissimi, duodecim volumina complectentis, quod in enarrandis virorum Islamismi illustrum vitis versatur, haec est, ut non dubitamus, pars prima. Integrum libri nomen exhibere videtur inscriptio fol. 1. r.: الجزو ال - - (**). من تحفة الانام في تاريخ الاسلام، لعلامة الدعى نفعنا. Vulgo tamen hic liber vocatur vel تاريخ الاسلام vel تاريخ الذهى. — Quod in ejusdem paginae superiore parte ad sinistram legitur: الجزو الاول، id non totius operis partem primam indicare debet, sed quinternionem primum, cujus

*) Non contigit eruere quae proxime sequuntur.

**) Delctus est numerus, qui h. l. scriptus erat, ut falleretur entor libri mutili.

tamen maxima pars interiit, superest exterior tantum, codicis, ut nunc est, fol. 1. et 2., octo foliis interpositis olim separata, cum quibus ipsum libri initium periit. Folio tamen 1. v. alia manu, mediocriter exercitata, postmodum praefationis pars suppleta est. Incipit ea ab his verbis: الحمد لله الغنى الشكور انقوى الصبور. Sed finis paginae non cohaeret cum iis quae sequuntur fol. 2. r., ad vitam 'Omari Chalifae pertinentibus. Fol. 3. primum est quinternionis secundi (الجزو الثانى). Fol. 6. r. sequitur vita 'U9-mâni Chalifae, quam excipiunt fol. 12. v.:

16. v.: والزبير ابن العوام; fol. 13. v.: وابن اليمان; 25. v.: ضلحة ابن عبيد الله; 20. r.: سلمان الفارسى; et sic porro. Ultima, quae hoc volumine continentur, vitae sunt: fol. 256. r.: ابو الوليد عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن ابى العاص ابن ابو عثمان; et fol. 261. v.: امينة ابو العباس الاموى. Fol. 262. r. finis voluminis notatur his verbis: تم الجزو من (*). تاريخ الاسلام، عبد الرحمن بن مروان بن مروان ابن الحكم ابن ابى العاص ابن ابو عثمان، ياسين البلبلى بلدا انشافعى مذهباً ال - - (**). ونا، mense Scha'bân a. h. 998. (Chr. 1590.)

Auctoris nomen integrum est: شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قيباز التركمانى انقارى الدمشقى (***) المعروف بالذهى، natus est a. h. 673. (Chr. 127 $\frac{1}{2}$), mortuus a. 748. (Chr. 134 $\frac{1}{2}$). Vitam ejus ex Ibn Schubbac ضبطت edidit Ferd. Wüstenfeld in libri Classium virorum, qui Korani et traditionum cognitione excelluerunt, Part. II. in dorso tituli; alteram, a scriptore anonymo concinnatam, in ejusdem libri Part. III. pag. 68. sq. Conf. praeterea 'Häg'i Chalfa, vol. II. pag. 131. sq. et quae congescit Guil. Cureton in Catal. codd. Musei Brit. Part. II. pag. 171., ubi tamen mortis annus videtur corrigendus.

*) Erasa sunt quae antea scripta erant, ubi nunc leguntur verba: تم الجزو من.

**) Non liquet quid h. l. scriptum sit.

***) Apud 'Häg'i Chalfam legitur المصرى.

CXXXIV.

(N. 36. in fol.; olim N. 2. in fol.)

Ibn Challikāni de vitis virorum illustrium opus clarissimum, in fol., foll. 442. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptum. Praemittitur codici fol. 1. r.—6. r. index alphabeticus virorum, quorum vitae sequuntur.

Titulus, fol. 6. r. inscriptus, hic est: كِتَابُ وَفِيَّاتِ الْأَعْيَانِ وَأَنْبَاءِ أَوْلِيَاءِ الزَّمَانِ تَأْلِيفُ الشَّيْخِ — قَاضِي الْقَضَاةِ شَمْسِ الدِّينِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ خَلْكَانِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Praefatio incipit fol. 6. v., littera Hamza fol. 7. r. Singula virorum illustrium nomina in margine quoque notantur, passimque notae adjiciuntur. Folia 174. et 175. supplementa duo continent, non eadem manu scripta, ad vitam Wezīri أبو فرات الحسن علي — بن فرات (apud Tydemanum, in conspectu operis Ibn Chalicani, n. 498.), fol. 173. v. Folia 389—395., quae non sunt compacta, supplementum exhibent ad fol. 397., ubi agitur de vita clarissimi أبو يوسف يعقوب بن الليث (الصفار*). Scripta sunt haec eadem manu, qua fol. 175. Folio 396. nihil est inscriptum. In fine fol. 441. r. notatur, apographum nostrum absolutum esse mense Scha'bān a. h. 1018. (Chr. 1609.), manu أحمد بن محمد العريف (الانباري اصلا للحلي مؤيدا ومنشأ). Adjecit deinde, fol. 441. r.—442. v., eadem manus, quae exaravit foll. 175. et 389—395., vitam Ibn Challikāni. — A dispositione editionis, quam curavit Ill. Mac Guckin de Slane, codex noster haud raro recedit; finem voluminis primi ejus editionis habes in codicis fol. 242. r. lin. 9. a fine. Aliam editionem paravit cl. Wüstenfeld Goettingensis, qui idem de fontibus Ibn Challikāni docte disputavit in diario: Göttinger gelehrte Anzeigen, a. 1837. St. 110—115. Conf. praeterea de Hammer in Wiener Jahrb., vol. LXXII. Anzeigeb. pag.

*) Sic recte, ut nobis quidem videtur, in margine hoc cognomen notatur vocali Fat'h.

1. sqq.; Cureton in Catal. Codd. Musei Brit. Part. II. pag. 172. sqq.

Codex Qāhirae emtus a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, Th. II. pag. 39. n. 7.

CXXXV.

(N. 37. in fol.; olim N. 32. in fol.)

Compendium historiae Chalifarum, auctore *Abi Mu'hammed Isma'il bin 'Ali bin Isma'il el-Chutabi*; in fol., foll. 58. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi antiquo haud male exaratum. In ligaturae parte interiore scriptum est: "Compendium historiae Calipharum, Auctore Abi Mohamed Isma'el Ebn Ali Ismael II Chutbi*) seu Praedicatorum." Fol. 1. r. legitur titulus, recentiore manu exaratus: تَأْلِيفُ أَبِي سَيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ أَسْمَعِيلَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي سَيِّدِ أَحْمَدَ بْنِ سَيِّدِ بَدَدَش (sic) الزُّنْبَيْدِيِّ (**). رحمه الله. Et priora quidem verba auctoris nomen indicant, decurtatum ex inscriptionibus, singulis libri partibus praefixis; posteriora vero nomen ejus, qui codicis archetypum exaravit, truncatum et corruptum exhibent. Inscriptio partis primae fol. 2. r. haec est: [و] الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابٍ مُخْتَصَرٍ تَارِيخِ: الخلفاء تأليف أبي محمد اسمعيل بن علي بن اسمعيل الخلفاء: quibus deinde subjunguntur haec verba: روايه أبي القاسم عبيد الله بن عثمان بن يحيى بن حنيفا (جنيفا: leg.) عنه روايه أبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن علي الأبنوسي، عنه روايه أبي غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن أئبنا عنه روايه أبي أنعر عبد المعبيث بن زعيم بن زعيم الحرفي عنه، قرأه علي نحو سماع علي الشيخ أبي غالب أحمد بن الحسن أئبنا الشيخ الدليل العامر أبو محمد إبراهيم بن الشيخ الدليل الفقيه أبي الحسن علي بن

*) Legendum est *el-Chutabi*; vid. librum Lubb el-lubāb, ed. Veth, s. v. Et sic quoque scriptum est codicis fol. 19. r. in inscriptione partis secundae, et fol. 58. v. in testimonio adjecto.

**) Ita scriptum esse videtur; sed fortasse legendum est: الزُّنْبَيْدِيُّ.

محمد بن المبارك بن بكرس بلّغه الله محابه وكتب عبد المغيث بن زهير بن زهير عفا الله عنه قرا الكتاب جميعه واجزت له ان يروى عنى جميع ما يجوز روايته من ساير العلوم وما اجازنى اسماخى (استاذى?) على الشرح المعروف بين اهل العلم فى ذلك الحمد لله وصلوته على سيدنا محمد واله ابدا والكتاب من نسخته اربعة اجزا وهي من الاصل جزان ،
 Inscriptiones similes praefixae sunt reliquis libri partibus, fol. 19. r. 36. r. 52. r. In his tamen series doctorum, qui discipulis suis hanc historiam tradiderunt, augetur nomine Ibrahimi b. 'Ali b. Mu'hammed b. el-Mubârek b. A'hmed b. Bekrûs, cujus manu codicis nostri archetypum scriptum erat, ut e subscriptionibus singulis libri partibus adjectis elucet. De consilio, quod secutus est in scribendo hoc compendio, auctor el-Chutâbi in praefatione fol. 2. v. profitetur haec: هذا كتاب مختصر من كتاب الخلقا وتاريخ اوتيتيم ومدهم واعمارهم وانسابهم وصفاتهم مجردا دون سيرهم واخبارهم واعوانهم فان ذلك فى الكتاب الكبير مرسوما واسقنته هاعنا ليقرّب متناوله ويسهل حفظه وقد ذكرت فى اخره ولاة العيون الذين لم يلوا الامر ومن يجرى مجراهم ممن رشح الامر ولم يبلغه. Divisus erat hic liber in archetypo in duas partes, in codice vero nostro complectitur partes quattuor, quarum prima, fol. 2. v.—18. r., procedit a nativitate Prophetæ usque ad Chalifam 'Abd el-Melik b. Merwân; secunda, fol. 19. v.—35. r., ab el-Welid b. 'Abd el-Melik usque ad Chalifam el-Mu'tamid 'alâ-llâh. Pars tertia continet historiam Chalifarum ab el-Mu'tadhid billâh usque ad a. h. 339., regnante Chalifa el-Mu'tî lillâh, fol. 36. v.—41. v., et caput de ولاة العيون, quod promiserat praefatio, fol. 41. v.—51. r. Et hoc quidem caput in archetypo primum fuerat partis secundae. Pars quarta denique, fol. 52. v.—58. r., uno constat capite, cui inscribitur: باب ذكر من ظهر من الطالبيين وبويع له بالخلافة فى دولة العباسيين ،

Scriptum erat archetypum Ibrahimi b. 'Ali mensibus Schawwâl et Zû-lqa'de a. h. 580. (Chr. 1185.) eidemque adjuncta erant testimo-

nia varia de collationibus cum aliis libri exemplis institutis, partim a. h. 582. et 648. scripta, et in codice nostro accurate reddita.

CXXXVI.

(N. 63. in 4to; olim N. 22. in 4to.)

Historia Chalifarum, auctore G'elâl ed-din 'Abd er-Ra'hman bin Abi Bekr es-Sujâtî; codex in 4to, foll. 323. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Fol. 2. r. librarius inscripsit libri titulum: كتاب تاريخ الخلقا تصنيف الشيخ -- جلال الدين ابى الفضل عبد الرحمن ابن الشيخ -- كمال الدين السبوطى الشافعى -- ، بسم الله ، أما بعد حمد : 2. v.: الله الذى وعد فوفى وأوعد فعفى ، Sequitur introductio in historiam Chalifarum, ubi agitur de successione, ab ipso Propheta non constituta; de Imâmis e gente Qureischidarum, eorumque Chalifatu; de dictis Prophetæ gentes Umajjadum et 'Abbâsidarum spectantibus; de pallio Prophetæ cet. Deinde fol. 16. v.—317. r. Chalifarum historiam persequitur auctor ab Abû Bekro usque ad Chalifam el-Mutewekkil 'alâ-llâh, mortuum a. h. 903. Subjunguntur indicatio fontium, e quibus plurima hausit*), carmen auctoris de historia Chalifarum et compendium historiae Umajjadarum in Hispania, 'Ubeididarum, dynastiae 'Alidicae Tabâtabâ et dynastiae Taberistanensis. Post adjectam annotationem bonae frugis (فائدة) absolvitur liber fol. 322. r., scriptus mense Zû-lqa'de a. 1015. (Chr. 1607.) Addita est fol. 322. v. 323. r., alia manu exarata, de Sultâno 'Uḡmânico Selim Schâh notitia discipuli Sujûtîi nostri, cui nomen جَرَامَرْدُ الناصرى الحنفى ،

Vitam Sujûtîi. ab ipso conscriptam, publici juris fecit Alb. Meursinge in Prolegomenis ad

*) Hunc fontium indicem Hammerus dedit in Catal. Codd. Biblioth. Ambros. (Bibliot. Italiana Tom. 94.) pag. 37. sq.

Sojutii librum de interpretibus Korani, Lugd. Bat. 1839. 4o., pag. 4. sqq. Praeterea de hoc libro conf. Hâg'i Chalfâ, vol. II. pag. 128.; Cureton in Catal. Codd. Orientt. Musei Brit. Part. II. pag. 151. sq.

CXXXVII.

(N. 64. in 4to; olim N. 93. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 145. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptus, continens *narrationem expugnationis Mesopotamiae, Armeniae et regni Persiae*, aliarumque rerum, regnantibus Chalifis 'Omar et 'Uḡmân a Muhammedanis gestarum, quam vetustissimo scriptori *el-Wâqidi* adscribere solent Orientis eruditi. Idem fit in codice nostro, ubi non solum in folio, numero non signato, quod ipsi libro praemittitur, annotatum est: فتوحات عراق للواقدي، verum etiam in limine libri, fol. 1. v., post *Besmelam* legitur: قال الواقدي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه بجامع الهملة سنة ثمانية وعشرين قٓل من الهجرة*) cet. Hujus codicis pars haud exigua, fol. 1. v.—66. r., Germanice prodiit Hamburgi, a. 1847., et prior quidem sectio, quae versatur in enarranda expugnatione provinciae *ديار ربيعة*, usque ad codicis fol. 44. r., versa a viro immortalis B. G. Niebuhr, C. F.; altera de expugnatione provinciae *ديار بكر*, usque ad fol. 66. r., opera editoris doctissimi A. D. Mordtmann, Hamburgensis. Is quoque notitiam codicis uberiorem et indicem eorum, quae continet, praefationi inseruit, pag. IX. sq. Ultima codicis verba, fol. 145. r. et v. haec sunt: وفي تلك السنة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقر الفتوح بحمد الله ومآله الخ.

*) Insigni errore *el-Wâqidi* h. l. dicitur usus esse magistro Jünus bin 'Abd el-A'lâ a. h. 23. Jünus enim ille, ipso *Wâqidio* junior, mortuo circa a. 207., natus est a. h. 170., diem obiit supremum a. 264 Adde, quod oppidum *er-Remle* sub finem demum saeculi post fugam primi conditum est.

Arabice e cod. Goettingensi particulam narrationis de expugnatione Mesopotamiae, codicis nostri foliis 1. v.—16. r. respondentem, edidit clar. G. H. A. Ewald, Gott., 1827. 4o. Conf. praeterea de *Wâqidio* librisque, qui sub ejus nomine feruntur, Hamakerum in praefatione libri, cui titulus: *Incerti auctoris liber de expugnatione Memphidis et Alexandriae*, vulgo adscriptus *Abou Abdallae Mohammedi Omari filio, Wakidaeo, Medinensi*. Lugd. Bat., 1825. 4o.; Curetonum in Catal. Codd. Orientt. Musei Brit. Part. II. pag. 148. sqq.)*

Codex noster *Qâbirae* emtus est a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 42. n. 29. (30.)

CXXXVIII.

(N. 65. in 4to; olim N. 12^a. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 118. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Continet is *narrationem de expugnatione oppidi Behnesa et superioris Aegypti*, cujus auctor esse dicitur *Abū 'Abd allâh Muḡammed el-Muqri**)*. Titulus libro praefixus fol. 1. r. hic est: كتاب فتوح بينسا وما وقع لاصحابه مع البطوس لآبي عبد الله محمد المقي غفر الله له --، قٓل صاحب الحديث في فضائل بينسا ذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه ذكرها في كتابه العزيز، cet. Subscriptio finalis legitur fol. 117. r. atque docet scriptum esse hoc apographum a. h. 1106. (Chr. 169 $\frac{1}{2}$.) Adjicitur fol. 117. v. 118. r. carmen, cui inscri-

*) Eadem, quae codex noster complectitur, in codice Musei Brit. 287. reperiri videntur inde a fol. 49. v. usque ad finem codicis, et in cod. 302. extremis verbis atque codicibus 303—305.

**) Sic enim vulgo pronuntiant; num recte, dubitare fas est. Ill. Cureton in Catal. Musei Brit. dedit: *al-Maccari*; eos tamen homines omnes, qui vocantur *المقري*, ab eodem Africae oppidulo originem ducere, quod nomine Barbarico appellari dicitur *Maq-gara*, vix veri simile videtur.

bitur: استغفار ابي مدين رحمه الله تعالى; in fine notatur: تمت تحييد.

De hoc libro conf. Hamaker in praefatione libri de expugnatione Memphidis et Alexandriae, pag. X.; Cureton in Catal. Codd. orientt. Musei Brit., Part. II. pag. 150. codd. 209—302.; Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 814. 815.; Catal. Bibl. Goth. n. 355, 2. 405.; de Hammer in Catal. Bibl. Ambros. (Bibliot. Ital. Tom. 94.) pag. 36. sq.

Codicem nostrum Qâhiraë comparavit b. von Haven; vid. J.D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 42. n. 25.*)

CXXXIX.

(N. 66. in 4to; olim N. 17. in 4to.)

Historia urbis Mekkæ, cui nomen: تحفة الكرام باخبار البلد الحرام. i. e. Historia urbis sanctae, munus hominibus generosis oblatum, auctore *Taqijj ed-din Mu'hammed bin A'hmed b. 'Ali el-Hasani el-Fâsi el-Mekki*; codex in 4to, foll. 172. chartae orientalis laevigatae, scriptus char. Neschi antiquo et punctis diacriticis plerumque destituto. Fol. 1. r. in superiore parte paginae annotatum est: تاريخ مكة; infra legitur: كتاب تحفة الكرام باخبار البلد الحرام، تصنيف الشيخ الامام العارف العلامة --***) مفتي المساعري (المشاعد?) قاضي القضاة السيد الشريف تقي الدين ابي --*** محمد بن احمد ابن علي الحسني الفاسي المكي الملكي (†) هكذا. Subjungitur: ادامه الله بنفع بقوايده امين، مكتوب في نسخة المؤلف بخط المحافظ ولي الدين ابي زرعه. — Narrat auctor in praefatione, ejus initium fol. 1. v. aliquid damni perpressum est, condidisse se amplissimum de

historia urbis sanctae opus, quattuor volumina complectens, cui titulus: العقد الثمين، في تاريخ البلد الامين; quod, cum nimiae molis esse videretur, ad dimidium fere ambitus se reduxisse, novoque libro nomen dedisse: عجالة النقرى; e tractatu denique introductorio libri majoris ipsum hoc compendium se collegisse in modum historiae urbis Mekkæ, editae ab Imâmo Abû -l-Welid Mu'hammed bin 'Abd allâh b. A'hmed b. Mu'hammed el-Azraqî el-Mekki. Dividitur compendium nostrum in XXIV. capita, quorum primum incipit fol. 3. v. Subscriptio finalis, fol. 172. v., narrat librum ab auctore ad finem esse perductum a. h. 812.*) (Chr. 1410.), ita tamen, ut ad limandum per annum eundem atque insequentem incubuerit. Codex noster exaratus est a. 851. (Chr. 1447.)

Cum iis, quae e praefatione deprompsimus de origine et divisione hujus libri, non consentit Hâg'î Chalfa, vol. II. pag. 237. IV. pag. 55. Conturbasse videtur, quae legerat in eadem praefatione; divisionem tamen in capita XL. Casirius quoque profert e cod. Escorial. n. 1763. Veriora videntur, quae tradit Hâg'î Chalfa vol. IV. pag. 228. sq., s. v. العقد الثمين, nisi quod es-Sachâvium, ibi laudatum, in aestimando voluminum numero erravisse manifestum est. Vid. etiam vol. IV. pag. 184. s. v. عجالة النقرى. Hâg'î Chalfam maxime secutus est Herbelotius s. vv. Tohfat alkeram beakhbar balad alharam et Schafa algaram fi tarikh alharam. Conf. praeterea Uri in Cat. Bibl. Bodl. n. 748. et Hamaker in specimine Catal. Bibl. Lugd. pag. 192. not. 641.

CXL.

(N. 67. in 4to; olim N. 2. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 226. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptus, con-

*) Liber ille, qui codici nostro annexus esse dicitur in hoc catalogo librorum, a b. von Haven coëmtorum, nunc ab eo sejunctus, infra describetur sub N. CXLIX.

**) A tineis erosum est, quod h. l. scriptum erat.

***) Nobis non constat, quomodo legendum sit nomen, quod hic scriptum est.

†) Ita legendum videtur, sed scriptio non est perspicua.

*) Apud Casirium legitur a. 817., vol. II. pag. 172.

tinens *historiam expugnationis terrae Jemen per 'Uṣmānidas*. Praemittuntur folia duo, numeris non signata, quorum priori inscriptum est: كتاب البرق اليماني والفتح العثماني للقطبي، "Historia Regni Jemen". De hoc libro vid. 'Hāg'ī Chalfa vol. II. pag. 44. sq. et notitia uberior, quam dedit clar. Silvestre de Sacy (Notices et Extraits des MSS. de la Biblioth. nat. vol. IV. p. 412—521.) Et haec quidem editio prior est, Sultāno Selim II. inscripta. Auctoris nomen secundum 'Hāg'ī Chalfae editionem Flügelianam et Curetonum in Catal. Codd. Orient. Musei Brit. Part. II. pag. 158. est: *Qutb ed-din Muḥammed bin Aḥmed el-Mekki*; secundum Silvestre de Sacy vero: *Qutb ed-din Muḥammed bin Muḥammed el-Mekki*. Mortuum esse tradit 'Hāg'ī Chalfa a. 988.* (Chr. 1580.) Praefationis initium fol. 1. v.: الحمد لله الذي، نصر الدين الحنيفي (sic) بصرام وسنان (**). Nomen libri in praefatione fol. 3. r. eodem modo exhibetur, ut supra dedimus; apud 'Hāg'ī Chalfam et Silvestre de Sacy legitur: البرق اليماني في الفتح العثماني. Caput primum incipit fol. 5. v. In fine, fol. 225. r., adjicitur subscriptio, quae hunc codicem absolutum esse docet mense G'umādā priore a. 1004. (Chr. 1596.) ab أحمد بن علي بن علم الدين البوصيري بلدا الأزهرى وطننا الشافعى مذهباً. — Subjunguntur fol. 225. v. 226. r. et v. char. Nesta'liq et alia manu scriptae litterae ad Sultānum Selim datae, quae in fronte gerunt haec verba: هذه صورة كتاب السيد مطهر (?). — Ceterum conf. Catal. Bibl. Goth. n. 246. et Rasmussen in praefatione ad Annales Islamismi pag. VIII. sq.

*) Curetonus l. l. mortem Qutb ed-dini refert ad a. 998., et in MS. 'Hāg'ī Chalfae, quod in Musco Brit. asservatur, a. 979. reperisse se annotat.

**) Significatur nomen clarissimi Sinān Pāschā, expugnatoris terrae Jemen, qui ad scribendam hujus belli historiam Qutb ed-dinum excitavit.

CXLI.

(N. 68. in 4to; olim N. 63. in 4to.)

Historia urbis Zebid, auctore *Weg'ih ed-din 'Abd er-Raḥmān bin 'Alī*, vulgo *Ibn er-Rebi* dicto, mortuo a. h. 944. (Chr. 1537.); codex in 4to, foll. 89. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi punctis diacriticis saepe destituto mediocriter exaratus. Fol. 1. r. legitur: بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد للشبيخ الامام العلامة النمام حافظ اليمين وعالم اقطار سيف بن ذى بين التاريخ عبد الرحمن الربيع (sic) تغمده الله الخ، "Historia urbis Sabid." De hoc libro vid. 'Hāg'ī Chalfa vol. II. pag. 61. E codicis nostri apographo, quod transscripserat clar. Freytag, b. C. T. Johansen composuit librum suum, cui titulus: *Historia Jemanae*. Bonn., 1828. Svo. *) Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله رب العالمين الذي علمنا ما لم نكن به عالمين. Caput primum incipit fol. 3. v. Subscriptio finalis, fol. 87. r., absolutum esse docet codicem nostrum mense Rebi' priore a. 1063. (Chr. 1653). Subjungitur fol. 87. v. 88. r. poëma, cui inscribitur: هذه القصيدة من كلام عمرو بن العاص، Alia adjiciuntur, alia manu scripta, fol. 88. v.—89. v., quae non magis huc pertinent: بيان عدد جميع حديث الكتاب الجامع الصحاح من تأليف ابي عبد الله محمد بن اسمعيل البخارى رحمة الله عليه،

CXLII.

(N. 69. in 4to; olim N. 88. in 4to.)

Historia regni Halebensis, cui nomen: اندر المندخب في تاريخ ملكة حلب، i. e. Margaritae selectae, liber agens de historia regni Halebensis, auctore *Abū-lḥasan 'Alī bin Muḥammed el-G'ibrinī*, vulgo *Ibn Chatib en-Nāszirijje* dicto et mortuo a. h. 843. (Chr. 1439.); codex in 4to, foll. 178. chartae laevigatae, char. Neschi recentiore manu scriptus, aqua nonnihil laesus.

*) Incidit in errorem gravem vir doctus, hujus libri pag. 8. e codicis titulo nomen auctoris eruens, quod sic constituit: Seifolislam ben Dsi Jezen Alfakih Abdorrahman Arrabi'.

Praefationis initium fol. 1. v.: الحمد لله القديم الازلي الرحيم الابدی مکرم الليل على النهار عمرة لاوى الابصار، Profitetur in praefatione auctor, ejus nomen in codice nostro nusquam apparet, se composuisse hunc librum tanquam appendicem ad amplissimum opus Kemäl ed-dini Abû-Iqâsim 'Omar bin A'lmed bin el-'Adîm el-'Halebî el-'Hanefî, cui titulus: بَغِيَّة (sic) الطلب في تاريخ حلب، quadraginta volumina comprehendens, quorum tamen unum tantum ipse viderit. Dividitur haec appendix in XXV. capita, quorum adjicimus indicem:

- Cap. I. فيما جاء في فضلها ،
 II. في ذكر من بناها والطاع الذي بنيت فيه ،
 III. في ذكر وجه تسميتها واشتقاقها ،
 IV. فتحها ،
 V. صفة عمارتها واسوارها ،
 VI. عدد ابوابها ،
 VII. قلعتها ،
 VIII. القصور التي كانت تسكنها ملوكها ،
 IX. جامعها وجامع قلعتها وما تجدد فيها من الجموع ،
 X. المزارات التي في باطنها وظاهرها ،
 XI. المساجد باطنها وظاهرها ،
 XII. ما يباطن من الخوانق والربط ،
 XIII. ما يباطن من المدارس ،
 XIV. ما جلب من الطلسمات والخواص والمنافع ،
 XV. ما يباطن وظاهرها من الحمامات ،
 XVI. قناتها ونهرها ،
 XVII. ارتفاعها وقصباتها ،
 XVIII. بعض ما مدحت به حلب نثرا ونظما ،
 XIX. حدودها ومضائفها قديما وحديثا ،
 XX. ما اختصت به حلب من المحاسن وما اغفله ابن شداد *) ،
 XXI. ما تجدد فيها بعد ابن شداد من المساجد والمدارس ،

*) Significat Imâmum Schems ed-din Abû 'Abd allâh Muhammed bin 'Ali b. Ibrahim b. Scheddâd el-'Halebî, ejusque librum: الاعلاق الخطيرة في امراء الشام والجزيرة ،

في ذكر بعض ما بنا من الحارات والدور العظام والخطط ،

XXIII. — الامور اخصت بها التي يوجد فيها دون غيرها ،

XXIV. — منتزهاتها ،

XXV. — احوال نوابها وقضاتها وارباب وضايفها في هذا الزمان وذكر مدد الشام ،

Absolvitur codex fol. 178. r., ubi legitur: وهذا اخر ما تيسر جمعه والله الموفق وبه المستعان ،

De hoc libro vid. 'Hâg'i Chalfa vol. II. pag. 59. sq. n. 1877. Conf. Freytag in praefatione libri: Selecta ex historia Halebi, pag. VII. sq. XXVII. sq.; Hamaker in specimine Catal. Bibl. Lugd. pag. 237. not. 691.; Möller in Catal. Bibl. Goth. n. 276.

CXLIII.

(N. 70. in 4to; olim N. 9. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 277. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens librum, cui titulus: اَخْخافِ الْاَخْصَاءِ* المُسْجِدِ الْاَقْصَى ، i. è. *Virtutes templi remotissimi* (Hierosolymitani), *amicis dono oblatae*. Praemittitur folium unum, numero non signatum, cui inscriptum est: et alia manu exaratum: من تاليفات الائمة السيبوطى الشافعى ، Sed teste 'Hâg'i Chalfa, vol. I. pag. 148., auctor libri est *Kemäl ed-din Mu'hammed bin Abi Scherif el-Miszri*, mortuus a. h. 906. (Chr. 1509.) qui eum composuit Hierosolymis a. 875. (Chr. 1479.) Conferre juvabit quae de auctore libri disputavit doctissimus G. Cureton in Catal. Codd. Orr. Musei Brit. Part. II. pag. 160. Praefationis initium fol. 1. v.: الحمد لله الذى جلت نعمائه عن الاحصاء وعلت آثره عن ان تعد او تحدا او نعمائه عن الاحصاء وعلت آثره عن ان تعد او تحدا او تقصا ، Absolutum est apographum nostrum secundum subscriptionem finalem, fol. 277. r. mense Rebi' secundo a. 1087. (Chr. 1676.)

*) Ita legitur in praefatione; in aliis hujus libri exemplis est: فى فضائل ،

Uberiorem hujus libri notitiam dederunt de Guignes, Notices et Extraits des MSS. de la Bibl. du Roi, vol. III. pag. 610—616. et P. Lemmingius in libro, cui titulus: Commentatio philologica, exhibens specimen libri اتحاف الاخصا, Haun., 1817. 4o., ubi ex ipso hoc codice caput nonum typis exprimi curavit.

Codex a Niebuhrio ejusque in itinere comitibus Hanniam missus a. 1761.; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel Th. II. pag. 39. n. 3., ubi tamen libri nomen misere corruptum est.

CXLIV.

(N. 71. in 4to; olim N. 36. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 177. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, continens librum compositum in honorem numeri septenarii, sed historiam maxime Aegypti spectantem, cui nomen: كتاب سُكْرْدَانْ *مولانا (كتاب سُكْرْدَانْ *مولانا), i. e. *Saccharotheca Domini nostri Sultani*, auctore *Schihâb ed-dîn Abû l-Abbâs A'hmed bin Jâ'hjâ b. Abi Bekr et-Tilimsâni*, vulgo *Ibn Abi Hag'ala* dicto, mortuo a. h. 776. (Chr. 137½.) Praemittuntur codici folia duo numeris non signata, quorum posteriori in pagina prima inscriptus est index rerum (فہرست) in librum sequentem. Fol. 1. r. legitur libri titulus; incipit praefatio fol. 1. v. Absolvitur codex fol. 177. r., exaratus manu Habib allâhi, fil. Nûr allâhi.

De hoc opere vid. Hag'î Chalfa vol. III. pag. 604.; Alex. Nicoll in Catal. Bibl. Bodl. Codd. Orientt. pag. 140., ubi totius operis rationem exposuit ejusque capita recensuit; F. Wüstenfeld in diario: *Zeitschrift für die vergl. Erdkunde*, vol. I. pag. 57.; Cureton in Cat. Codd. Orientt. Musei Brit. Part. II. pag. 156. Conf. Catal. Bibl. Goth. n. 379—382.

*) Sequimur in scribendis vocalibus hujus vocis auctoritatem et hujus codicis fol. 1. r. et sequentis fol. 3. r.

CXLV.

(N. 72. in 4to.)

Ejusdem libri apographum alterum, in 4to. foll. 162. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptum, sed madore aliquid damni perpressum et in fine mutilum. Fol. 1. v. supra praefationem recentiore manu scriptus est libri titulus: كَتَابْ سُكْرْدَانْ الْمَلِكْ; sed verior est illa nominis forma, quae legitur et in codice praecedente, et in hujus codicis praefatione. In fine, fol. 162. v., pauca desiderantur ex ultimo capite conclusionis (النتیجۃ).

CXLVI.

(N. 38. in fol.; olim N. 36. in fol.)

Codex in fol., foll. 23. chartae Europaeae, char. Neschi manu viri alicujus docti in Gallia scriptus. Continet is *particulam e* clarissimo *Maqrîzii opere*, quod versatur in *descriptione historica et topographica Aegypti et Qâhirae*: كتاب المواعظ والاعتبار في ذر الخلف والاثار, et extremam quidem libri ultimi partem, ut apparet ex iis, quae docuit Hamakerus in specimine Catal. Bibl. Lugd. pag. 199. sq. Conf. Langlès in Notices et Extraits, vol. VI. pag. 320. sqq.: Möller in Cat. Bibl. Goth. n. 253.

Fol. 1. r. incipit narratio de monasteriis Christianorum: ذکَر دِیَارَاتِ الْنَاصَرِی (leg.: انصاری), quam excipit fol. 12. v. narratio de ecclesiis Christianorum: ذکَر کَنَائِسِ الْنَاصَرِی. Ultima codicis verba sunt: (leg.: یوحنا) وکَنِیْسَه مَارِیُوحَنَّا (leg.: یوحنا). Subscriptio finalis legitur fol. 23. v.: "Finis. Copiés 20 fenillets in 4o du livre de Maqrîsi cotté 3679. de la bibl. de M. J. Colbert. 6e 9bre 1696. Ve Me - - -*)". Alia manu adjicitur: "Enumeratio ecclesiarum et monasteriorum Aegypti." — Excerpta videtur haec particula e cod. biblioth. Reg. Paris. n. 801., olim Colbertino. Typis expressa legitur in libro: *Maqrîzi's Gesch. der Copten*, von F. Wüstenfeld; pag. ۳۶-۶۳.

*) Nomen, quod hic videtur scriptum esse, enucleare nobis non contigit.

CXLVII.

(N. 73. in 4to; olim N. 83. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 39. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minuto bene scriptus. Fol. 1. r. inscriptum est: كتاب فضائل مصر، et alia manu: وفيه ترتيب المملكة المصرية. Continet enim codex hæc:

I. Libellum de historia Aegypti ejusque praestantia, auctore 'Omar bin Mu'hammed bin Jüsuf el-Kindi. Profitetur ille in praefatione, fol. 1. v., se narraturum esse historiam Aegypti et expositurum, quibus virtutibus Aegyptum prae aliis terris ornaverit Deus O.M.; secutorum maxime aestimatissimos scriptores Jezid bin Abi 'Habib, 'Abd allah bin Abi G'a'fer, aliosque, quos recenset.*) Breviter deinde percurrit Corani effata, Aegypti praestantiam spectantia, antiquitates, geographiam et historiam ejus terrae, cui tum temporis praefuisse Sultânnum Qânszûh el-Ghauri apparet e fol. 16. r. Regnavit is ab a. h. 906. usque ad a. 922. (Chr. 1500—1516.) Inde a fol. 17. v. scriptor persequitur descriptionem geographicam Syriae, quae Sultâno Aegypti tunc parebat, cujusque recensentur oppida centum et arces (قلاع) centum et decem, usque ad finem libri, fol. 25. r., ubi subscriptio finalis hoc apographum absolutum esse testatur primo die mensis Mu'harrem a. 973. (Chr. 1565.), manu Ibrahimî bin G'a'fer el-Muzhafferi. — Sequitur:

*) Nomen libri num vere sit: كتاب فضائل مصر، ut inscriptum est fol. 1. r., nobis non constat. Diversum certe est compendium hoc ab illo libro, quem memorat Herbelotius s. v. Amrou ben Amrou et s. v. Fadhal Mesr, et a fratre scriptoris nostri compositum esse suspicamus. Laudatur enim codicis fol. 1. v. inter scriptores, quos secutus est noster, Abû 'Amr biu Mu'hammed b. Jüsuf el-Kindi, cujus nomen ad illud, quod legitur apud Herbelotium, propius aecedit, nostrique fratrem arguit. A Sujitio tamen in codicis sequentis praefatione, fol. 1. v., auctor libri etiam appellatur Ibn 'Amr el-Kindi, non Abû 'Amr.

II. Tractatus de administratione regni Aegyptiaci, qui vocatur in praefatione: حدیة العبد إلى القاصر إلى الملك الناصر، i. e. Munus servi tenuis, oblatum el-Melik en-Nâsziro, auctore 'Abd esz-Szamad bin Ja'hjä b. 'Ahmed b. Ja'hjä esz-Szâlihi. Fol. 26. r. legitur: كتاب فيه ترتيب مصالح المملكة المصرية فيما تعتمده الملوك في مصالح المسلمين على اتمام والكمال. Praefatio, incipiens fol. 26. v., maximam partem versatur in celebranda laude principis el-Melik el-Nâszir Abû -sSe'adât Mu'hammed et patris ejus el-Melik el-Eschref Abû -nNaszr Qâitbâj, qui Aegyptum tenuit ab a. h. 872. usque ad a. 901. (Chr. 1467—1496.), et successorem habuit filium, quindecim tum temporis annos natum, eundem, in cujus usum scriptus est hic tractatus, quinque sectionibus (فصول) constans. Sectio prima, incipiens fol. 31. r., est: في النظر في الجواب عن القصص التي؛ احوال العربية، secunda: في اعتبار احوال من يقوض اليه؛ تقدم إلى الملك، وولاية من الولايات وكيفية العلامة على كل ولاية بحسبها، quarta: في النظر في امر المساجد والجوامع والقلاع والحمامون والتغور والجسور وكسوة الكعبة واصلاح طريق الحج وترتيب سير الحاج واتمته وما فيه مصالح المسلمين، quinta denique: في ضبط اموال بيت المال على اختلاف. — Quae omnia absolvuntur usque ad fol. 36. r., ubi subscriptio finalis docet, hunc tractatum ab auctore esse compositum mense G'umâdâ posteriore a. 930. (Chr. 1524.), apographum nostrum exaratum mense Mu'harrem a. 973. (Chr. 1565.), ab eodem Ibrahimî, qui priorem codicis partem scripsit. Sed verum vix esse poterit, quod de tempore compositionis libri ibi traditum est; el-Melik en Nâszir enim, a. h. 901. ad summum in Aegypto imperium erectus, anno jam 904. interemptus est. Fortasse exemplar illud, quod secutus est Ibrahimus, a. 930. erat exaratum, sed non autographum auctoris.

III. Accedunt notitiae variae, maximam partem eadem manu scriptae, qua reliqua pars codicis; ut fol. 37. r. de linguis et litteris di-

versis. quarum fit mentio apud historicos. Linguae LXXII. distribuuntur secundum gentes a tribus Noachi filiis oriundas; filiorum Semi sunt linguae XXV., litterarum genera octo: عربى سريانى اجمي عبراني فارسي كلداني عندى، filiorum Hami linguae XXXII., litterarum genera sex: قبضى حبشى نوبى قيبلى قومى، filiorum denique Japheti linguae XV., litterarum genera (اقلام) sex: يونانى رومى ارمنى، — Fol. 37. v. de prophetis Arabicis Nūh, Szālīh, Schu'eib, Mu'hammed, Lūt et Hūd. — Fol. 38. r. alia manu. ni fallimur, scripta sunt haec: قال بعض الحكماء واصل انتجارب ذكروا ان من اتم ببغداد سنة وجد في علمه زيادة ومن اتم بالموصل سنة وجد في نفسه وعقله زيادة ومن اتم بحلب سنة وجد في نفسه شحاً ومن اتم بدمشق سنة وجد في ضيعة غلظاً ومن اتم بمصر سنة وجد في اخلاقه رقة وحسناً ومن اتم بحمص سنة ثم تفقد عقله وجده نقصاً ومن اتم بغزة سنة وجد في نفسه فاقة، قال بعض الحكماء لا تكمل مروة الرجل حتى يكون فيه ثلاث خصال من خصال الديك وثلاثة (sic) من الغراب وثلاثة من الحمام فلما اديك فالغبرة والايثار ومعرفة الوقت واما الغراب فالتبكر في المعاش واخفاء الجماع والحذر من الناس واما الحمام فاللثة، — Fol. 38. nihil habet scripti; fol. 39. r. catalogus mansionum lunae (منزل القمر) char. Nesta'liq negligenter exaratus est.

CXLVIII.

(N. 74. in 4to; olim N. 54. in 4to.)

G'elāl ed-dini es-Sujāti liber, qui vocatur: كتاب حسن اختصرة في اخبار مصر والقاهرة، i. e. *Sua-ritas confabulationis*, liber agens de *historia Aegypti et Qāhirae*: codex in 4to, foll. 370. chartae orientalis laevigatae, partim char. Neschi, partim char. Nesta'liq mediocriter neque eadem, ut videtur, manu exaratus. Praefixus est titulus fol. 1. r.; praefationis initium fol. 1. v.: الحمد لله الذي فأت (* بين العبد، ونفضل بعض، الخلقه على بعض حتى في الامكنة والبلاد،

*) In cod. Musei Brit. legitur فارق.

fol. 370. r., mense Reg'eb a. 1002. (Chr. 1594.)

De hoc libro vid. 'Hāg'i Chalfa vol. III. pag. 69. Totius operis conspectum dederunt Rasmussen in praefat. ad Annales Islamismi, pag. VII. sq., et de Hammer. Wiener Jahrbb., vol. LXX. Anzeigebl. pag. 85. Conf. praeterea Möller in Catal. Bibl. Goth. n. 255.; Wüstenfeld, Zeitschrift für vergl. Erdkunde, Th. I. pag. 63. sq.; Cureton in Catal. Codd. Orr. Musei Brit. Part. II. pag. 157. Fragmenta quaedam ex hoc libro edidit C. J. Tornberg, Upsal. 1834. sq. 4to; vitam auctoris ex eodem Alb. Meursinge, in Prolegomenis ad Sojutiū librum de interpretibus Korani, Lugd. Bat. 1839. 4o, pag. 4. sqq., quocum conf. G. Flügel, Sojuti's Leben und Schriften, Wiener Jahrbb. vol. LVIII—LX. Anzeigebl.

Codicem nostrum Qāhirae comparavit h. von Haven; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel Th. II. pag. 39. n. 1.

CXLIX.

(N. 75. in 4to; olim N. 12^b. in 4to.)

Codex in 4to. foll. 65. chartae laevigatae. char. Neschi satis benè scriptus et eadem, ni fallimur, manu, qua cod. CXXXVIII., quocum eodem antea volumine continebatur. Fol. 1. r. legitur titulus: كتاب جواهر البحور ووديع الامور وعجايب اندهور واخبار (في اخبار: leg.) الديار المصرية وما ورد فيها من الايات العظيمة والاحاديث الشريفة وما خصت به دون غيرها من البركة ومن الجبابرة والفراعنة وغيرهم بالتمام، والكمال ام. De nomine libri, quod hic est: *Margaritae marium et eventus rerum et mirabilia temporum*, a codice nostro et Herbelotio s.v. *Gia-vaher al bohour* dissentit nonnihil 'Hāg'i Chalfa vol. II. pag. 641. Versatur hic liber in enarranda *historia Aegypti* antiquiore, subjuncta enumeratione Sultānorum recentiorum usque ad Suleimānum, fil. Selimi, 'Uṯmānidam, qui regnum adeptus est a. h. 926. (Chr. 1520.) Adscribitur vulgo, et ab ipso quoque 'Hāg'i

Chalfa, *Ibrâhîmo Ibn Waszîf Schâh**) ; nun recte, dubitasse jam videtur Ill. Silvestre de Sacy, *Chrestom. Arabe*, 2e édit. Tom. II. pag. 237. not. 18. In codice nostro nomen quidem Ibrâhîmi saepius occurrit, sed ita ut ab ipso scriptore omnino diversus esse videatur. Exaratum est exemplar nostrum secundum subscriptionem finalem, fol. 63. r., a. h. 1104. (Chr. 1692 $\frac{2}{3}$.) Fol. 63. v.—65. v. nihil scriptum est. — Conf. Möller *Catal. Bibl. Goth.* n. 375.; de Hammer, *Wiener Jahrb.* vol. LXX. *Anzeigbl.* pag. 87.

Codex Qâhiraë emtus cum cod. CXXXVIII. a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis *lit. Briefwechsel*, Th. II. pag. 42. n. 25.

CL.

(N. 76. in 4to; olim N. 8. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 242. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter et festinanter scriptus. Continet is *partem primam libri*: جوامع السلوك فيمن ملك مصر من الملوك، i. e. *Margaritae filis junctae*, liber agens de iis, qui regnum tenuerunt in Aegypto, auctore nobis ignoto. Hunc, quem dedimus, titulum praefatio exhibet, quacum non concordat quod inscriptum est fol. 1. r.: كتاب تاريخ الامم واخبار ملوك العرب، وانهجيم ويسمى جوامع السلوك في اخبار الناس والملوك، neque quod legitur in fine codicis: جوامع السلوك، في حوادث الايام والسلوك، sed his minus fidei habendum. Initium praefationis fol. 1. v.: الحمد لله الملك الملوك ومالك الممالك، Auctoris nomen in praefatione exprimi debebat; legitur enim ibi: فقد قل الفقير الى ربه الغني الاجل --- بلدا واشافعي، مدعوبا والقادري حسبنا**، quod minio sine dubio erat exarandum, omissum est. Fol. 3. v. incipit introductio (مقدمة), quinque

partibus constans, quae in praefatione vocantur ابواب، in ipso vero libro اقسام، aguntque de originibus generis humani, de divisione terrae post diluvium, de dimensione terrae, de septem climatibus et climate Aegypti, de praestantia denique Aegypti rebusque maxime in ea memorandis. Ipse liber secundum praefationem dividitur in septem partes (اقسام)، quae enarrant historiam regum Aegypti e dynastiis 'Amaleqitarum, Pharaonum, Coptorum, Persarum, Graecorum, Romanorum et Muhammedanorum; et haec quidem ultima pars iterum dividitur in octo sectiones (فصول)، quae agunt de Chalifis rectae fidei (الراشدين)، Umajjadis, 'Abbâsidis, Fâtimidis, de dynastiis Kurdorum, Turcarum, Cerkesiorum et 'Usmânidarum (الرومية). Sed in ipso libro partes illae vocantur ابواب، neque omnino capitum dispositio concordat cum ea, quam profitetur praefatio. Primo enim capite agitur de Pharaonibus; secundo de 'Amaleqitis; caput tertium*) reges Persarum persequitur; quartum reges Graecorum; quintum Romanorum; sextum denique Chalifarum res enarrat et dynastiae Kurdorum. Perducitur historia in hac parte prima usque ad proelium ad vicum Hattin et expugnationem Hierosolymorum a. h. 583. (Chr. 1187.). Docet subscriptio finalis, fol. 240. r., scriptam esse hanc partem primam (الجزء الاول) a. h. 990. (Chr. 1582.). — Adjiciuntur varia, ad ipsum librum non pertinentia, ut fol. 240. v. de clarorum hominum proprietatibus, quae in pro- verbia abierunt, cum inscriptione Turcica: انسنة ناسده اولان صروب امتالدر، annotationes chronologicae variae; fol. 241. r.—242. v. versus Turcici, Persici, Arabici.

Codex Qâhiraë emtus a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis *lit. Briefwechsel* Th. II. pag. 39. n. 2.

*) Errant in efferendo hoc nomine Herbelotius l. l. et *Catal. Bibl. Reg. Paris.* n. 781.

***) Legendum erit نسبا.

*) In codice iterum vocatur caput secundum, et sic quae sequuntur capita III—V.

CLL

(N. 77. in 4to; olim N. 13. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 66. chartae laevigatae. char. Neschi satis bene scriptus. Continet is *historiam principum Aegypti*, auctore *Mar'i*) bin Jūsuf el-Muqaddesi*. Fol. 1. r. legitur recentiore manu negligenter scriptum: كتاب نزعۃ الناظرین فی تاریخ من ولی مصر من الخلفاء والسلاطين تصنیف یونس الخنبلی المقدسی عفی اللہ عنہ امین ، et eadem verba repetuntur in fine codicis, fol. 65. v. Sed in limine praefationis, fol. 1. v., auctoris nomen rectius scribitur: قال العبد -- مرعی بن یوسف الخنبلی المقدسی -- الحمد لله الباقی الخ ، Recensetur hic liber in catalogo librorum, ex 'Häg'i Chalfa excerpto, qui servatur in Bibliotheca nostra: نزعۃ الناظر (الناظرین) فی تاریخ من تولى مصر بعد الصحابة الى دولة العثمانية مختصر للشیخ مرعی بن یوسف الخنبلی انفع لعربی زاده ، Auctor, ut ipse tradit in enarrandis rebus gestis a. 698., professor erat juris Hanbalitici ad templum Tūlūnicum Qāhirae. Historiam Aegypti persequitur usque ad inaugurationem Sultāni 'Uṯmānīdae 'Uṯmān II., a. h. 1027. (Chr. 1618.), et ita quidem, ut eorum maxime res enarret, qui inter Aegypti principes Sultānorum titulo gaudebant.

Majorem libri partem et quae maximi momenti ei visa est. Germanice vertit J. J. Reiske et publici juris fecit in Büschingii Magazin für die neue Hist. und Geogr., vol. V. pag. 367—454. Conf. praeterea Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 786.: Repertorium für bibl. und morgenl. Litt., vol. III. pag. 275. sqq.; Möller Cat. Bibl. Goth. n. 373.

CLII.

(N. 29. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, char. Neschi bene scriptus. Post folia duo, quibus notitiae variae inscriptae sunt, legitur titulus, Reiskii

*) Derivandum est nomen: مرعی a verbo رعى.

manu exaratus: كتاب نزعۃ الناظرین الخ ، *Mor'j ben Juseph Hambelitae*, Hierosolymitani, *Historia Aegypti Principum*, sive Chaliphae illi fuerint, sive Sulthani, sive Praefecti eorum; e Codice msto Dorvilliano transscripsit Jo. Jac. Reiske." In margine annotatur: "vel Mara'i, ut habet d'Herbelot p. 554. b. cf. 667. b. p. 866. a. Fadhajel Meraï." Ipsum apographum continetur paginis 1—109., ubi in fine libri legitur: "Absolvi d. 20. Martii 1745."— Conf. quae annotavimus ad codicem praecedentem.

CLIII.

(N. 78. in 4to; olim N. 17. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 257. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens librum, cui nomen: كتاب لطائف اخبار الاول كتاب تصريف في مصر من ارباب الدول ، *Jucunditates historiae majorum*, liber agens de *dynastiis, quae Aegyptum tenuerunt*, auctore *Mu'hammed bin 'Abd el-Mu'ti (عبد المعطي) b. Abi-lfat'h b. 'Ahmed el-Menafi el-Is'hagi*. Dividitur hic liber in codice nostro in partes duas, quarum utrique suis praefigitur titulus, fol. 1. r. et 146. r. Initium praefationis, fol. 1. v.: الحمد لله الملك العزيز في ملكه واقتداره ، الذي ملك الوجود بقوته واوجده بارادته واختياره ، Inscriptus est liber Sultāno 'Uṯmānīdae Musztafā, qui bis regnum adeptus est, a. h. 1026. (Chr. 1617.) et a. 1031. (Chr. 1622.), et res Aegypti persequitur usque ad a. 1032. (Chr. 1623.) Constat e tractatu introductorio, decem capitibus et epilogo. Pars altera codicis incipit a cap. IV. et ad finem perducta est, teste subscriptione finali, fol. 257. v., mense Szafar a. 1093. (Chr. 1682.)— Caput indicem dederunt Rasmussen in praefatione ad *Annales Islamismi*, pag. VI. sq., et Kraffius, *Handschriften der K. K. Akad. zu Wien*, n. 257. Conf. praeterea Herbelot s. v. Lathaif; Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 787.

Codex a Niebuhr in Oriente comparatus.

CLIV—CLVI.

(N. 79—81. in 4to; olim N. 5—7. in 4to.)

Historia clarissimorum principum Nûr ed-dîn et Szalâ'h ed-dîn, quae vocatur: ازغار الروضتين في اخبار الدولتين، i. e. Flores hortorum duorum, liber agens de historia duorum regnorum, auctore *Schihâb ed-dîn 'Abd er-Râh-mân bin Isma'il b. Ibrahim' b. 'Uḡmân b. Abi Bekr b. Ibrahim b. Muḥammed b. el-Muqaddesî esch-Schûfî*, vulgo *Abû Schâme* dicto et mortuo a. h. 665. (Chr. 1266.), cum appendice; tribus voluminibus constans, in 4to. Volumen primum foliorum est 218. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi antiquo, sed festinantius scriptum, punctis diacriticis plerumque omissis, optime conservatum. Fol. 2. r. in superiore parte paginae ad sinistram inscriptum est: في (leg.: الروضتين) الجلد الاول من تاريخ الروضتين (sic) شامه، fol. 2. v., hoc est: الحمد لله الذي بلغه تصدح الاعمال، وبكرمه وجوده تدرك الامال، 212. 213. recentiore manu suppleta sunt. Pergit hoc volumen usque ad finem a. h. 573. Subscriptio finalis, fol. 218. v.: اخر الجزء الاول من الاصل المنقول منه الذي هو بخط المؤلف رحمه الله تعالى يتلوه ان شاء الله في الجزء الثاني قد دخلت سنة اربع وسبعين وخمسماية ذل العباد وكان شمس الدين بن المقدم من اكابر الامراء. Additur, absolutum esse hoc volumen mense Au-l'hiḡ'g'e a. 676. (Chr. 1278.)

Volumen secundum foll. est 273., formae paulo minoris, sed eadem manu scriptum, qua volumen primum. Fol. 1. r. similis quoque inscriptio legitur, ac vol. I. fol. 2. r. Initium vero hujus voluminis, fol. 2. v., non concordat cum iis, quae promittit voluminis praecedentis subscriptio, sed incipit a sectione, agente de morte principis el-Melik esz-Szalâ'h Isma'il, fil. Nûr ed-dîni, in medio a. 577., ita ut lacuna appareat, tres amplius annos complectens. Post fol. 122. iterum lacuna est duorum foliorum. Pergit hoc volumen usque ad mortem Szalâ'h ed-dîni a. 589., subjuncta brevi narratione de rebus gestis

filiorum ejus, usque ad a. 597. In fine legitur, fol. 273. r.: آخر الكتاب الخ، in margine annotatur, apographum hoc collatum esse cum autographo.

Appendicem continet volumen tertium, quod est foliorum 187., eadem fortasse manu, sed multo accuratius scriptum, quam volumina praecedentia. Fol. 1. r. legitur: ذيل تاريخ روضه، الحمد لله الذي انفرد بالبقاء وكتب على غيره الروال، Aggreditur Abû Schâme in hoc libro enarrare res gestas inde a morte Szalâ'h ed-dîni, vel potius ab a. 591. usque ad vitae suae terminum. Vitam quoque suam persequitur ad a. 599., quo natus est Damasci, die Veneris, vicesimo tertio mensis Rebi' posterioris. Ex hac codicis parte, fol. 27. r., genealogiam ejus supra dedimus, dubitantes tamen de vera lectione in verbis illis: "bin el-Muqaddesi." Ipse quidem tradit, atavum suum Abû Bekr Hierosolymis fuisse oriundum; sed errore fortasse irrepsit vox "bin" ante "el-Muqaddesi". Originem etiam cognominis Abû Schâme explicat; naevo erat notatus supra supercilium sinistrum. Pergit haec appendix usque ad a. 665. (Chr. 1266.) Fol. 187. r. subscriptio finalis docet, absolutum esse codicem nostrum a. 728. (Chr. 1328.)

De Abû Schâmae historia Nûr ed-dîni et Szalâ'h ed-dîni vid. Hâḡ'î Chalfa, vol. I. pag. 262.; Reinaud in praefatione libri: Extraits des historiens Arabes relatifs aux guerres des croisades, pag. XX. sq.; Cureton in Catal. Codd. Orr. Musci Brit. Part. II. pag. 153.; appendicis vero nostrae hi viri docti mentionem non faciunt.

Codex Qâhîrae emtus a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel Th. II. pag. 41. n. 19—21.

CLVII.

(N. 82. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 17. in 8vo.)

Codicillus quattuor foliorum chartae Europaeae laevigatae, manu Michaëlis Szabbâgh,

ni fallimur, exaratus, continens fragmentum nescimus cujus libri historici. Suspiciari licet e Maqrizii aliquo opere esse excerptum. Praemisit notitiam b. Silvestre de Sacy, quae sic se habet: "Acte ou contrat de mariage d'Almélie alsaid Mohammed Béréké-khan, fils d'Almélie aldhaler Bibars, avec la Princesse Gaziéh khatoun, fille de l'émir Seif-eddin Ke-laoum Alfi." Fol. 1. r. in limine libri scriptum est: ذكّر عقد الملك السعيد على بنت الأمير سيف الدين، قلاوون الألفي، في يوم الخميس ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنة اجتمع القضاة والوزراء واعيان الامراء بين يدي الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى بقلعة الجبل وعقد عقد الملك السعيد بن الملك الظاهر على ابنة الأمير الحج، غازية خاتون ابنة الأمير الحج، Contractus matrimonialis incipit fol. 1. v.; clauditur codex fol. 4. r. his verbis: وما جرى العقد --- قرأ القاضي محبى الدين بن عبد الظاهر مولف سيرة الملك الظاهر الصادق في المجلس فخلع السلطان عليه واعطى مائة دينار والده اعلم،

CLVIII.

(N. 83. in 4to; olim N. 23. in 4to.)

Historia Aegypti, ab 'Uṣmānidis expugnatae, cui nomen: الخفة النبوية في تملك آل عثمان i. c. Donum splendens, liber agens de occupatione Aegypti per 'Uṣmānidas, auctore *Schems ed-dīn Muḥammed bin Abī -ssurūr b. Muḥammed b. Abī -ssurūr el-Bekri esz-Sziddīqī**; codex in 4to, foll. 101. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus. Fol. 1. v. legitur tabula chronologica, cui inscribitur: تواريخ پاشايان مصر سمية

*) Haec vera nominis forma nobis visa est; vario tamen modo ab ea recedere videmus alios. H. Silvestre de Sacy, ubi de hoc scriptore uberius egit, Notices et Extr. des MSS. de la Bibl. du Roi, T. I. pag. 165. sqq., pro el-Bekri esz-Sziddīqī dedit: albakeri alsadiki, i. e. الباقري الصادق, nescimus qua auctoritate nisus. Verum hujus libri nomen quoque ignorasse videtur vir clarissimus, substituens ei titulum: Alfotouhāt alothmaniat lildiar almisriat.

عن النبوية والاصم عن ابتدائه فتح خاتونى كه در سنه ۹۳۲ واقع شده. Sed ea ultra a. h. 943. non progreditur; videtur vero post fol. 1. excidisse folium unum. Fol. 2. r. inscriptus est titulus, quem dedimus supra et repetit praefatio, adjecto auctoris nomine: شمس الدين محمد بن شريح الاسلام، محمد ابى السرور البكرى الصديقى، ubi omissa videntur nomen patris Abū -ssurūr et vocula ante nomen proavi Abū -ssurūr. Initium praefationis fol. 2. v.: الحمد لله مصرف امور العالم بقدرته في ساير الاكوان، Dividitur totus liber in tres partes (فروع)، quarum prima enarrat expugnationem Aegypti per Sultānum Selīm; secunda persequitur Beglerbegos, Aegyptio praefectos, ab a. h. 923. usque ad a. 1045. (Chr. 1517—1636.); tertia recenset iudices (القضاة) ejusdem temporis spatii. Subscriptio finalis, fol. 101. r., duplex est; prior: هذا اخر ما وجد تمت نساخه ما كان ناقصا; altera: من هذا الكتاب الحج، من هذا الكتاب; adjecto scriptionis anno et mense. Scha'bān a. 1164. (Chr. 1751.) — Conf. de hoc scriptore F. Wüstenfeld, Zeitschrift für vergl. Erdkunde, Th. I. pag. 66.

CLIX.

(N. 84. in 4to; olim N. 10. in 4to.)

Historia rerum in Aegypto gestarum ab a. h. 1100. (Chr. 1688.) usque ad a. 1152. (Chr. 1739.), imperantibus Sultānis 'Uṣmānidis Suleimān II., A'hmed II., Musztafā II., A'hmed III. et Ma'hūd I., auctore *Musztafā bin Ibrahim*, rerum, quas narrat, magnam partem teste oculato; codex in 4to, foll. 216. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Hic liber inscriptione caret, sed capsula inclusus est, in qua legitur: كتاب تاريخ مصر خط، الحمد لله الكريم الوهاب، غافر الذنب يشوب على من تاب، اما بعد قد سال انعبد الفقير --- الحاج مصطفى ابن الحاج ابراهيم تابع المرحوم حسن اغا عزبان دمر داشى كن (sic) عن وقبع مصر القاهره كنانة الله تعالى في ارضه من عزلان السلطان محمد خان والسلطان سليمان خان

والسلطان أحمد خان والسلطان مصطفى خان والسلطان
أحمد خان والسلطان محمود خان نصره الله تعالى من سنة
مايه بعد الألف الى تاريخ آخر المجموع والباشاوات على
الترتيب ما قد حصل في مدينتيم من التوقيع بين عسكر
مصر والسناجق والاغوات cet. Sed ad finem non
perductus esse videtur hic codex, desinens fol.
216. r.

CLX.

(N. 39. in fol.; olim N. 45. et 46. in fol.)*

Codex in fol., foll. 120. chartae laevigatae,
char. Africano recentiore bene scriptus. Con-
tinet *historiam regni Maroccani et urbis Fās*,
notissimam sub nomine: القرفاس الصغير، *el-
Qartās minus*, auctore *Abū -lhasan 'Alī bin
'Abd allāh bin Abī Zar'* (بن أبي زرع) *el-Fāsī*,
cujus nomen legitur in limine codicis fol. 1. v.**) Praefationis
initium: الحمد لله مصرف الامور مشيته . وقد بيهره ،
الانيس المضرب القرفاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ
مدينة فاس . A qua nominis forma vario modo
recedunt cum alii scriptores, tum Hāg'i Chalfa,
vol. I. pag. 489. Sed unice vera sunt, quae
de ea re praecepit P. de Gayangos, the hist. of
the Moh. dynasties in Spain, vol. II. pag. 516.,
hoc modo restituens libri titulum: كتاب الانيس
، المضرب بروض القرفاس في اخبار الخ ،
(sito prope urbem Fās.) liber agens de rebus gestis regum Mau-
ritaniae et historia urbis Fās. Incipit pars prima
fol. 2. v. a dynastia Idrisidarum, qui a. h. 172.
summa rerum politici sunt, desinit fol. 58. r. in
morte principis 'Abd el-Mumini, a. h. 558. —
Pars posterior incipit fol. 62. v. ab 'Abd el-
Mumini filio, Abū Ja'qūb Jūsuf, et desinit fol.

*) Duae partes, quibus constat hic liber, antea sepa-
ratae, nunc uno volumine continentur.

**) Alii rectius fortasse auctorem vocant: Abū 'Abd
allāh 'Alī bin Mu'hammed b. A'hmed b. 'Omar Ibn
Abi Zar'.

118. v. in a. h. 726., imperante Abū Sa'īd
'Uṣmān bin Abi -rrebi' Suleimān Merinida.**))

Editionem hujus libri paravit C. J. Torn-
berg: *Annales regum Mauritaniae a condito
Idrisidarum imperio ad a. f. 726.*, ab Abul-
Hassan Ali ben Abdallab ibn Abi-Zera Fesano,
vel ut alii malunt, Abu Muhammed Salih ibn
Abd-elhalim Granadensi conscripti. Upsal., 1843.
4to. Interpretationes ediderunt, Germanicam
Franc. de Dombay: *Geschichte der mauritani-
schen Könige* cet. T. I. II. Agram, 1794. 1797.
Svo; Lusitanicam Fr. J. de Sto Antonio Mou-
ra: *Historia dos Soberanos Mohametanos* cet.,
escripta em Arabe por Abu Mohammed As-
saleh.**) Lisb., 1828. 4to. Conf. C. T. Jo-
hannsen in diario: *Hermes*, vol. XXXV. pag.
287. sqq.; Kraft, *Handschriften der K. K. Akad.*
in Wien, n. 253.; de Hammer, *Wiener Jahr-
bücher*, vol. LXX. pag. 2. sqq. et vol. CH.
pag. 75.

Codicem nostrum comparavit b. G. Höst,
teste Rasmussen in praefat. ad *Annales Isla-
mismi*, pag. IX.

CLXI.

(N. 40. in fol.; olim N. 44. in fol.)

Codex in fol., foll. 66. chartae, ut videtur.
Europaeae, char. Africano bene scriptus. Con-
tinet is:

I. Fol. 1—13. *Compendium historiae prin-
cipum Idrisidarum* in Mauritania ab a. h. 172
—375., auctore ignoto. Fol. 1. r. Hispanice,
sed char. Rabbinico inscriptum est: "El nombre
de este libro es onde declara todos los rey-
nados de Fes, hijos de Sidi Muley Idris." Fol. 1. v. legitur: هذا تأليف مبارك في ذكر الملوك
، الادريسية رستم الله امين ،
اعلم ان ملوك الادريسيه اوليم

*) Narrat Hāg'i Chalfa auctorem hunc librum compo-
suisse ante a. 726.; verius est eum non esse mor-
tuum ante hunc annum.

**) Eidem scriptori hic liber adscribitur in cod. Eскур.
n. 1706. Goth. n. 262. Conf. P. de Gayangos, l. l.

، سيدنا ومولانا ادريس الحسنى ، ابو محمد عبد الملك : quos secutus est auctor : ابن محمود الوراق في كتاب المقياس ، fol. 13. v. — Sequitur :

II. Fol. 14—66. *Tractatus de mysterio maxime litterarum*, qui excerptus esse dicitur *ex ed-Demirri vita animalium*. Fol. 14. r. legitur titulus : كتاب كشف رمز الحروف منقول من كتاب حياة الحيوان للامام سيدى محمد الدميرى رحمه الله ،

In margine Hispanice annotatur, sed char. Rabbinico: "Declaracion de todas las letras con que leen los moros en sus leyes de diferentes suertes, y declaro de todos los numeros, che si usan en todo el mundo. Tambien letras gechas (?), como usan en la India; tambien letras dela suerte, que gablaba Adam; tambien declaro sobre los naturales de las personas, que es (?) del fuego, de la tierra, del viento y dela agua." Titulum excipit tractatus initium: الحمد لله الذى علم الانسان ما لم يعلم من أنواع العلم والحكمة من اصل رمز الحروف المرسومة cet. Exponuntur deinde Arabum litterae XXVIII. earumque valor numericus; dividuntur in litteras igneas, terrenas, aërias et aquosas, et quae sunt nugae ejusmodi. Fol. 39. v. Indorum litteras vel potius numerorum signa apud Indos usitata explicare aggreditur, similiterque fol. 42. r. Syriacas litteras exponit (الحروف السريانية) i. e. numerorum signa, quae Syris adscribit, nobis plane ignota et quae typis reddere non possumus. Adjiciuntur tabulae, ut Arabicorum numerorum, ita et Indicorum et Syriacorum. Inde a fol. 49. r. de mensibus agitur tam Europaeorum, quam Arabum, et variis aliis interpositis, fol. denique 62. v.—66. v. astronomica nonnulla finem faciunt hujus compilationis.

CLXII.

(N. 85. in 4to; olim N. 76. in 4to.)

Fragmentum libri de historia regum Mauritaniae, qui adscribitur *Ibn Bessâmo*, in 4to,

fol. 180. chartae, ni fallimur, Europaeae, char. Africano bene scriptum. Fol. 1. v. post Hamdalem legitur: هذا كتاب التواريخ المعروف بابن بسام في اختصار ملوك الحضرة المراكشية وما جرا لهم في الجهاد مع انصارى في فتوح بلاد الاندلس وافريقية وغيرها من امدابن ، وفي هذه السنة المورخة وصل وفد اهل القيروان : Agitur h. l. de a. h. 566. et pergit codex usque ad a. 662. (Chr. 1261.) Subscriptio finalis fol. 180. v. haec est: كمل الكتاب بحمد الله وحسن عونه في علم التواريخ من ملوك المتقدمه وما جرى لهم من الجهاد وانفوحات والقتال والجهاد وغيره (في 21 من جمادى الاولى 1175م) ،

Num recte hoc fragmentum *Ibn Bessâmo* adscribatur, et quisnam sit ille *Ibn Bessâm*, nobis non liquet. Notissimum hujus nominis historicum *Abû l'hasan Ali Ibn Bessâm*, quem confudit *IIâg'i Chalfa**) cum poëta cognomine, mortuum esse constat a. h. 542. (Chr. 1147.)

Comparavit codicem b. G. Høst, teste Rasmussen in praefatione ad *Annales Islamismi*, pag. IX.

CLXIII.

(N. 86. in 4to; olim N. 90. in 4to.)

Codex in 4to, in Hispania scriptus, continens *particulam libri*: كتاب بغية الملتبس في تاريخ رجال اهل الاندلس ، i. e. *Desiderium petentis*, liber agens *de historia virorum illustrium Andalusiae*, auctore *Ahmed bin Ja'hjâ bin Ahmed b. 'Amîra edh-Dhabbi***), de quo libro uberius egit Casiri in *Bibl. Escur.* T. II. n. 1671. pag. 133—140. Duplex praemittitur titulus, prior ab ipso libro prorsus alienus et recentiore manu exaratus: "De la egira ô era de los Arabes y su Principio": posterior eadem, qua

*) Vol. I. pag. 134. n. 180. et vol. III. pag. 331. n. 5799.

Videtur excidisse nomen *Mu'hammed* post vocem بن in vol. III. l. l.

**) Conf. *Sujütii Lubb el-lubâb*, ed. Veth, pag. 165.

totus codex, manu scriptus: "Capitulo Primero del Libro intitulado: Varones de Andalucia, que escribiò en Lengua Arabe أحمد بن يحيى بن أحمد بن عبيدة الضبي, Ajmed Ben Jajia Ben Ajmed Ben Ahamiret el Dhabi, traducido de uno de los codices de la R^a Libreria de el Escorial por Don - - -*), Antiquario Universal y traductor de Lengua Arabe." Infra eadem manu, quae exaravit titulum priorem, annotatum est: "Para el tomo 3. de la Llave de Babel Parte 2.;" quem quidem librum ejusdem antiquarii esse discimus e prooemii pag. XVI. sq. — Sequitur pag. I—XXI.: "Proemio del Traductor," فتحة الترجمان. Proferuntur in hoc prooemio, Hispanice scripto, pag. VII. sq., alphabeta nonnulla Cufica et alphabetum magicum e libro quodam de amuletis. quae dicuntur, de nummis et alphabetis Arabicis, cujus auctorem vocat noster: علي محمد بن علي النميس الجدي بن موسى; deinde pag. X. XII., duae inscriptiones Cuficae brevissimae, altera, "que copiò un erudito Antiquario de una de las ventanas del Palacio Arzobispal de Toledo". cujus explicationem proponit auctor. approbatione indignam: altera reperta in loco "Miramtel Pueblo de Alcarria", nullius momenti. Commendat in fine librum, cujus interpretationem offert, "por ser unico en el asunto y complemento del Libro de Abi Ahabd Allah Mjamed Ben Abi-Nasar el Jamidi." — Sequuntur, pag. 1—54., textus Arabicus et interpretatio Hispanica initii ejus libri, quem indicavimus, ita ut paginas ad sinistram Arabica occupent, ad dextram interpretatio. Inscriptio pag. 1.: كتاب بغية المنس في رجال اعدل الاندلس وعلمائها وامرائها وشعرايتها وذوى انبعاثه فيينا من دخل

*) Deletum est nomen, quod h. l. scriptum erat; dignoscitur tamen etiam nunc nomen Faustini de Muscat y Gusman, de quo vid. P. de Gayangos in praefatione libri: the hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. IX. sq. not. 4.

انبياء او خرج عنيا ما نشى به نصر الحميدى وتم واتهم سداه وتم احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة الضبي ، وفيه الله ، quibus pag. 2. respondent haec: "Libro de perfecta satisfaccion de los Varones de Andalucia, sus sabios, Governadores, Poetas, los de la profecia sobre ella de quien entrò en ella, ô saliò de ella, de quien vagò en ella; de Nasar el Jameidi fue perfecto y logró fama su industria. Le perfeccionò Ajmed Ben Jajia Ben Ajmed Ben Ahamiret el Dabi: concendele Dios." Quae quidem doctum interpretem non produunt. Initium libri pag. 3. hoc est: اما بعد حمد الله تعالى انذى لا يعرف الخير الا من ، نبيه الكريم. Laudibus extollitur in praefatione inter eos, qui antea de iisdem rebus egerant, Abù 'Abd allâh Mu'hammed bin Abi Naszr el-Humeidi, cujus tamen liber subsistere dicitur circa a. 450.*) Versantur, quae adsunt in primis occupatae Hispaniae temporibus. Hic illic lacunae reperuntur, ubi Arabica legere non potuit scriptor; passim adjectae sunt notae.

CLXIV.

(N. 30. in Svo.)

Codex Reiskianus, in Svo, paginarum 29., cui inscriptum est pag. 1.: "Ahmed Ibn Arab-schaf[h] خاتمة s. oratio finalis Historiae Timuri subjuncta. E Cod. MS. Ludovici Piques, qui in Bibl. Regia Paris. asseruatur, Arabice descripsit Sigismund Gottlob Seewisch, Bibl. Reg. Dresdens. E cuius demum απογραφω Arabice descripsi et latine verti. Joh. Jac. Reiske. Dresdae, 1736. Mens. Nov. d. 28. et 29." Arabica incipiunt pag. 3., interpretatio Latina, e regione textus collocata, pag. 4. Sed initium et finis non sunt translata. Explicit textus pag. 29.

*) De 'Humeidio ejusque libro vid. P. de Gayangos, l. l. vol. I. pag. XX. et pag. 473. Excerpta ex eo dedit idem in appendice, vol. II. pag. VIII—XXII.

CODICES DE GENEALOGIA ET EPONOMASTICE.

CLXV.

(N. 87. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, continens *Ibn Dureidi lexicon genealogicum*, et quidem integrum, quamquam priorem tantum partem indicat titulus libro praefixus: *الجزء الاول من كتاب الاشتقاق كامل** تصنيف الشيخ الامام ابى بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي، "Opus Grammatico-Historicum optimaе notae." In margine adjicitur: "Ibn Doreid Ketab ol Eschtekaki seu Etymologicum Genealogiarum Arabicarum, descripsit ex cod. msto Arab. Bibl. Leidenensis (n. 362.) Jo. Jac. Reiske; mens. Nov. et Dec. 1739." De quo libro vid. quae monuit Reiskius in Prodidagmatis ad Haagji Chalifae tabulas, in libro: *Abulfedae tab. Syriae*, ed. J. B. Köhler, pag. 231. n. 7. Titulum excipit in codice nostro folium unum, quod exhibet notitiam de Ibn Dureido, in titulo codicis Lugdunensis nomini auctoris adscriptam. Ipse liber occupat pagg. 1—513. Notae marginales passim adsparguntur. Subscriptio finalis e cod. Lugd. adjicitur pag. 515.; infra Reiskius annotavit: "Et ego finem imposui d. 10. Decembr. 1739. die Jovis." — Tabulae genealogicae et indices Reiskii cum hoc codice asservantur.

Ibn Dureidi vitam scripserunt Ibn Challikân (vid. edit. clar. Mac Guckin de Slaue, vol. I., pag. 698. sqq. et Hamakeri spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 35—46.) et Ibn Hischâm in limine commentarii in carmen laudatissimum, *Maqsûra dictum*; vid. edit. L. N. Boisen. Havn., 1828. 4to. — De codice nostro conf. Reiskens *Lebensbeschr.* pag. 156. sq.

*) Sic Reiskius scripsit, codicem Lugd. accurate secutus; vid. Hamakeri spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 33.

CLXVI.

(N. 88. in 4to.)

Codiculus in 4to, paginarum 14., Lemmingii manu scriptus, qui hunc praefixit titulum (pag. 1.): "*Stemma Aduani et Cahthani* (vigtig til Arabernes Genealogie og Historie för Mohamed) udskrevet af Cod. 1700. i Escorial-Bibliothek ved Doct. P. Lemming. A. 1819." Pag. 3. superscriptum est: *كتاب فيه نسب عدنان وقحطان عن ابى العباس محمد بن يزيد رمة الله عليه رواية ابى الحسن على --- سماح لموعوب بن احمد --- الجوابقى*. Explicit libellus pag. 13. lin. 2. Accedit usque ad finem pag. 14. *tractatus de genere masculino et feminino partium corporis humani et vestimentorum*: *ما يذكّر ويؤنث من الانسان ومن اللباس*, secundum praecepta grammatici *Abû Musâ Suleimân bin Muhammed*. Duplex adest subscriptio, altera Danica Lemmingii, de cod. Escorialensi, quem secutus est, altera Rasmuseni, ad Casirii cod. MDCC. n. 5. (Tom. II. pag. 157.) lectorem ablegantis.

CLXVII.

(N. 89. in 4to; olim N. 21. in 4to.)

Codex in 4to, bipartitus, char. Neschi bene scriptus et capsula inclusus.

I. Pars prior foliorum est 178. chartae orientalis laevigatae, et continet *es-Sujâtii librum de nominibus relativis*, qui vocatur: *كتاب لُبِّ اللِّبَابِ في تحريم الانساب*, i. e. *Medulla libri el-Lubâb*, liber agens de orthographia nominum relativorum. Fol. 2. r. inscriptus est titulus; sed errore librarii pro *اللِّبَابِ* ibi legitur *اللباب*, idemque mendum videmus repetitum non solum in capsulae opereculo, verum etiam in ipsa praefatione. Annotatur praeterea infra titulum: *ويليه ذيله للعلامة احمد العجمي عفى عنه بمنه وكرمه*

، أمين؛ quae verba codicis partem alteram spectant. Praefationem librique initium habemus fol. 2. v.; finem fol. 176. r. Absolvit eum mense Ramadhân a. 1145. (Chr. 1733.) Mu'hammed quidam, fil. 'Alii, Schâf'ita.

Hunc librum publici juris fecit doct. P. J. Veth, Lugd. Bat., 1840. 1842. 4o.

II. Pars posterior folia habet 60. et continet *appendicem ad librum Lubb el-lubâb*, conscriptam ab *Ahmede bin Ahmed el-'Agemî*, partim vestigia premente *Mu'hammedis bin 'Ali bin Ahmed ed-Daûdi el-Mâlîkî*. Fol. 2. r. legitur titulus: هذا ذيل لب اللباب للشيخ العلامة ، هذا ما جردته من خط احمد العجمي رحمه الله تعالى أمين ، Praefationem, fol. 2. v., scripsit *Abd er-Rahmân el-Ushwânî*, cujus haec sunt verba: هذا ما جردته من خط شيخنا - احمد العجمي من هامش نسخته لب اللباب

للسيوطي بعد اذن تجله مولانا شيخ الاسلام الشيخ محمد بن العز العجمي ، Nomina relativa, ut in libro *Lubb el-lubâb*, secundum ordinem alphabeticum digesta sunt. Subscriptio finalis, fol. 58. v., haec est: هذا اخر ما وجد بخط شيخنا - احمد بن يمامش نسخته لب اللباب في تحريم الانساب للامام السيوطي وكتب بخطه في اخر نسخته المرقومة نقل ذلك من خط الشيخ محمد بن علي ابن احمد الداودي المالكي رحمه الله تعالى وغالب ما يمامش هذا انسخته من خطه ايضا ثم للقت اكثر ما نقل من خط الداودي والله الحمد ، انتهي ، Adjicitur, scriptum esse hoc apographum mense Schawwâl a. 1145. (Chr. 1733.) ab eodem Mu'hammed bin 'Ali, qui exaravit partem priorem. Foliis 59. 60. nihil est inscriptum.

CODICES DE HISTORIA LITTERARUM ET BIBLIOGRAPHIA.

CLXVIII.

(N. 41. in fol.; olim N. 28. in fol.)

Clarissimi *Cantilenarum libri* (كتاب الاغانى) *pars extrema*; optimae notae codex, in fol., foll. 240. chartae bombycinæ firmæ laevigatae, char. Neschi magno et robusto eleganter et accuratissime scriptus, adjectis per totum librum vocalibus, in margine inferiore madore paululum laesus. Fol. 1. r. pictura occupat, splendidissima olim, sed nunc contaminata, equitis imaginem sistens, falconem album in sinistra gestantis, quem angeli utrinque comitari videntur. De ipso libro ejusque auctore, *Abû -Isferej' 'Alî bin el-'Husein bin Mu'hammed el-Isbahânî*, mortuo a. h. 356. (Chr. 967.), vid. quae disputaverunt clarissimi viri J. G. L. Kosegarten in prooemio editionis, quam inchoavit Gryphiswaldiae, a. 1840., et Steph. Quatremère in libro: *Nouveau Journal Asiat.*, vol. XVI. pag. 385—419. 397—545. et in: *Journal Asiat.*, 3e

série, vol. VI. pag. 465—526. — Incipit textus Arabicus in codice nostro fol. 1. v. post *Besmelam*, desinit fol. 240. v. Index poetarum, quorum vitae et carmina hoc volumine continentur, hic est:

fol. 1. v. : النيم بن توكيب ،

7. v. - : مالك بن الرّيب ،

15. r. - : عبد بنى الحساس ،

23. v. - : مروة بن حكان ،

25. v. - : اعدىل ،

36. v. - : نذر الغي ،

35.v.*) : عمرو ذو الكلب ،

38.v.**)) : نقيب ،

*) Turbatus est a bibliopega foliorum ordo, ita restituendus, ut folium 27. excipiant quae nunc sunt folia 29. 30. 28. 32. 33. 31. 36. 34. 35. 37. 38. cet.

**)) Post fol. 38. lacuna est, unius folii aut duorum, ut suspicamur.

fol. 41. v. : محمد بن عبد الملك البزّيات	
54. v. - : أبو حشيشة ،	
59. v. - : عنان ، (poëtria)	
63. v. - : الحسن بن وهب ،	
75. r. - : أحمد بن يوسف ،	
77. r. - : العنقوي ،	
80. v. - : مروة ،	
82. r. - : علي بن أبي أمية ،	
85. v. - : عمر الميبداني ،	
86. v. - : سليمان بن وهب ،	
92. v. - : أيان بن عبد الحميد ،	
98. v. - : تويت ،	
103. v. - : ماني ،	
107. r. - : بكر بن خارجة ،	
110. v. - : نصيب ،	
120. r. - : أبو شراعة ،	
128. r. - : ابن البواب ،	
129. r. - : اسمعيل انقراضيسي ،	
130. r. - : أبو العيم ،	
134. r. - : مروان بن أبي حفصة ،	
140. v. - : عبد الله بن يحيى ،	
157. v. - : عبد الله بن أبي العلاء ،	
159. r. - : عبد الله بن أبي معقل ،	
161. v. - : وقعة ذي قر ، (De proelio ad Aū Qār)	
170. r. - : انقحيف ،	
173. r. - : انقند ،	
174. r. - : عبد الله بن دحمان ،	
175. r. - : امنتخل ،	
177. v. - : أبو عخر ،	
184. v. - : يحيى بن طالب ،	
187. r. - : عروة بن حزام ،	
194. v. - : القتال ،	
203. v. - : الراعي ،	

fol. 209. r. : جندل بن الراعي ،

209. v. - : عمار ذو كبار ،

215. v. - : عبد الله بن مضعب ،

218. v. - : أبو العيال الهذلي ،

221. r. - : عبيد ،

225. r. - : عمرو بن سعيد وخاند بن المصلل ،

227. v. - : انقنامي ،

234. v. - : عمارة ،

Subscriptio finalis, fol. 240. r.: هذا آخر كتاب

الاعاني الكبير للجامع من تصنيف أبي الفرج علي بن الحسين
cet. Absoluta est scriptio codicis
mense Ramadhān a. 616. (Chr. 1219.); exaravit
eum Mu'hammed bin Abi Talib el-Bedri.*)

CLXIX.

(N. 90. in 4to; olim Nr. 43. in 8vo.)

*Imād ed-dīni Mu'hammed bin Mu'hammed
el-Iszfahāni*, clarissimi Sultānorum Nūr ed-dīni
et Szalāh ed-dīni scribae, *appendix ad librum
suum*: خريدة انقصر وجريدة انقصر ، *Marga-
ritam palatii et palmam saeculi, vitas poëtarum
illustrium saeculi a fuga Prophetae sexti con-
tinentem*; codex in 4to, foll. 89. chartae orien-
talis laevigatae, char. Neschi bene scriptus.
Fol. 1. r. inscriptum est: هذا الذيل على خريدة
انقصر للكتاب رحمه الله امين ،
حمد الله الذي اطلع بوجود محمد ،
صلعم شوموسا وانمار ،
Narrantur in hoc libro vitae
poëtarum CXCIV. ejusdem saeculi sexti, breviter
plerumque, interdum uberius et adjectis variis
eorum carminibus. Clauditur codex fol. 89. r.

Titulum libri خريدة انقصر, quem supra dedi-
mus e praefatione codicis nostri, codices quo-
que Lugduncenses 1609. et 1690. exhibent et
Herbelotius s. v. Kheridat alcassar**); paululum

*) In hoc codice Nūatio Dhammae (تنوين الضم)
semper indicatur copulatione signorum vocalium
Dhamma et Fat'ha.

**) Ex quo loco corrigenda sunt quae tradidit idem
s. v. Emad al-Kateb et s. v. Gerid.

vero ab eo recedit Hāg'i Chalfa, vol. III. pag. 133. sq. De auctore conf. Abulfedae Ann. Musl. vol. IV. pag. 190. sq. cum annotationibus Reiskii, et clar. Reinaud, Extraits des hist. Arabes, relatifs aux guerres des croisades, pag. XVII. sq.

CLXX.

(N. 91. in 4to; olim N. 37. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 154. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus. Continetur hoc volumine *Mu'hammedis el-Emin el-Mu'hibbi appendix ad librum suum*: كتاب كندى بدر في مسودات المرحوم من عجنت طبينته بما العلوم خاتمة البلغا -- السيد محمد الامين الحبي -- قد نظم تلك الدرر وترجم فيها شذمة من الادب محل الغرر طرز بينا ذيل كتابه نفحة الرجانه ورشحة طلاب (خلاء: leg.) للانه ورام للافنا فيها ثمنها الدر عن مرامه وخانه -- فالتقطت تلك الدرر والعقيان -- ورتبتنها هذا الترتيب النصير معتمدا cet. Sequuntur deinde pagina eadem praefatio (خطبة) auctoris; fol. 4. r. sectio prima: الفصل الاول فيمى; fol. 102. r. sectio secunda; fol. 113. r. sectio tertia: في زينا حلب الشهباء من جلو ابرقة اشعارم. Explicit liber fol. 145. v.; sed subjungitur usque ad fol. 153. r. notitia de auctore, quem mortuum esse constat Damasci a. h. 1111.** (Chr. 1699.),

*) Conf. Flügel, Wiener Jahrb. vol. XCVII. Anzeigebl. pag. 20. Sed pro تحفة الرجانه ibi legendum est: نفحة الرجانه.

**) In codice quidem nostro librarius expressit a. 1011, sed id errore factum esse, certissimum est; vid. Flügel, 1. l.

eum carminibus poetarum nonnullorum in obitum ejus. Subscriptio finalis, fol. 153. r. et v., haec est: وهذا ما افاض الله به على عبده، ومخد من انعامه ورفده، وهو جامعه الفقير الى رحمة مولاه، انغى به عمدة سواه، محمد بن محمود السلواتى النقى العثمانى -- وقد يسر الله جمع ما وجد في مسودات المرحوم المولى cet. ونشره في اواخر شوال سنة احدى عشر وماية وalf. Annotatur praeterea, exaratum esse apographum nostrum mense Rebi' secundo a. 1144. (Chr. 1731.), manu، الازهرى (?). عبد الله الطنبولى.

CLXXI

(N. 31. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, continens *Excerpta ex Ibi Abi Uszeibi'ae historia medicorum illustrium*. Post praemissa folia duo, notitiis variis et tabulis genealogicis repleta, legitur titulus, Reiskii manu scriptus: عيون Excerpta ex Abi Oseibah vitis celebrium Medicorum. Jo. Jac. Reiske scripsit Leidae mense Martio et Aprili 1746." Inter varias annotationes, titulo adjectas, haec quoque reperiuntur: "Librum hunc Latine verti, sed tumultuarie. Eam versionem secum habet Joh. Stephanus Bernard, medicus Amstelodamensis." Incipiunt excerpta a capite VII., desinunt in cap. XV., et occupant paginas 1—325., ubi legitur: "Absolvi d. 9. April. 1746. ipsis vigiliis Paschatis." Annotat Reiskius, annum quo exaratus sit codex, quem descripsit, Lugdunensis, non constare; esse "annum 977. aut 777., vel 797. vel 997." Subjungitur denique pag. 326. sq. "Excerptum ex praefatione", quod XV. libri capitum conspectum complectitur.

De hoc libro ejusque auctore vid. Reiskii miscellanea medica ex Arabum monumentis in Reiskii et Fabri opusculis medicis, ed. C. G. Gruner. pag. 41—63.; Nicoll in Catal. Bibl. Bodl. pag. 126. 131.; Wüstenfeld, Gesch. der arab. Aerzte und Naturf., pag. 132—144.; Cureton, Catal. Codd. Orient. Musei Brit., Part. II. pag. 179.; ex quibus locis corrigenda sunt et supplenda, quae tradit Hāg'i Chalfa vol. IV. pag. 288. sq.

Conf. praeterea Reiskens Lebensbeschr. pag. 163. n. 26.*)

CLXXII.

(N. 42. in fol.; olim N. 13. in fol.)

Catalogus librorum, ex 'Häg'i Chalfa excerptus; codex in fol., foll. 372. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi festinanter quidem, sed satis distincte scriptus, optime conservatus. Solos librorum titulos et auctorum nomina persequitur hic liber, adjecta plerumque

annorum notatione, quibus mortui sint scriptores. Simillimus est ejus libri, quem descripsit b. Silvestre de Sacy in Notices et Extr. des MSS. de la bibl. impériale, Tom. VIII. pag. 200—219., et capsulae, qua inclusus est codex, ut codici Parisiensi, inscriptum est: دفتر الكتب في جامع الأزهر، Incipit catalogus post Besmelam fol. 2. v., explicit fol. 372. v., ubi legitur subscriptio finalis: وبه تم كتاب كشف الضموم عن أسماء الكتب والفنون والحمد لله على هذا ملخصاً منه (sic) المذكور بعد حذف الكثير cet. Absolutus est codex mense Mu'harrem a. 1176. (Chr. 1762.) manu محمد عيسى العسماوي (? المائلي الأزهرى،

De codice nostro, a Niebuhrio ex Oriente advecto, conf. clar. Flügel in praefatione ad 'Häg'i Chalfae vol. I. pag. III.

*) Reiskii interpretatio Latina, laudata ibid., n. 27., in Biblioth. Regia non reperitur; errore enim nituntur, quae de ea tradidit Wüstenfeldius in praef. libri: Gesch. der arab. Aerzte, pag. IV.

CODEX DE POLITICA.

CLXXIII.

(N. 43. in fol.; olim N. 5. in fol.)

Codex in fol., foll. 183. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi non pulchre, sed distincte scriptus, continens librum: كتاب سراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والامراء، *Lucerna regum et Chalifarum et via regia praefectorum et Emirorum*, agentem de administratione rei publicae, auctore *Abü Bekr Mu'hammed bin el-Welid el-Quraschi el-Fihri et-Tartüschî*, vulgo *Ibn Abi Rendaqa* dicto, mortuo a. h. 520. (Chr. 1126.) Fol. 1. r. legitur titulus: كتاب سراج الملوك تأليف الشيخ -- انى بكر محمد بن الوليد الفيرى النرضوشى رحمه الله -- وهو المسمى بسراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والامراء فى تدبير الملك والدول مقنضب من كتاب الله العزيز واخبار الانبياء عليهم السلام وسياسات ملوك العرب والعجم والفرس والهند والسند عند ومستحسن اخبارهم واخلاقتهم ونوادى حكاياتهم وتواقيع رسائهم رحم الله مؤلفه وكتابه وقريبه وجميع المسلمين امين .

Praefationis initium, fol. I. v., idem est, quod dedit 'Häg'i Chalfa, vol. III. pag. 589.**) Dividitur totus liber in capita LXIV., quorum indicem dedit Hammerus, Wiener Jahrb. vol. LXXXI. Anzeigebl. p. 33. sq. Subscriptio, fol. 183. r., docet absolutum esse librum ab auctore Fustâti, mense Reg'eb a. 516. (Chr. 1122.), apographum vero nostrum scriptum a. 840. (Chr. 1436.) a Muhammede bin Muhammed bin Ibrâhîm el-Maghribî ed-Dalhân. Adjiciuntur fol. 183. v. carmen poëtae anonymi et alia nonnulla, quae ad ipsum librum non pertinent.

Vitam auctoris narrat Ibn Challikân, edit. de Slane, vol. I. pag. 671. sq. Errat Herbelotius s. v. Serag' al-Molouk, confundens nostrum cum Averroë, qui vocari solet, clarissimo medico Cordubensi. Conf. Catal. Bibl. Lugd. n. 996.; Uri in Catal. Bibl. Bodl. n. 293. 305. 308.

*) Reponendum est in edit. Flügeliana et-Tartüschî pfo et-Tarsûsi.

CODEX DE LOGICA.

CLXXIV.

(N. 92. in 4to.)

Commentarius, qui vocatur *المطلع*, in *Aḡīr ed-dīni Mufadhdhal bin 'Omar el-Abheri**) *librum Īsāghūg'i*, auctore *Abū Jā'hja Zakarijjā el-Anszūri esch-Schāfi'i*; codex in 4to, foll. 16. chartae orientalis laevigatae, char. Africano elegantissime scriptus. Fol. 1. r. char. Nesta'liq inscriptum est: شرح القاضى زكريا . على متن ايساغوجى فى المنطق . Cui libro quondam junctos fuisse alios libros nonnullos, docent, quae infra annotantur pagina eadem: اشتمل

*) Vid. Lubb el-lubāb, ed. Veth, s. v.; Jacut's Mosch-tarik, ed. Wüstenfeld, pag. 11.; sed conf. Fleischer in Catal. Bibl. Sen. Lips., pag. 349. not.

هذا المجموع على شرح شيخ الاسلام القاضى زكريا على ايساغوجى وشرح السلم للنظام*) والذبيصى على ، (التنذيب**) والقطب على الشمسية***) ، quae scripta versantur omnia in exponenda logica, sed in bibliotheca Regia non reperiuntur. In limine libri, fol. 1. v., commentatoris nomen legitur, quod dedimus supra. Clauditur codex fol. 16. v., exaratus a. h. 1176. (Chr. 176 $\frac{2}{3}$.) — De *Aḡīr ed-dīni el-Abheri* (vel *el-Abahri*) *Isagoge* vid. *Ḥāg'i Chalfa*, vol. I. pag. 502.; de commentario nostro ibidem agitur pag. 504. extr.

*) Vid. *Ḥāg'i Chalfa*, vol. III. pag. 610. n. 7225.

***) Vid. *Ḥāg'i Chalfa*, vol. II. pag. 479. n. 3786.

***) Vid. *Ḥāg'i Chalfa*, vol. IV. pag. 76. n. 7667.

CODICES GRAMMATICI.

CLXXV.

(N. 93. in 4to; olim N. 77^b. in 8vo.)

Codiculus in 4to, foll. 7. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, continens librum notissimum, qui vulgo vocatur: مائة عامل i. e. *Centum regentes*, auctore *Abū Bekr 'Abd el-Qāhīr bin 'Abd er-Rā'hmān el-G'urjāni*, mortuo a. h. vel 471. vel 474. (Chr. 107 $\frac{8}{9}$. vel 108 $\frac{1}{2}$.); dissentiunt enim viri docti de hac re, et ipse *Ḥāg'i Chalfa* non sibi constare videtur; vid. vol. I. pag. 280. n. 644. pag. 512. lin. 2. vol. IV. pag. 278. n. 8419. Conf. praeterea *Silvestre de Sacy*, *Anthol. grammaticale*, pag. 233.; *Krafft*, *Handschriften der orient. Akad.*, n. L. — Fol. 1. r. inscripta sunt disticha nonnulla et alia, quae ad ipsum librum non pertinent, qui incipit fol. 1. v. et absolvitur fol. 6. r. Subjungitur fol. 6. v.—7. v. observatio utilis (فايد) de الاستغنا et الانتقار, in-

clusis in formula: لا اله الا الله . In fine notatur: من تعبير الشيخ عبد الله الشبراوى ، وانتبى .

CLXXVI.

(N. 44. in fol; olim N. 34. in fol.)

Commentarius, qui vocatur *الايضاح*, *Expositio*, in *Zamachscharii librum* notissimum *المفصل* i. e. uberius exponentem, aut ut malebat *III. Silvestre de Sacy*: *المفصل* i. e. librum uberiozem; codex in fol. oblongo angusto, foll. 206. chartae orientalis laevigatae, variis manibus partim char. Nesta'liq, partim char. Neschi, festinanter et maximam partem pessime exaratus, annotationibus multis in margine auctus. Duo sunt ejusdem nominis *الايضاح* commentarii in *Zamachscharium*, quorum meminit *Ḥāg'i Chalfa*, vol. I. pag. 516. n. 1573., alter *Ibn el-Ḥāg'ibi*, alter *Abū l-baqāi el-'Ukberī*; uter vero sit

scriptor noster, definire non audemus, cum nominis indicatio nusquam appareat. Praefationis initium, fol. 1. v. pessime scriptum, videtur esse hoc: *زف لسرّ الله اجنبر على طريقه اياك نعبد ، تقدّينا للامم ،* Quattuor sunt libri partes: de nomine usque ad fol. 106. v.; de verbo, usque ad fol. 132. v.; de particulis, usque ad fol. 160. v; quarta denique, المشتَرَك a Zamach-schario appellata, de variis rebus, ut sunt الانتقاء السانين, تخفيف الهمزة, والوقف, والامانة, et alia. Subsistit codex fol. 206. v. in capite de الادغام, quod ad finem non est perductum. Infra notatur: "Desunt nonnulla."

CLXXVII.

(N. 94. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 3. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 158. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Praemittitur folium unum, numero non signatum, cui inscripta sunt in pagina anteriore distichon Turcicum, annotationes grammaticae Arabice et infra nomen Joannis Sev. Schelderup, et Arabicis litteris expressum et Latinis, cum designatione anni 1696.; in pagina aversa leguntur notae nonnullae, Turcice scriptae, et excerpta e libro *قانون نامه*. Continetur hoc volumine:

I. *Commentarius*, qui vocatur *الافتتاح*, *Aperitio*, in *librum* notissimum *المصباح* i. e. *Lucernam*, de syntaxi linguae Arabicae conscriptum ab Imâmo *Burhân ed-dîn Abû -lfa' h Nâzîr el-Mutarrizî*, mortuo a. h. 610. (Chr. 1213.) *Commentarium* composuit *Hasan Pâschâ*, fil. 'Alâ ed-dîni el-Eswed. Fol. 1. r. legitur titulus: *كتاب شرح المصباح المسمى بالافتتاح آفہ المولى حسن پاشا* كتاب شرح المصباح المسمى بالافتتاح آفہ المولى حسن پاشا ، *ابن المولى علاء الدين الاسود* ، subjunguntur infra annotationes nonnullae, grammatici argumenti. Incipit praefatio, fol. 1. v., ab iisdem verbis, quae indicavit Krafflius, *Handschriften der orient. Akad.*, n. XLIX. Subscriptio finalis, fol. 85. v., docet *librum* esse exaratum *في شهر سمرای*, mense

Reg'eb a. 1077. (Chr. 1667.), manu *بن علي سليمان عن قصة شند (?)* ،

II. Altera pars codicis, fol. 86—158., primum observationes varias exhibet, partim Turcice scriptas, partim Arabice; in his analysin grammaticam formularum: *رضى الله* et *اعوذ بالله من الشيطان الرجيم* ، *تعالى عنكم* ، *بسم الله الخ* ، fol. 87. r.—88. r. Deinde vero sequuntur fol. 88. v.—158. r.: *Ja'qûbi bin Seid 'Ali annotationes ad commentarium super praefationem ejusdem libri المصباح*; de quibus conf. Krafflius, l. l. n. XLVIII.; Fleischer in *Catal. Bibl. Senat. Lips.* pag. 343. n. XXVII, 1. et pag. 344. n. XXVIII. Initium libri hoc est: *الحمد لله الذي اعرب الكائنات من خرج كاف نون ، -- وبعد فيقول نعبد -- يعقوب بن سيد على -- هذه فوايد قيدينبا على شرح ديبابجة المصباح حين ما فرأ على -- بعض اخى --*. Scripta est haec codicis pars eadem manu, qua prior, et eodem loco.

CLXXVIII.

(N. 32. in 8vo; olim N. 53. in 8vo.)

Codex in 12o, foll. 69. chartae orientalis laevigatae, char. Nests'liq bene scriptus. Continet is:

I. *Ibn el-'Hûg'ibi* notissimum *librum de syntaxi Arabica*, qui vocatur: *الكافية*, *Sufficiens*; de quo conf. Krafft, *Handschriften der orient. Akad.*, n. XXXVIII. Incipit liber fol. 1. v., explicit fol. 35. r., notis marginalibus ubique stipatus. — Sequitur:

II. Liber *المصباح*, *de syntaxi*, auctore *el-Mutarrizî*; de quo vid. Krafflius, l. l. n. XLVI. In limine libri, fol. 36. v., legitur: *مصحباح في النحو*. Explicit fol. 61. r.; annotationibus item in margine auctus est, et eadem manu scriptus, qua praecedens tractatus. — Subjungitur denique:

III. *Liber centum regentium*, auctore *el-G'urg'ânî*, de quo egimus ad cod. CLXXV., fol. 61. v.—69. v. Eadem manu scriptus, qua priora, et notis marginalibus instructus.

CLXXIX.

(N. 95. in 4to; olim N. 71. in 4to.)

Codex in 4to minore, foll. 120. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi ita scriptus, ut quaternas tantum lineas teneant singulae paginae, spatio, quod superest, notis inter lineas adscribendis et adscriptis relicto. Continet *el-Kâfijae Ibn el-'Hâg'ibi exemplum alterum*. Perit totum paene primum codicis folium, cui in parte aversa pauca verba introductionis causa fuerunt inscripta; quod nunc est fol. 1., incipit ab ipso auctoris nomine: *قال الشيخ الخ*. Explicit liber fol. 120. v., sed desunt in fine lineae nonnullae.

CLXXX.

(N. 96. in 4to.)

Fragmenta duo commentarii in Ibn el-'Hâg'ibi Kâfijam, in 4to, foll. 37. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scripta. 1. Fol. 1—22. 22b. 23—26. eam partem Kâfijae illustrant, quae legitur in editione clar. Baillie, (An entire and correct edition of the five books upon Arabic grammar, Part. III. Calc. 1803. 4to.) a pag. 11. lin. 3. usque ad finem pag. 25. — 2. Foll. 27—36. pertinent ad ejusdem editionis pag. 32. lin. 4.—38. lin. 6. Nomen auctoris hujus commentarii ignoramus.

CLXXXI.

(N. 97. in 4to.)

Ejusdem commentarii in Kâfijam fragmenta tria, in 4to, foll. 121. chartae orientalis laevigatae, char. Nesta'liq satis bene scripta. Multae adscriptae sunt notae marginales. 1. Foll. 1—3. pertinent ad editionis Calcuttensis pag. 21. lin. 2.—22. lin. 1. 2. Foll. 4—114. ad ejusdem editionis pag. 22. lin. antepaen. — 77. lin. 2. — 3. Foll. 115—121. ad pag. 78. lin. 1. — 82. lin. 2.

CLXXXII.

(N. 98. in 4to.)

Fragmentum alius commentarii in librum eundem, in 4to, foll. 16. chartae orientalis laevigatae, char. Nesta'liq mediocriter exaratum. Passim adjectae sunt notae. Quod adest, pertinet ad edit. Calc. pag. 76. lin. 2.—84. lin. 4.

CLXXXIII.

(N. 33. in 8vo.)

Codex in 8vo, foll. 125. chartae laevigatae, Turcica manu scriptus. Exhibet is post praemissa, fol. 1. r.—2. r., excerpta varia et Turcica et Arabica, e libris juridicis maxime et traditione prophetica:

I. *Partem libri الفوائد العلية في تأييد الفوائد الصيائية*, auctore *Muhammed bin Mu'harrem**) *et-Tekûni* (محمد بن محرم التنكوي). Continet hic liber *annotationes ad glossas marginales*, quae vocantur: *للحاشية الجليلية على الفوائد الصيائية*, conscriptas ab *'Iszûm ed-din 'Alî*, cujus nomini h. l. subjiciuntur epitheta honorifica: *الناقد والفرد العلي* (الفردى), et destinatas *ad illustrandum G'âmii*, clarissimi poëtae Persici, *commentarium in Ibn el-'Hâg'ibi Kâfijam*, cui titulus: *الفوائد الصيائية****. Praefationis initium, fol. 2. v.: *حمدًا لمن جعلنا غير*

*) Si modo ita pronuntiandum hoc nomen; cognomen quoque *et-Tekûni* nobis ex hoc solo codice notum. — Illum librum, a. Chr. 1811. Constantinopoli impressum, quem laudant *el. de Hammer, Gesch. des osman. Reichs, vol. VII. pag. 590. n. 53. et ill. de Rosenzweig in libro Biogr. Nachrichten über Mewlana Abdurrahman Dschami: كتاب المحرم في حاشية الجامعي*, a nostro scriptore omnino alienum esse suspicamur.

**) De voce *الفردى* conf. *Sujûti Lubb el-lubâb, edit. Veth., s. v.*

***) De commentario *G'âmii* vid. *Krafft, Handschriften der orient. Akad. n. XXXIX., v. Rosenzweig, l. l., in Catal. scriptorum G'âmii, n. 27.*

منصرفين عن نحو الحق، Abrumpitur oratio fol. 35. r. — Fol. 35. v.—41. r. diversissima occupant excerpta. maximam partem Arabica, juridica, chronologica. magica, poëtica cet., quorum partem fol. 39. r. sua manu scripsisse dicitur clar. Mufti Abû -ssu'ûd; sed id intelligendum de codice, e quo haec ipsa deprompta sunt. Sequuntur deinde:

II. Fol. 41. v.—53. r. scriptoris anonymi *glossae in librum de logica* agentem, cujus nomen et auctorem ignoramus. Ab initio aliquid deesse videtur, et lacunae exstant duae, fol. 51. r. et v. Adjecta sunt in margine excerpta ex aliis commentariis. Finis indicatur formula: تمت الكتاب الخ. — Post interpositas fol. 53. v. 54. r. annotationes nonnullas argumenti juridici subjungitur:

III. Fol. 54. v.—88. r. *Commentarius Mu'hji ed-dini in Husâm ed-dini commentarium ad Adir ed-dini el-Abherî Isagogen* seu compendium Logices. Idem liber exstat in Bibl. Reg. Dresd. n. 32. et 203, 1.; exaravit eum 'Abd el-'Azîz, regnante in Chersoneso Taurica Qaplân Girâi Chân, qui ter imperium tenuit a. Chr. 1707., 1713—1716. et 1730—1736; et codex quidem noster ante annum 1730. exaratus est, cum inter notas marginales fol. 124. et 125. sint, quae a. h. 1138. et 1139. (Chr. 1725—1727.) scripta sunt. — Fol. 88. v. — 93. v. denuo sequuntur excerpta Arabica et Turcica, quae excipit:

IV. Fol. 94. r.—123. r. *Qutb ed-dini Commentarius in Logicam Neg'm ed-dini 'Ali bin 'Omar el-Qazwînî*, quae vocatur *esch-Schemsijje*. De utroque libro vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 76., ubi tamen pro 'Ali bin 'Omar legitur 'Omar bin 'Ali; Fleischer in Catal. Bibl. Senat. Lips. n. XXXIII, 1—3. XXXIV, 1. XXXV. Commentarium Qutb ed-dini in Bibl. quoque Reg. Dresd. asservari sub n. 243, 2., edocemur a clar. Fleischero. In annotationibus, margini codicis nostri adscriptis, laudantur et G'urg'ânii commentarius in Schemsijjam, cujus meminit

'Hâg'i Chalfa, et 'Imâd ed-dini commentarius in G'urg'ânium, de quo Fleischerus egit, l. I., ad n. XXXV, 2. — Claudunt codicem fol. 123. v.—125. v. annotationes et excerpta ejusdem generis, quod supra indicavimus.

CLXXXIV.

(N. 99. n 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 4. in 8vo.)

Ibn el-'Hâg'ibi Tractatus de flexione grammatica et orthographia, qui vocatur الشافية, Sanans; codex in 4to, foll. 122. chartae orientalis laevigatae, char. Nests'liq mediocriter scriptus. Neque libri neque auctoris nomen in hoc codice apparet; initium vero, fol. 1. v., post 'Hamdalam hoc est: وبعد فقد سأئى من لا يسعنى مضايقتنه ولا يوافقنى مخالفتنه ان الحق بمقدمتى فى الاعراب مقدمة فى التصريف على نحوها ومقدمة فى الخط فاجبتنه - - ، التصريف علم باصول يعرف بنا احوال ابنية ، الكلم انى ليست باعراب ، excerpta Fleischeri e cod. Lips. VI. Clauditur liber fol. 122. v.; sed post fol. 120. lacuna exstat, quae unius videtur esse folii. — Pertinebat codex ad spolia in expugnatione Budae reportata, ut videre licet ex inscriptione ligaturae in fine libri: "Aus der Bibliothek von Dffen."

Ceterum de hoc libro vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 3. sqq.; Fleischer in Catal. Bibl. Dresd. n. 222.; Krafft, Handschriften der orient. Akad., n. XXXVII.

CLXXXV.

(N. 100. in 4to.)

Ibn Mâliki grammatica Arabica, quae vocatur *el-Alfijje*; codex in 4to, foll. 43. chartae orientalis laevigatae, char. Africano optime scriptus. In limine libri, fol. 1. v., legitur auctoris nomen: قال الشيخ الامام اعانه الخوى جمال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطاعى النسب الاندلسى الاقليم الجيانى المنشأ (sic) الدمشقى . الدار رجه الله ورضى عنه ونفع ببركاته امين ، Sub-

scriptio finalis, fol. 43. r.: كملت الغيبة ابن مالك ،
 ، بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه ويمنه (sic) ،
 De auctore ejusque libro conf. praeter editionem clar.
 Silvestre de Sacy, 'Häg'i Chalfa, vol. I. pag.
 407.; Kraftt, Handschriften der orient. Akad.,
 n. XXXII.

CLXXXVI.

(N. 101. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 543. chartae orientalis
 laevigatae, char. Neschi distincte quidem, sed
 minus accurate scriptus, continens *Commenta-*
rium in Ibn Mäliki Alfijjam, qui vocatur: كتاب
 ، منبج المسالك الى الغيبة ابن مالك ،
 torem duccens ad millenarium Ibn Mäliki, con-
 scriptum a *Taqijj ed-dino A'hmed bin Mu'ham-*
*med esch-Schummi**) , mortuo a. h. 872. (Chr.
 1467.) Vid. 'Häg'i Chalfa, vol. I. pag. 409.
 extr., ubi impressum est: منبج المسالك ، quod
 non probamus; conf. editionem Alfijjae Pari-
 siensem, pag. 2. Titulus fol. 1. r. codici prae-
 figur: هذا كتاب منبج المسالك الى الغيبة ابن مالك
 ، تاليف العلامة الشيخ الاشموني رحمه الله تعالى الخ ،
 Subest error in cognomine الاشموني; confudisse videtur
 librarius scriptorem nostrum cum illo, ejus
 mentionem faciunt 'Häg'i Chalfa, l. I. pag. 411.
 lin. 2. et Silvestre de Sacy, l. I. pag. 3. Prae-
 fationem**) habes et ipsius commentarii ini-
 tium fol. 1. v.; finem libri fol. 543. v. Scriptus
 est codex mense Ramadhän a. 1138. (Chr.
 1726.), manu Mu'hammedis b. Mu'hammed es-
 Südäni el-Mäliki, qui librum concessit A'hmedi
 fil. el-'Häg'g' 'Ali Schu'eib.

*) Vid. Meursinge in prolegg. ad Sojutii librum de
 interpret. Korani, pag. 16. not. 30., conf. Lubb el-
 lubäb, edit. Velh., pag. 156. Silvestre de Sacy in
 commentario ad edit. suam perperam expressit: es-
 Semeni.

**) Scriptum erat in praefatione منبج المسالك ، sed
 restituit secunda manus المسالك . — In limine libri
 mortuus esse dicitur Iba Mälik a. h. 672., annos
 natus 75.

CLXXXVII.

(N. 45. in fol.; olim N. 16. in fol.)

Codex in fol., foll. 116. chartae orientalis
 laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus.
 Continet is librum, qui vocatur: كتاب فرائد
 ، انقلايد في مختصر شرح الشواهد ، i. e. *Uniones mo-*
nilium, liber exhibens *compendium commentarii*
in dicta probantia, auctore *Bedr ed-dino Abä*
Mu'hammed Mu'hmüd bin A'hmed el-'Aini, mor-
 tuo a. h. 855. (Chr. 1451.) Sunt vero dicta
 probantia, quae in hoc compendio explicantur,
 ea quae in praestantissimis super Alfijjam com-
 mentariis ad illustranda praecepta Ibn Mäliki
 allegantur; totus autem liber e majore ejusdem
 scriptoris opere excerptus est, cui nomen:
 ، المقاصد الخوية في شرح شواهد شرح الغيبة ،
 De utroque commentario vid. 'Häg'i Chalfa, vol.
 IV. pag. 82. s. v. ، الشواهد الكبرى والصغرى ،
 vol. I. pag. 412. sq. Praemittitur codici folium unum,
 numero non signatum, cui inscriptum est: "Mah-
 mudi El-aini Sententiae." Fol. 1. r. legitur titu-
 lus, quem dedimus, Arabice scriptus, subjuncto
 auctoris nomine. Praefatio, cujus initium no-
 tavit 'Häg'i Chalfa, incipit fol. 1. v.; subscriptio
 finalis docet, absolutum esse codicem sub finem
 mensis Rebi' posterioris a. 1069. (Chr. 1659.)

Idem Bedr ed-dinus el-'Aini in explicandis
 aliis quoque scriptis, ad litteraturam Alfijjae
 pertinentibus, operam posuit, ut docemur ab
 'Häg'i Chalfa, vol. I. pag. 408. et 414. Alios
 ejusdem auctoris libros recenset Herbelotius,
 s. vv. Akd-argiumän, Tarikh al-Akasserah,
 Tarikh albadr, Tarikh Aini et Tohfat almoulouk.

CLXXXVIII.

(N. 102. in 4to; olim N. 24. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 23. chartae orientalis
 laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, con-
 tinens *Ibrähimi bin A'hmed el-Halebi poëma*,
cui inserta est pars Alfijjae Ibn Mäliki. Fol.

1. r. inscriptum est: تصمين انفة ابن مالك الخويه
في الغزل للعلامة ابراهيم بن احمد الحلبي رحمه الله تعالى امين ،
sed non ejus formae hoc poema est, quae vulgo
dicitur Ghazel, verum per disticha dispositum
(مثنوى). Metrum idem est, quod Alfijae. Ini-
tium fol. 1. v.:

يقول ابراهيم [ابن احمد] ، الحمد لله دوانا سرمدنا ،
Secutum se profitetur auctor exemplum claris-
simi Ibi Nubbata, qui simili modo carmini in-
sernerat bonam partem libri grammatici ملكة
الاعراب, ab Haririo compositi:

اني رايت انفاضل الفريدا ، انخبة المقتن اوحيدا ،
ابن نباتة اديب العصر ، اشاعر انفراد انبليغ المصير ،
قد مدح الشيخ الامام السبكي ، برجز حلونضيف السبك ،
ضممه من ملكة الحريسي ، في النحو نحو التبرع في التقدير ،
مفتتحا بغزل رغيثق ، انفاضة كاندرا والعقيقق ،
Minio notantur in codice nostro quae ex Al-
fijja deprompsit auctor. Finis indicatur fol.
23. v.

CLXXXIX.

(N. 103. in 4to.)

Abū 'Abd allāhi Muḥammed bin Muḥam-
med b. Dāūd ez-Szīv'hāg'ī, mortui a. h. 723.
(Chr. 1323.), *Compendium grammatices Ara-
biae*, quod vulgo vocatur *Agrumia* vel *G'a-
rumia*; in 4to. foll. 18. chartae laevigatae re-
centioris, char. Africano bene scriptum. Fol.

2. r. hoc modo inscriptus est titulus: انْفَقَمَ
الْجَرْمِيَّة. Auctoris nomen legitur in limine
libri, fol. 2. v.: قل الشيخ الامام ابو عبد الله محمد بن
داود انصنباجي (sic) الشيخين بابن اجروم (sic) رحمه
الله. Pro انصنباجي pronuntiandum videtur
انصنباجي: vid. Sujūtii librum *Lubb el-lubāb*,
edit. Veth., s. v. Scriptio cognominis ابن اجروم
ei formae similis est, quam e cod. Goth. n.
432. deprompsit doct. Wüstenfeld*): ابن آجروم.

*) In censura libri: Orientalia; edentibus Juynboll,
Roorda et Weijers. Vol. I., Gött. gel. Anzeigen,
1842. St. 151. 152. pag. 1518. Corrigendus est

— Clauditur caput ultimum, باب محفوظات
leg.: مخفوظات), fol. 18. r. Adscriptae
sunt ubique vocales.

CXC.

(N. 104. in 4to; olim N. 43. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 101., Europaeorum more
a sinistra incipiens. cui praemittitur titulus:
"Commentarius in Agrumiam, Parisiis olim ex-
scriptus, nunc latine redditus à Christiano
Schnabel. Roëschildiae, ipsis Cal. Maji MDCCLII."
Est commentarius ille, a Schnabelio, scholae
cathedralis Roeskildiensis rectore, a. 1755. et
1756. Amstelaedami editus, quem scripsit *Chū-
lid bin 'Abd allāh bin Abi Behr el-Azheri*.
Codex, quem secutus est editor, in Catal. Bibl.
Reg. Paris. videtur designatus esse n. 1284.,
quamquam is 'Abbāso el-Azheri adscribitur,
qui nostro scriptori auctor fuit componendi hujus
commentarii; vid. edit. Schnabelii, part. I. pag.
2. — Conf. praeterea Frähnium, Leipz. Lit. Zeit.
1830. n. 92. pag. 732. Incipit textus Arabi-
cus fol. 1. v., interpretatio Latina, e regione
posita, fol. 2. r. Clauditur codex fol. 100. v.

CXCI.

(N. 34. in 8vo; olim N. 59. in 8vo.)

Codex in 8vo, fol. 99. chartae orientalis
laevigatae, char. Nasta'liq bene scriptus, usu
aliquantum tritus multisque annotationibus in
margine et inter lineas auctus. Continet is
quattuor *opuseula de grammaticae Arabicae
parte etymologica*, in Turcarum scholis maxime
usitata, quae conjugationis Arabicae exemplis
(امتداد) aucta sub titulo: كتاب انصرف
جملة vel كتاب انصرف et Constantinopoli et Būlāqi prope Qā-
hīram saepius impressa sunt; vid. Krafft, Hand-

ex his Casirius in Catal. Bibl. Escur. vol. I. pag.
23. n. ZCIII. — Clarissimum quoque Frähnium
pronuntiare videmus: Adschurramia: Leipz. Lit. Zeit.
1830. n. 92. pag. 732.

schriften der orient. Akad., n. LIII.; conf. etiam de Hammer in libro: Fundgruben des Orients, vol. II. pag. 287., et Fleischerus in Catal. Bibl. Senat. Lips. pag. 335. sq. ad cod. IX., qui eadem continet opuscula. Singula haec sunt:

I. Fol. 1. v.—47. v.: كتاب مَرَّاحِ الأرواحِ، i. e. *Pulvinar animorum*, de flexione (الصرف) institutiones, auctore *Ahmed bin 'Ali bin Mes'ad*, de cuius aetate nihil constat. De tota libri ratione vid. Fleischerus in Catal. Lips. pag. 335. ad cod. VII.

II. Fol. 48. v.—66. r.: *Compendium doctrinae de flexione*, quod vulgo vocatur العزى *el-'Izzī*, auctore *'Izz ed-dīno Abū -Iḥādīl Ibrāhīm bin 'Abd el-Wahhūb ez-Zeng'ānī*, mortuo a. h. 655. (Chr. 1257.) Conf. Hāg'i Chalfa, vol. IV. pag. 208. Initium libri Fleischerus deprompsit e cod. Lips. IX, 2.

III. Fol. 66. v.—84. r.: *Ejusdem argumenti compendium*, quod vocatur المقصود i. e. Expositum, de cuius auctore vide quae disputavit Kraftius, l. 1., pag. 18. Conf. Fleischer ad cod. Lips. IX, 3.

IV. Fol. 85. v.—94. v.: كتاب بناء الامثلة، *de flexione verborum*, auctore ignoto; vid. Fleischer ad cod. Lips. IX, 4.

Annotationes variae praeterea inscriptae sunt foll. 84. v. 85. r. 95. r.—96. r. 97. r.—99. r.

CXCII.

(N. 105. in 4to; olim N. 29. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 135. non ejusdem chartae, maximam partem char. Nesta'liq mediocriter, neque eadem manu scriptus, multis annotationibus marginalibus auctus. Continet is:

I. Fol. 1—83.: Scriptoris ignoti *Commentarium in librum grammaticum* مَرَّاحِ الأرواحِ، de quo diximus ad cod. praecedentem. Fol. 1. r. inter alia inscriptum est: هذا كتاب شرح مَرَّاحِ، Fol. 1. v. incipit praefatio, cuius magna pars

tam male habita est, ut jam legi vix possit. Annotamus tamen, auctorem libri مَرَّاحِ h. l. vocari: أبو الفصائل أحمد بن علي بن مسعود، cui nomen superscriptum est: المنسوب الى حو(?)،. Ipse commentarius incipit fol. 2. v. Determinatur fol. 3. r. vera vocis مَرَّاحِ pronuntiatio: بفتح الميم. Ultima libri verba, fol. 83. r.: قوله وتقول في تثنية المونث التي في صدر الكتاب غني عن الشرح،. Subjungitur subscriptio finalis, quae scriptum esse librum narrat a. h. 885. (Chr. 1489.) a Sa'd ed-dino, fil. Schihāb ed-dīni A'hmed bin Abi -nuūr Hamza, Hanefita. — Sequitur:

II. Fol. 84—134.: *Commentarius in alium librum de flexione grammatica*, cuius auctorem ignoramus, ab initio mutilus, ut videtur; sunt enim tantum non deleta quae scripta fuerunt fol. 84. r. Lacunae praeterea exstant nonnullae, totusque liber pessime exaratus est. Desinit fol. 134. v. et scriptus esse dicitur mense Rebi' priore a. h. 828. (Chr. 1425.) ab حسين بن انبيك(?); quod tamen de apographo nostro intelligendum non erit.

CXCIII.

(N. 106. in 4to; olim N. 61. in 8vo.)

Alius in librum Merāh commentarius, in 4to, foll. 143. chartae orientalis laevigatae, char. Nesta'liq mediocriter scriptus. Est idem liber, quem descripsit Fleischerus in Catal. Bibl. Senat. Lips. pag. 335. cod. VII., et recenset etiam Kraftius, Handschriften der orient. Akad. n. LV. In codice nostro libri initio fol. 1. v. superscriptum est: شرح مَرَّاحِ لديك فوز،. Et hoc quidem nomen est viri, quem Hāg'i Chalfa quoque commemorat inter eos, qui commentarios scripserunt in librum Merāh; in excerpto tamen Hauniensi, cod. nostro CLXXII., exaratum est: ديك فوز pro دينفور. Conf. Flügel, Wiener Jahrb. vol. XCVII., Anzeigbl. pag. 6.; Catal. Bibl. Paris. ad cod. MCCIV.; Casiri, vol. I.,

ad codd. Escorialenses CLXIV, 2. CLXV, ubi idem Ahmed Aldonghoz claruisse dicitur a. h. 1026. (Chr. 1616.) Clar. Frähnius denique, in diario: Leipz. Lit. Zeit. 1830. n. 92. pag. 730., *Schems ed-d'ni Ahmed Dongus* commentarium in librum Merá'h commemorat, auctoremque floruisse tradit post medium saeculum Christianum XV. — Desinit liber fol. 143. v. et exaratus est a. 1049. (Chr. 16 $\frac{3}{4}$.) manu Hasani bin Jüsuf.

CXCIV.

(N. 107. in 4to; olim N. 52. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 156. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, madore nonnihil laesus. Continet *grammaticam Arabicam*, cui titulus: بحث الطالب وحث الطالب i. e. Disputatio de quaestionibus et excitatio studiosi, auctore *Gabriele Farhát*, Maronita.*) Praefationis initium, fol. 1. v., post formulam: بسم أحمد لله الذي أصلح بكلمته الأنفس، الختلتة، وأعرب بقدرته الفعالة عن الأفعال السالمة والمعتلة، Libri auctor in praefatione hoc modo designatur: جبريل بن فرحات انفس الراحب الحلى الماروني الحقير المنطوي تحت قانون الرحمان اللبنايين المتوشحين باسكيم انقديس انطونيوس الكبير، Dividitur totus liber in introductionem (المقدّمة)، quae agit de litteris et vocalibus linguae Arabicae, in tres libros, de flexione verborum, de flexione nominum, de syntaxi, et coronidem. Incipit introductio fol. 8. r., clauditur liber fol. 156. r. Scriptus est

*) Impressus est, ni fallimur, idem liber in insula Melita, a. 1834. Vid. Catal. Codd. Orr. Musei Brit., P. II. pag. 50. not.

codex mense Hazirân a. Chr. 1720. Annotatur praeterea in fine: بلغ مقابلة على قدر الامكان سنة ١٧٢١.

CXCV.

(N. 108. in 4to; olim N. 86. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 167. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi recentiore manu, ni fallimur, Turcica bene scriptus, continens *Exercitationes grammaticas*, compositas, ut videtur, in usum hominis alicujus Europaei. Quattuor sunt sectiones, quibus neque titulus neque praefatio praemittitur. Sectio prima, agens de particulis Arabicis earumque usu, incipit fol. 1. v. et hanc habet inscriptionem: المقالة الاولى في حروف العربية ووضعيم بالكلام، Dividitur in septem فصول، de particulis loci, temporis, numeri, cet., quae singulae primum enumerantur, praxi deinde illustrantur. Primis paginis adjecta est interpretatio Anglica, e regione textus Arabici posita, sed ultra fol. 6. ea non procedit, et in reliqua codicis parte singulorum foliorum pars anterior nihil continet scripti. — Fol. 30. v. sequitur sectio secunda: المقالة الثانية في ضرب الكلام بالخاصبة لتعليم اللغة العربية، Sunt septem illi dialogi, quos edidit b. Langlesius in calce libri: Grammaire de la langue Arabe vulgaire et littéraire par Savary. Conf. etiam ejus libri praefatio, pag. IX. — Sectio tertia incipit fol. 81. v.: المقالة الثالثة في بعض حكايا سخكويه (sic) لتعليم امتداد القول العربي، Fabulas maxime continet. — Fol. 147. v. denique incipit sectio ultima: المقالة الرابعة في الاحاديث والامثال المستعجلة بين العرب، quam claudunt quinquaginta e proverbiis Salomonis. Absolvitur codex fol. 167. v.

CODICES LEXICALES.

CXCVI.

(N. 46. in fol.; olim N. 1. in fol.)

Clarissimum *G'auharii Lexicon Arabicum*, in fol., foll. 299. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Initium libri, fol.

1. v., alia manu suppletum, hanc habet inscriptionem: هذا كتاب الصّحاح الجوّري (sic) رحمة الله عليه رحمة واسعة، Subscriptio finalis, fol. 299. v., absolutum esse codicem indicat mense Ramadhân a. 702. (Chr. 1303.) — De vita auc-

toris vid. Scheidius in fronte speciminis G'auharii, a. 1776. editi, et Hamakerus in spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 49. sqq. Conf. Håg'i Chalfa, vol. IV. pag. 91. sqq.; Möllerus in Catal. Bibl. Goth. ad n. 481. — Codex a b. von Haven Qahirae comparatus; vid. J. D. Michaelis, lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 40. n. 8.

CXCVII.

(N. 109. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, continens *particulam lexicī G'auharii*. Praefixa sunt codici folia nonnulla, quibus Reiskius inscribere indicem rerum incepit. Deinde sequitur titulus: الجزء الثالث من كتاب تلج اللغة وجميع العربية تصنيف الشيخ ابي نصر اسمعيل بن حمد الجوهري رحمه الله فيه باب الراء باسره. Folium sequens exhibet "Supplementum Gienharii, inserendum p. 2. l. 9." Paginas deinde 1—392. occupat textus G'auharii ab initio litterae Rā usque ad radicem قفر; annotatur in fine: "Hucusque pertingebat Codex Golianus. Magna hinc lacuna ad litteram Je usque, quae integra quidem exstabat, sed maculis et aqua eluta ut legi non potuerit; hinc non descripsi." — Asservatur cum hoc codice "Index rerum et auctorum in tomum tertium Lexici Ghieuhariani," foll. 10. — Conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 157. n. 9.

CXCVIII.

(N. 47. in fol.; olim N. 6. in fol.)

Firūzābādii Lexicon praestantissimum, quod vocatur *el-Qāmūs*, in fol., foll. 592. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptum, optime conservatum. Fol. 1. r. a Mu'hammede quodam el-Miszri, codicis quondam possessore, char. Nesta'liq inscriptum est: هذا كتاب قاموس اللغة في جلد واحد من تمام. Fol. 2. r. versus nonnulli leguntur Arabici et Turcici. Praefatio incipit fol. 2. v.; clauditur liber fol. 592. r. Absoluta est scriptio mense Szafer a. 959.

(Chr. 1552.) ab A'hmede bin Mu'hammed Sibaweihi, Hanbelita, et collatio instituta cum autographo auctoris. Destinatus erat codex Bibliothecae viri illustris: تاتى انقضاء خبير الدين علم المسلمين ابي المكارم خضر الحنفى -- بمدينة الخانقاه (السرياقوسية*) وكامل اقليمى الشرقيه والقبليويه -- . Accedit fol. 592. v. *initium disputationis grammaticae de genere masculino et feminino*, e tractatu clarissimi *el-Mutarriṣi* excerptae, eadem manu exaratum, qua totus codex. Inscriptio haec est: هذه مقدمة في بيان التذكير والتانيث والاسماء الموثقة السماعية والاعداد التى تاتيها على عكس تانيث سائر الكلمات نقلتها عن الرسالة الخوية للامام المطرزي وذيلت بها كتابي تبركا وتيمنا -- .

Ceterum de Firūzābādio ejusque lexico vid. Håg'i Chalfa, vol. IV. pag. 488. sqq.; Hamaker in Spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 177. sqq. — Codicem nostrum Qahirae comparavit b. von Haven; conf. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 42. n. 28.

CXCIX.

(N. 110. in 4to; olim N. 26. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 490. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Continet *Schihāb ed-dīni A'hmed bin Mu'hammed b. 'Alī el-Maqarrī el-Fajjūmī Lexicon*, alphabeticè digestum, quod vocatur: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، *Lucerna radians*, liber *explicans voces insolitas in commentario magno obvias.****) Commentarius magnus, qui vulgo dicitur, auctorem habet Imām ed-dinum Abū-lqāsim 'Abd el-Kerim bin Mu'hammed bin 'Abd el-Kerim b. el-Fadhl er-Rāfi'i el-Qaswīnī esch-Schāfi'i, et versatur in explicando clarissimi

*) De hoc coenobio Sti Cyriaci vid. Macrizi's Gesch. der Copten, von F. Wüstenfeld, pag. 108.

**) Hujus codicis enarratio cum errore nostro praetermissa sit supra, ubi agebatur de codicibus ad jurisprudentiam spectantibus, aptissimus nobis visus est hic locus ad reparandam omissionem.

Ghazâlîi libro: الوجيز, de jurisprudentia secundum principia scholae Schâfîticae; vid. Sôjutii librum de interpretibus Korani, ed. Meursinge, pag. 21. n. 63. cum annotatione editoris. — Fol. 2. r. legitur titulus, quem dedimus, adjecto auctoris nomine*). In limine praefationis, fol. 2. v., idem nomen repetitur. Quam rationem in conscribendo libro secutus sit, his verbis deinde exponit Schibâb ed-dînus: وبعد فاني كنت جمعت كتابا في غريب شرح الوجيز للرافعي وأوسعت فيه من تصارييف الكلمتة واحتفت اليه زيادات من لغة غيره ومن الالفاظ المشتبهات والمتناقضات ومن اعراب الشواهد وبيان معانيها وغير ذلك --- وقسمت كل حرف منه باعتبار اللفظ الى امما متنوعه الى مكسور الاول ومضموم الاول والى افعال اوله ومفتوح الاول والى افعال اوله. — كتاب الالف مع اثبا وما ينلتيمها, — In coronide (خاتمة), quae librum claudit, fol.

*) Praenomen honorificum Schibâb ed-dîn in nostro tamen codice non deprehendimus, sed e Catal. Bibl. Goth. n. 488. deprompsimus. — Libri titulum praefatio quoque repetit.

471. r.—488. v., de fontibus quoque agit, e quibus hauserit; laudantur in his: التذييب اصطلاح المنطق — انجمد لابن فارس, — نلاجري, لابن السكيت, aliique ejusdem scriptoris libri; scripta Abû Bekri Ibn el-Anbâri et Abû Zeidi Sa'id b. Aus et Ibn Quteibae; ديوان الادب اساس البلاغة — انصحيح لالجوري, — للقراني, — للمعرب للمعري — للرخشري, — Absolvit scriptionem codicis Abû--ssurûr Ibn 'Abd el-Kerim Ibn Mu'hammed Bedri (? ندري) b. A'hmed Ibn Ibrâhîm el-Bâtig'i*), mense Scha'bân a. 198., ut legitur fol. 488. v.; sed legendum fortasse 1098. (Chr. 1687.)

Codex noster inclusus est capsula, in cujus operculo scriptum est: المصباح في اللغة. Similis inscriptio legitur in cod. Gothano 488.**)

*) Vid. Sujúti Lubb el-lubâb, ed. Veth., s. v.

**) Möllerus in descriptione hujus codicis annotat Schibâb ed-dînum opus suum ad finem perduxisse a. h. 744. (Chr. 134 $\frac{3}{4}$.)

CODICES RHETORICI.

CC.

(N. 48. in fol.; olim N. 70. in 8vo.)

Codex in fol. minore, foll. 280. chartae orientalis laevigatae, char. Nasta'liq bene scriptus. Continet Sa'd ed-dîni Mes'ûd bin 'Omar et-Testâzâni Commentarium uberiolem in Mu'hammedis*) bin 'Abd er-Râ'hman el-Qazwîni librum, qui vocatur: تلخيص المفتاح, i. e. Epitome libri مفتاح العلوم, Clavis scientiarum, scripti ab Abû Ja'qûb Jûsuf es-Sekkâki. De Qazwîni

*) Nomen Mu'hammed, quod in praefatione codicis nostri legitur, alii quoque viri docti huic scriptori tribuunt; apud 'Ilâg'i Chalfam tamen, quem sequuntur alii, vocatur ille Ma'hmad. Praenomen honorificum fuisse videtur G'elâl ed-dîn; sed apud Krafftium expressum es G'emâl ed-dîn.

epitome vid. 'Ilâg'i Chalfa, vol. II. pag. 402. sqq.; Fleischer in Catal. Bibl. Senat. Lips. n. XXXII.; Kraft, Handschriften der orient. Akad., n. LXIX.; de commentario nostro praeter 'Ilâg'i Chalfam, l. I., pag. 404., Fleischer, in Catal. Bibl. Dresd. n. 344. Is vulgo vocatur المنقول i. e. (Commentarius) uberior*), ut distinguatur a commentario breviori, quem continet codex proxime sequens. — Initium praefationis, fol. l. v.: الحمد لله الذي انعمنا حقاييق المعاني ودقيق In margine et inter lineas notae passim adjectae sunt per totum librum. Desinit fol. 280. r., absolutus mense Reg'eb a. 1058. (Chr. 1648.),

*) Praefixum est codici folium, numero non signatum, cui inscripta est haec libri designatio vulgaris: منقول.

manu 'Huscini bin 'Omar, in urbe Buda
(بداووسه بدون).

CCI.

(N. 35. in 8vo; olim N. 16. in 8vo.)

Ejusdem *Testázânii Commentarius brevior*
(اختصر) in *librum eundem*; codex in 8vo, foll.
149. chartae orientalis laevigatae, char. Nes-
ta'liq optime scriptus, in margine et inter lineas
annotationibus passim auctus. Folio, quod
praecedat ipsum librum, inscripta est designatio
vulgaris اختصر. Praefatio legitur fol. 1. v., ubi
auctoris nomen sic scribitur: مسعود ابن عمر ،
Eandem cognominis for-
mam alios quoque libros non paucos exhibere
notum est; praestat tamen lectio *et-Testázâni*,
quam inter alios tuctur Sujûtii auctoritas in libro
Lubb el-lubâb. Absolvitur commentarius fol. 149.
r.; subscriptio finalis, fol. 149. v., scriptum esse
docet a Mu'hammede Szâdiq bin Musztafâ b.
Mu'hammed, in gratiam filii Mu'hammed Sa'id,
mense Rebi' posteriore a. 1122. (Chr. 1710.)

Impressus est hic commentarius Calcuttae,
a. Chr. 1813. — Ceterum vid. 'Hâg'i Chalfa,
vol. II. pag. 404.; Catal. Bibl. Goth. n. 528.;
Krafft, Handschriften der orient. Akad., n. LXX.
— Codex a b. von Haven Qâhirae comparat-
us; conf. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th.
II. pag. 40. n. 14.

CCII.

(N. 111. in 4to, olim N. 34. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 228. chartae orientalis
laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens
partem primum libri كتاب معاهد التنصيص على
كتاب شواهد التنقيص، conscripti ab 'Abd er-Ra'hîmo
Ibn el-'Abbâsi ad illustranda poëtarum dicta,
in Qazwiniî تلخيص المفتاح allegata. De hoc com-
mentario vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 411.
Fol. 2. r. legitur titulus, quem dedimus supra,
adjecto auctoris nomine, omissa tamen vocula
"Ibn", quam supplevimus ex 'Hâg'i Chalfa. Ini-

tium praefationis, fol. 2. v., concordat cum eis,
quae laudat idem. Proceedit codex noster usque
ad initium sectionis tertiae (الفن الثالث في علم
المديح) libri Telchîsz. Secundum subscriptionem
finale, fol. 227. v., exaratus est codex mense
Szafer a. 1156. (Chr. 1743.); pars altera in-
cipere debebat ab his verbis: قول ابي تمام ،
تردى ثياب الموت حمرا فما لقي ،

لينا الليل آلا وفي من سندس خضر ،

Conf. Catal. Bibl. Lugd. pag. 472. n. 1557.

CCIII.

(N. 112. in 4to; olim N. 33. in 4to.)

'Abd er-Ra'hmâni bin 'Isâ bin Mursched
el-'Umarî (aut el-'Amrî) Commentarius in
Sujûtii carmen iambicum, quod vocatur: عقود
عقود: الجمان في علم المعاني والبيان ،
i. e. Monilia margari-
tarum, carmen agens de doctrina sententiarum
et expositionis; codex in 4to, foll. 374. char-
tae orientalis laevigatae, char. Neschi bene
scriptus. Sujûtii carmen metrica compositio
est libri Telchîsz el-Miftâh, in quo illustrando
codices praecedentes versantur; vid. 'Hâg'i
Chalfa, vol. IV. pag. 237. — Fol. 2. r. legitur
titulus, primam commentarii partem spectans:
الجزء الاول من شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان
للعامة ابن مرشد الحنفى عفى الله تعالى عنه امين ،
Initium libri, fol. 3. r.: اما بعد فيقول في شرح
الناظم ما يقتضى ان نظم قال ابتدأى فقيه عدول عن
مقتضى الظاهر - - - ،
quam explicat,
prima est carminis Sujûtii, cujus hoc est ini-
tium:

قال الفقيه عابد الرحمن ، الحمد لله على البيان ،
وافضل الصلاة والسلام ، على النبي افصح الاتمام ،
وهذه ارجوزة مثل الجمان ، ضممتها علم المعاني والبيان ،

Subscriptio partis primae, fol. 182. v.:
انتهى وبهذا انتهى بنا الكلام في شرح الفن الاول من فنون
هذا الكتاب وهو علم المعاني ويليه فن البيان وهو الفن
الثاني ، قال المؤلف رحمه الله في مسودته وكان الفراغ من
تسويده في غرة شهر ربيع الآخر من شهر سنة اثننتين
وعشرين بعد الالف من الهجرة النبوية المصطفوية بحمّة
المشرفة السنية ، ثم قال بعد كلمات وكان الفراغ من تسويد

الغنيين الآخرين سابقا على الفراغ من تسويد هذا الفن ،
وذلك حسبما اختصاه الحال وعن ، كما يشهد بذلك توارث
الفراغ من الفنون المذكورة ، على ما هي في آخر كل فن
مسنورة ، -- ذل ذلك بغمه ورقه بعلمه [بقلمه: leg.]
مؤلفه العبد الفقير الى المولى القدير عبد الرحمن بن عيسى
cet. ابن مرشد العمري الحنفى

Fol. 183. r. nihil scriptum est; fol. 183. v.
legitur annotatio grammatica, quam hic trans-
scribere juvat: فايدة ذل في المعنى*) قد تقع الهمزة فعلا:
وذلك انهم يقولون وآى بمعنى وعد مضارعه يآى بحذف
اواو كما يقولون وقى يقى وونا ينى والامر منه أه بحذف
اللام للامر وبانتهاء للسكت في الوقف -- ، فانه يقال كيف
رفع اسم ان وصفته الاولى والجواب ان الهمزة فعل امر والنون
للتوكيد والاصل ائىن بيمزة مكسورة ويا ساكنة للمخاطبة
ونون مشددة للتوكيد ثم حذفت الياء لانتقا الساكنين
cet. — Folia 184. 185. vacua sunt.

Fol. 186. r. legitur titulus partis secundae.
quae incipit fol. 186. v. Pars tertia (الفن الثالث)
incipit fol. 251. v. lin. 2. Clauditur
codex fol. 371. v.: absoluta est scriptio mense
Reg'eb a. 1128. (Chr. 1716.) a librario 'Ali
el-Wâti (الواضى) el-Mâliki. Annotatur in fine
paginae ejusdem: فى اصل المصنف ليذا انشرح انه
صنف الفن الثالث قبل الثاني والثاني قبل الاول بمكة المشرفة
— بمسندة بينا وفي مدرسة الوزير محمد باشا رحمه الله ،
Foliis 372—374. nihil est inscriptum.

CCIV.

(N. 113. in 4to; olim N. 58. in 4to.)

*Pars prima commentarii Abû Bekri bin
'Alî el-Hamawi, vulgo Ibn 'Hug'g'e dicti, in
carmen suum de arte orate dicendi (البيديعية)*,
quod vocavit: ، تقديم اى بكر ، codex in 4to, foll.
307. chartae orientalis, char. Neschi satis bene
scriptus. De hoc carmine ipsoque commentario
nostro vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 34., coll.

*) Intellige librum مغنى اللبيب clarissimi grammatici
Ibn Hischâm.

pag. 31. sq. n. 1735. Mortuus est Ibn 'Hug'g'e
a. h. 837. (Chr. 1433.) — Fol. 3. r. legitur
titulus: كتاب شرح البيديعية للشينج -- اى بكر بن حجة
الموى -- ، Infra minio exarata sunt disticha
duo:

كتبت وقد ايقنت يوم كنبته ،
بان يدى تغنى ويبقى كتابيا ،
واعلم ان الله سايلىنا غدا ،
فيا لببت شعرى ما يكون جوابيا ،

Praefationis initium, fol. 3. v., post Besme-
lam: -- ابو الحسن تقى الدين ملك المتدابيين
ابوبكر بن حجة الحنفى القادري للموى -- وبعد فيذه
البيديعية التى نسجتيا بمدحه صلعم على منوال شرح التمرد
cet. Excitavit scriptorem ad componendum hoc
carmen doctissimus vir Mu'hammed Ibn el-
Bârîzi*) el-G'uhani (الجبني). Aemulatus est
et superare sibi visus similis argumenti car-
mina 'Izz ed-dini el-Mauszili**) et Szafijj
ed-dini el-'Hilli.***) Subscriptio finalis, fol.
304. r.: هذا آخر الجزاء [ع] الاول من شرح
البيديعية ، يتلوه ان شا الله فى الجلد الثاني نوع المبالغة من
Absolutus est codex mense
Reg'eb a. 1072. (Chr. 1662.), scriptus in usum
viri, cui nomen: محمد بن حكارى (sic) جمالدين
(sic) بن احمد المصرى ثم الانبائى (?) ،

CCV.

(N. 49. in fol.; olim N. 11. in fol.)

*Ejusdem commentarii pars altera; codex
in fol., foll. 99. chartae orientalis laevigatae,*

*) Möllerus in Catal. Bibl. Goth. n. 539. expressit el-
Bâdiri, quod non probamus; neque is hoc carmen
composuit, ut Möllerus tradit, secutus fortasse er-
rores Catalogi Bibl. Paris. n. 1382., Casirii in
Bibl. Escur. vol. I. n. CCZCH. et Urii in Catal. Bibl.
Bodl. ad n. 1202. 1261.

**) Vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 36. n. 1742.

***) Vid. 'Hâg'i Chalfa, l. I. pag. 33. n. 1736. — Codex
quoque Berolinensis, de quo egit G. H. Bernstein in
prooemio ad ejusdem Szafieddini Hillensis carmen,
Lipsiae a. 1816. editum, pag. 5. 6., Ibn Hug'g'ae
carmen rhetoricum spectare videtur.

char. Neschi bene scriptus. Fol. 1. r. inscriptus est titulus, eleganter exornatus: الثاني من شرح البديعية للشبج الى الحسن تقى الدين ابن حبه رحمه الله. Supra annotatum est: "Haggiac Comment. in Bedial Tomus II^{us}." Incipit fol. 1. v. ubi subsistebat codex praecedens; primo enim loco agitur de hyperbole (المبالغة). Desinit codex in fine folii 99.; sed aliquid deesse videtur.

CCVI.

(N. 114. in 4to; olim N. 18. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 82. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens 'Abd er-Ra'ifi el-Munawi librum, qui vocatur: كتاب عماد البلاغة, i. e. *Columna eloquentiae*, compendium, ut praefatio docet, libri: ثمرات القلوب*, Fructus cordium, auctore Abû Manszûr 'Abd el-Melik bin Mu'hammed eð-Oa'alibi, mortuo a. h. 430. (Chr. 1038.) De Oa'alibii opere, quod versatur in explicandis vocibus, quae adjuncto vel genitivo vel adjectivo relativo in oratione soluta et ligata tropice usurpari solent, vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 493., et P. de Gayangos, the hist. of the Mohammedan dynasties in Spain, vol. I. pag. 330. sqq.**); de compendio 'Abd er-Ra'ifi, mortui a. h. 1031. (Chr. 162½.), 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 253.***) Sed hoc compendium, ut arguit codex noster, eas tantum voces complectitur, quibus jungitur genitivus, paucissimis exceptis, referendis ad المنسوب †). —

*) Vel ثمار القلوب.

**) Corrigenda apud clar. de Gayangos et pronuntiatio vocis ثمار et explicatio vocabulorum المصاف et المنسوب.

***) Alia ejusdem auctoris scripta recenset idem vol. I. pag. 150. n. 59. et pag. 259. sq. n. 529.; vol. II. pag. 466. n. 3761. et pag. 552.

†) Similis argumenti Oa'alibii librum Hammerus recensuit: Wiener Jahrb. vol. LXII. Anzeigebl. pag. 5. sqq.

Codicis fol. 1. r. inscriptus est titulus: كتاب عماد البلاغة وهو مختصر المصاف والمنسوب للثعالبي اختصار العلامة عبد الرؤف المناوى رحمه الله آمين, Praefatio, quam in describendo libro secutus est 'Hâg'i Chalfa, ipsumque libri initium leguntur fol. 1. v. Et primo quidem loco agitur de ابدال الشام; ultimo loco, fol. 82. r., de يوم عبيد.

CCVII.

(N. 115. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 37. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Continet is:

I. *Librum de miraculis eloquentiae* (Prophetiae) et de breviter dictis, qui vocatur: كتاب الاعجاز والاعجاز, auctore eodem eð-Oa'alibi, de quo diximus ad codicem praecedentem. Minus recte alii hunc librum vocant: اعجاز الاعجاز, ut 'Hâg'i Chalfa, vol. I. pag. 350., aut: كتاب الاعجاز, ut legitur in Catal. Bibl. Paris. n. MCDIV, 2. et apud Urium, in Catal. Bibl. Bodl. n. 338.; ab aliis vero haud incommode appellatur: غرر البلاغة, i. e. *Lumina eloquentiae*; vid. Herbelot, s. v. Egias fil Igiaz et s. v. Gorar al-belagat, et Catal. Paris. l. l.; sed eam designationem neque in codice nostro reperimus neque apud 'Hâg'i Chalfam. — Fol. 1. r. inscripta sunt haec: كتاب الاعجاز والاعجاز, اما الاعجاز, فللكلام (فكلام: leg.) الله تعالى وكلام النبي صلعم واما الاعجاز فلاعبان البلاغة واعلام البراعة سحره الشعر [من احساب وسائط التقلايد واغراد القصيد*) تاليف الشبج العلامة العمدة الفهامة الثعالبي رحمه الله سبحانه وتعالى اما بعد fol. 1. v.: Praefationis initium fol. 1. v.: اما بعد, حمد الله عز اسمه والصلاة الخ, Dedicatus est liber Abû Sa'do Mu'hammed bin 'Ahmed b. Ghassân et in decem capita divisus. Absolvitur fol. 29. r., scriptus mense Rebi' secundo a. 1079. (Chr. 1668.) manu Ibrâhimi bin Sâlim Hanefitae, vulgo القطان dicti. — Typis eum librum exprimi

*) Haec omnia e praefatione libri deprompta sunt.

curavit cum interpretatione Latina et commentario J. J. Ph. Valetton, Lugd. Bat. 1844. 4to. — Sequuntur:

II. Fol. 29. v.—35. v. *Sententiae centum*, quae tribuuntur *Chalifae 'Alī bin Abī Tūlib*: ، ومائة كلمة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، adjecto commentario brevi.

III. Fol. 35. v. lin. 5.—extr. *Initium carminis*, quod vocatur: ، القصيدة الزينية ، eidemque tribuitur auctori. Distichon primum:

صرمت حبالك بعد وصلك زينب ،

واندعر فيه تصرف وتقلب ،

Exciderunt folia nonnulla post fol. 35., desinens in disticho decimo sexto.

IV. Fol. 36., quod nunc est, et 37. r. legitur: ، حديث أم زرع ، multis annotationibus in margine et inter lineas illustrata. Initium hoc

حدثنا علي بن حجر أنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة تعاقدن وتعاقدن ان لا يكتمن من اخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى ،

CCVIII.

(N. 116. in 4to; olim N. 74. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 32. chartae, ut videtur, Europaeae, char. Africano recentiore bene scriptus. Fol. 1. r. char. Rabbifico, sed lingua Hispanica, inscripta sunt haec: "El nombre de este libro es, como se escribe las cartas para los reyes y para los sabios y para los hijos de reyes y para los santos y los — — *); y tambien de la suerte, que se escriben los papeles de casamientos y quitanzas y de compras y ventas y herencias y debitos y pagamentos." Continet enim codex:

I. Fol. 1. v.—15. v. *Exordia epistolarum* ad reges aliosque viros illustres scribendarum. Inscriptio fol. 1. v. post 'Hamdalam et 'Haula-

*) Vocem, quae hic scripta est, non eruimus.

gam haec est: هذا كناش مجموع فيه بعض مطالع أول الفاظ الرسائل للملوك وأولادهم وأعلماء والفقهاء والصالحين ، Subscriptio finalis, fol. 15. v.: ، بحمد الله كما وجد ، في غير هذا ، — Sequuntur:

II. Fol. 16. r.—32. v. *Contractuum specimina*, quorum haec est inscriptio: هذا كناش فيه بعض الوثائق الفاظ ما يكتب في الرسوم وم العقود ،

CCIX.

(N. 50. in fol.; olim N. 24. in fol.)

Codex in fol., foll. 231. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi non male scriptus, continens librum qui vocatur: كتاب بدائع كتاب بدائع (i. e. *Ex tempore dicta insignia*, compositum a *G'emāl ed-dīno Abū -l'hasan 'Alī bin Zhāfir*, mortuo a. h. 623. (Chr. 1226.) Fol. 1. r. inscriptus est titulus: هذا كتاب بدائع البدايه (في علم الادب للامام انبام اوحده الجمال) (البدايه) . Praefationis initium, fol. 1. v.: اللهم أسبل علينا سترك ، Continet praefatio, praeter ea, quae libri originem et dispositionem spectant, introductionem in librum insequentem, cujus sectio prior agit de significatione vocabulorum العربية والترجمان; posterior discrimen exponit, quod intercedit inter utrumque. Ipsa, quae sequitur, collectio narrationum de versibus et carminibus ex tempore dictis divisa est in capita quinque, quorum hi sunt indices:

، في بدائع بدايه الاجوية ، Cap. I.: fol. 6. v.

، II.: ، 33. v. (الاجازة) †)

*) Sic corrigendus libri titulus in 'Hāg'i Chalfae editione Flügeliana, vol. II. pag. 26. n. 1705.

**) Repetita per errorem vox البدايه .

**) Ita scriptum videtur, sed legendum est: العلماء .

†) Fol. 33. v. معناه في معنى: الاجازة ان ينظم على شعر غيره في معناه ، ما يكون به تمامه وتكون بين متعاصرين وغير متعاصرين وفي مشنقة من الاجازة في السقي من اجازة اذا سقا او سقى له ،

في بدايع بدايه الواقعه على العمل في Cap. IV.: fol. 127. v. مقصود واحد ،

*) Fol. 93. r. v.: يتجمع شاعران فصاعداً على تجريب خواصهم على العمل في معنى واحد ، -- والفرق بينه وبين الاجازة ان التمليط يتفق فيه الشعراء قبل العمل عليه او يندبون لذلك وتتكبر منبه المناوبه وليس عدان من شروط الاجازة ،

في بقية بدايع البدايه ، V.: „ 155. v. Fol. 230. v. 231. r. legitur epilogus auctoris: قال ابن ظافر قد ضمننا هذا الكتاب البديع النظم الغريب الاسم ما وقع لي في هذا التاريخ من حكايات البدايه وكلما فيه من السجع فحاضري جالب ذره وحالب ذره وسادب ، قطره الا ما استثنيت الخ ، — Scriptionis annus non notatur.

ANTHOLOGIAE ET COLLECTIONES, LITTERAS ELEGANTIORES MAXIME SPECTANTES, ET SOLUTA ORATIONE ET LIGATA SCRIPTA CONTINENTES.

CCX.

(X. 117. in 4to.)

Codex Reiskianus in 4to, cui duplex praefixus est titulus, alter ab ipso Reiskio scriptus, alter manu J. C. Krügeri, Diaconi Crimmitschaviensis, ex illo repetitus: روض الاخيار في ربيع الابرار لابي احمد بن الخطيب قاسم بن يعقوب الاماسي "Descripsit e codice Msto quondam Seebischiano, nunc Bibliothecae Regiae Dresdanae, mensibus Junio, Julio et Augusto, 1755. Jo. Jacobus Reiske." De quo codice vid. Fleischeri Catal. Bibl. Dresd. n. 404., ubi inscriptio libri rectius sic reddita est: روض الاخيار المنتخب من ربيع الابرار، i. e. *Prata optimorum, liber delectus e Zamaeh-scharii opere, quod vocatur Ver justorum.* Hujus compendii utilissimi auctor est *Mu'hi ed-din Abù Ahmed Mu'hammed Ibn el-Chatib Qâsim bin Ja'qub*, Amasianus, mortuus a. h. 940. (Chr. 1533 $\frac{3}{4}$.) Conf. *Hiâg'i Chalfa*, vol. III. pag. 344. sq. et 484. Quinquaginta capitulum indicem dedit Hammerus, *Wiener Jahrb.* vol. LXIII. *Anzeigbl.* pag. 4. sq. — Codicis nostri pag. 1. sq. legitur index in librum insequentem: فيرست ما في الكتاب; praefatio incipit

pag. 3.; caput primum (الروضة الاولى) pag. 4. Absolvitur totus liber pag. 225., ubi annotavit Reiskius: "Absolvi d. 26. Augusti 1755. Laus Deo!" Sequuntur deinde *Glossae Arabicae* marginales codicis Dresdensis, paginas 155. occupantes, quibus inscripsit Reiskius: "Commentarii ad Raudh ol Achjari." Subscriptio finalis: "Absolvi adspirante deo d. 20. Julii 1755." — Adjecti sunt denique indices copiosissimi in commentarios illos, et generalis, et speciales duo, de nominibus incipientibus a vocibus "Ibn" et "Abù"; de quibus Reiskius: "Hos indices confecit in gratiam meam circa annum 1762. M. Jo. Christian Krüger, anno superioris Crimmitschavae, ubi Diaconum agebat, defunctus. Jo. Jacob Reiske. Lips. anno 1768." — Ultimo codicis folio inscripti sunt primi versus XVII. carminis notissimi *en-Nâbighae*: قصيدة النابغة الذالبيّة، quod edidit Silvestre de Sacy in *Chrestomathia Arab.*, edit. II. vol. II. pag. 143—149. Ejusdem carminis exemplum integrum, a Krügero fortasse exaratum, cum codice nostro asservatur. — Ceterum conf. Reiskens *Lebensbeschr.* pag. 159. n. 13.; sed quae ibi leguntur, correctione egent.

CCXI.

(N. 118. in 4to.)

Codex in 4to, *Excerpta tenens Reiskiana e libro anthologico*, cujus nomen in nostro quidem codice non reperitur, sed quem non dubitamus esse anthologiam jucundissimam, quae vocatur: كتاب ريجان الآداب وريغان الشباب في مراتب الآداب, i. e. *Ocimum cordium et flos juventutis*, liber agens de gradibus institutionis, conditam, secundum 'Hâg'i Chalfam, vol. III. pag. 523., ab illustri viro *Abâ -Iqâsim Mu'hammed bin Ibrahim bin Chairé bin el-Medâ'înî*, Hispalensi.*) Ex hujus enim libri apographo Lugdunensi (in catal. impresso pag. 485. n. 1872.) Reiskium excerpta sibi comparasse e Prodidagmatis ad Hagji Chalifae tabulas, pag. 234. n. 10., et vita Reiskii, Germanice scripta, pag. 162. n. 21., notum est, codicisque argumentum et indoles iis, quae de anthologia illa comperta habemus, bene respondent**). Dividitur ea, uti videtur, in sectiones majores et minores, quae appellantur مراتب et مرآقب. Sic enim legitur in limine excerptorum Reiskii:

*) Dubitamus de veritate lectionis in nominibus خيرة والمداعيني. Apud Casirium, vol. II. pag. 73., legitur: "Mohamad ben Abraham, vulgo Abulcasse-mus, apud Arabas vero *Ebn Almuaini* nomine clarior, *Cordubensis*, -- Granatae Cancellarii munere functus." Idem mortuum esse nostrum narrat a. h. 561. (Chr. 1169.), quod non repugnat iis, quae ex anthologia ejus deprompsit P. de Gayangos, the hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. 516. Sed perperam Casirius duos libros fecit ex uno, inter Mu'hammedis scripta corrupto nomine recensens et ريجان الآداب وريغان الشباب.

***) Nec obstant quae de divisione libri tradidit clar. de Gayangos, l. I., iis non omnino congrua, quae narravit Reiskius in Prodidagmatis, l. I., et confirmat codicis nostri argumentum. Non enim sufficiunt, quae praesto sunt, ad pernoscendam totius operis singularumque ejus partium rationem atque dispositionem.

مرقبة الاشعار والاخبار

وعليينا في هذا المجموع عمدة المدار الج،

وهذا تفصيل مرآقب هذا الكتاب --، مرقبة الحبر: et infra
والتقاعة ونزاعة النفس وبعد البيمة، مرقبة الورد والامنة
والوفاء واداب السيادة، مرقبة الدها وافادة التجارب في زيادة
العقل والعلم، مرقبة حميرة نواذر من اخبار الجماهير، مرقبة
الجود والسماحة والكرم والمياسرة، مرقبة الاقدام والخماسة
ولمعة من اشعار اهل الملك والرياسة، مرقبة سرعة الجواب
لحاضر والكلام المسكت في الحاضر، مرقبة المدح والمنقالات
والنواذر والمضحكات، مرقبة انواع الترحيد والانتباه
عما في العاجلة من لطف الترحيد،

Quae verba excipit ipsa مرقبة prima. Occupant excerpta Reiskii folia quattuor, numeris non signata, et paginas 1—19. 29—54. 61—74. 77—87. 95—114. 117—123. 129—137. 145—170. 177—203. 209—235. 239 b. 240 b. 241—252. 257—268. — Pag. 55. legitur: "Hic sequebatur historia Hassan et Omru, Tobbaitarum Himjaritarum, quam habebam in Ibn Arabi اخبار الابرار p. 195. 196., quare describere hic iterum nolui." — Reliqua nihil habent scripti.

CCXII.

(N. 119. in 4to; olim N. 92. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 93. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi inaequaliter scriptus. Continet is:

I. *Anthologiam*, quae vocatur: كتاب المرقص vel plenius, ut in praefatione legitur: كتاب المرقص، عنوان المرقصات والطرب، compositam a *Nur ed-dino Abû -Ihasan 'Alî bin Misâ bin Mu'hammed b. 'Abd el-Melik b. Sa'id*, Hispano, de quo vid. P. de Gayangos, the hist. of the Mohammedan dynasties in Spain, vol. I. pag. 309. sq. Fol. 1. r. praeter libri titulum varia leguntur, in his disticha tria, quibus inscriptum est: لكتابه الخبير احمد بن الشيخ يوسف
قال . Praefationis initium, fol. 1. v.: قال
رئيس الادبا وعبيد الفضلا نور الدين ابو الحسن على بن
الوزير العالم ابي عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن
سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن

سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن عمار بن ياسر العنسي*) الاذلسي اما بعد حمد الله الذي شرف الانسان على ساير انواع الحيوان ، Excerptis auctor, ut in praefatione ipse narrat, tenuem hunc libellum e majore libro, quem scribere instituerat sub titulo : جامع المرقصات والمطربات وما ، collecto e duobus amplissimis operibus : المشرق في حلى اهل المشرق ، et المغرب في حلى اهل المغرب ، centum et quinquaginta libros complectentibus et per spatium annorum CXV. compositis a sex viris, philologiae studiosis, quorum ipse noster Nûr ed-dînus fuit ultimus**). Continet codex fol. 3. r.—8. r. pauca solutae orationis specimina, e variis scriptoribus deprompta, ut ex 'Abd allâh Ibn el-Mu'tazz, Abû 'mászr el-'Uthbi, Bedi' ez-Zemân el-Hamadâni, el-Hariri, aliisque. Sequuntur deinde disticha et poëmata poëtarum cum orientalium tum occidentalium, et primum quidem inde a fol. 8. r.: المرقصات والمطربات من محاسن شعراء الجامعة امامهم وحامل لوائهم امرء القيس ، Recensentur h. l. praeter Amru el-Qaisum en-Nâbigha ed-Subjàni, 'Antara, Tarafa, cet.; quos excipiunt fol. 10. r. المختصرمون ، ut Lebidus, en-Nâbigha el-G'a'di, Ka'b bin Zuheir, aliique; fol. 11. v.: شعراء الاسلام الى انقضاء الدولة الاموية ، et Temîmus, el-Ferazdaq, cet.; fol. 15. r.: المختصرمون ، انباتون من : من شعراء الدولتين (***) ، Fol. 16. r. sequuntur poëtae orientis a saeculo post fugam tertio usque ad septimum; fol. 24. v. poëtae occidentis inde a saeculo quarto : شعراء المغرب من اول الديار المصرية الى البحر المحيط والجامعة وما بعدها الى المائة الرابعة

*) De hoc cognomine conf. annotationem b. H. E. Weijers ad Sojutii librum de interpretibus Korani, ed. Meursinge, pag. 85. n. 43.

***) De utroque libro *el-Muschriq et el-Mughrîb*, a proavo scriptoris nostri ejusque posteris condito, vid. quae alio loco tradidit ipse Nûr ed-dînus: the hist. of the Mohamm. dynasties in Spain, vol. I, pag. 195. sq., coll. annotatione clar. de Gayangos, pag. 477.

sq., qui hujus quoque anthologiae mentionem fecit.

***) Umajjadarum intellige et 'Abbâsîdarum dynastias.

. عاطلة ما هو من شرط هذا الكتاب. Clauditur liber fol. 31. v.; subjunxit autem librarius de auctore libri notitiam, cui superscripsit: نقل صاحب مجاني ، et in qua natus esse dicitur Nûr ed-dînus Gharnâtae*) in Hispania, a. h. 610. (Chr. 1213.) Varia denique excerpta adjecta sunt fol. 32. r.—33. r. — Sequitur:

II. Fol. 33. v.—93. r. bona pars corporis poëtarum antiquiorum, ab Abû Temmâmo con-gesti, et vulgo *el-Hamâsa* vocati. In limine libri legitur: ويتلوه ان شاء الله تعالى كتاب الحماسة نفع: قال الشيخ الامام ابو الحسن علي بن ثروان بن الحسن الكندي قرأت علي الشيخ - ابي منصور موعوب بن احمد - الجوائقي - قال قرأت علي ابي الشيخ ابي زكريا - التميمي - قال قرأت علي ابي العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان التتوخى المعري بمعة النعمان كتاب الحماسة اجمع وكان ابو العلاء cet. Caput primum (باب الحماسة) incipit fol. 33. v. extr., et in primis quidem carminibus rarissimae adjectae sunt annotationes, reliqua vero notis omnino destituta. Non una manu videtur exarata haec codicis pars posterior, desinitque fol. 93. r. lin. 6. in medio carmine, cujus auctor secundum codicem nostrum: زياد بن حمل بن سعد ، sed conf. editionem cl. Freytagii, pag. 408, lin. 5. a fine pag. Ultima codicis verba sunt: يا ليت شعري ؛ sed corrigendum est: بل ليت ؛ vid. Freyt. pag. 408, lin. 1.

CCXIII.

(N. 120. in 4to.)

Codex Reiskianus in 4to, complectens *Excerpta varia e Nuweirîi Encyclopaedia Arabica*, cui nomen: ؛ نناية الارب في فنون الادب ، conf. ad cod. CXXIX. Et primum quidem tribus foliis continetur "Argumentum operis Nuweiriani ex ejus praefatione," Arabice, sed a Reiskio Latine versum in Prodidagmatis ad Haqji Chalifae tabulas, pag. 232. sqq. Sequitur

*) Corrigendus ex his Casirius, vol. II. pag. 110.; sed vid. de Gayangos, l. I., pag. 309.

pag. 1—6. historici argumenti particula: ذكر خبر: انتزاع قصى البيت ومكة من خراطة ومن ولى البيت من ، بعد اسماعيل الى ان انتزعه قصى بن كلاب ، quae narratio ex quam operis parte deprompta sit, a Reiskio non indicatum est. Excipiunt eam excerpta e capite primo partis secundae libri secundi, ومن الباب الاول من القسم الثاني من الفقه الثاني, quorum hae sunt inscriptiones: pag. 8.: ما يمثل ، ومن اشعار اخصريين ،: pag. 15.: به من اشعار الجاهيلة ، pag. 18.: ، ومن اشعار المتقدمين في صدر الاسلام ،: pag. 21.: . ومن اشعار المحدثين . In fine hujus sectionis, pag. 35., notatur: "Finis Apophthegmatum." Paginis 36—42. continetur ejusdem partis caput secundum, "de superstitionibus Arabum", ومن اوابد العرب (leg. في) من; paginis 42—44. capitis tertii et quarti pars. Paginae 45—80. desiderantur; paginae 81—201. pertinent ad capita I—III. partis tertiae libri secundi, quae agunt de iis, quae scriptores aut poetae dixerint in laudem virtutum; de iis, quae dicta et narrata in vituperationem; de jocose denique, rare, argute lepideque dictis. — Haec omnia altera olim excerptorum series excipiebat, quae tantum non tota periit; nam quattuor solum ejus paginae supersunt, historici argumenti, et paginae quidem CIX. CX., Arabum historiam antiquam spectantes, CXV. vero et CXVI., ad Noachidarum historiam pertinentes. "Index in Nuweirium," qui codicem claudit, excerptorum partes deperditas quoque spectat, de quibus haec sunt Reiskii verba, ligaturae parti interiori inscripta: "Magna pars huius libri (cum nondum esset compactus) mihi periit Leidae, beneficio cl. Schultensii, junioris, cui commoda veram. Hinc fit, ut plura citentur in indice, quam sunt in ipso libro."

Partem hujus codicis publici juris fecit b. J. L. Rasmussen in Additamentis ad hist. Arabum ante Islamismum, pag. 41—vv., quae respondent codicis pagg. 36. lin. 1.—42. lin. 8. et pagg. 42. lin. 19.—44. extr. Paginis 37—40. notulas nonnullas adscripsit idem vir

doctus, quae tamen a Reiskianis, eleganter scriptis, facile distinguuntur. — Conf. praeterea Reiskens Lebensbeschr. pag. 163. n. 24.

CCXIV.

(N. 121. in 4to; olim N. 40. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 110. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, continens *anthologiam eroticam*, quae vocatur: ديوان الصباينة, collectam a *Schihab ed-dino Abu-l-Abbas Ahmed bin Jahja b. Abi Bekr et-Tilimsani*, vulgo *Ibn Abi Hag'ala* dicto, auctore libri es-Sukkurdan, de quo egimus ad codd. CXLIV. CXLV. Conf. Hag'i Chalfa, vol. III. pag. 290.; Herbelot s. vv. Hagelah et Sababat; Journal of the American Orient. Soc. 1847. vol. I. pag. XXIII. In codice quidem nostro collectoris nomen nusquam apparet; nihilominus hunc esse Ibn Abi Hag'ala librum certissimum est, non vero Chafag'ii, cui suum ejusdem libri exemplum adscripsit Hammerus, Wiener Jahrbh. vol. LXXXVI. Anzeigbl. pag. 41. sq.*) — Fol. 2. r. inscriptus est libri titulus; praefationis initium, fol. 2. v., hoc est: الحمد لله الذي جعل للعاشقين باحكام الغرام رضا. Caput index legitur fol. 5. v. 6. r.; tractatus introductorius incipit fol. 6. r., caput primum fol. 19. v. Abrumpitur oratio fol. 107. v. in medio cap. XXVII. post verba: (وقال محمد بن العفيف*) — Fol. 108. v. inter alia, quae ad ipsum librum non pertinent, legitur testimonium, quo codicem a Domino von

*) Hammeri codicem eundem librum continere caput index arguit, quem ex illo deprompsit vir illustrissimus. Unius tamen capitis mentionem facere praetermisit, duodevicesimi: في تعنت المعشوق على الصب المشوق.

**) Eundem Muhammedem Ibn el-'Afif et-Tilimsani *circum suum* vocat libri auctor vel collector, fol. 107. r. in fine paginae. De hoc scriptore dicemus ad cod. CCXXII. Patrem ejus commemorat Hag'i Chalfa, vol. II. pag. 87. vol. III. pag. 297. n. 5569.

Haven comparatum esse confirmatur: صح أن
 هذا الكتاب بقي في ملك الخواجا (sic) فون هاون ،
 Foll. 109. 110. nihil scriptum est.

CCXV.

(N. 122. in 4to; olim N. 59. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 191. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi non pulchre, sed distincte scriptus. Continet librum anthologicum, qui vocatur: ثمار الاوراق vel كتاب ثمرات الاوراق, i. e. *Fractus foliorum*, auctore *Abi Bekr bin 'Ali el-Humawi*, vulgo *Ibn 'Hug'ge* dicto, de quo vid. quae annotavimus ad cod. CCIV.; item *'Hâg'i Chalfae* vol. II. pag. 494. et Casirium in *Biblioth. Esecorial.* vol. I. n. DXIV, 1.*) Fol. 2. r. legitur titulus: كتاب ثمرات الاوراق تأليف الامام العلامة العلامة حجة العرب وترجمان الادب قضى قضاء انعلم في البلاغة تقى الدين رحلة الطالبين ملك المتأدبين ابو بكر بن حجة الخنفي منشى دواوين الانشا الشريف (sic) بالثمانك الاسلاميه ، Praefationis initium in codice nostro, fol. 2. v., hoc est: الحمد لله الذى نور بصاير اولى الالباب الخ ، وبعد قل انشيج الامام -- ابو بكر ابن حجة -- ، اما بعد سيد الله الذى فدينا بثمار اوراق ، العلماء الخ ، quae ultima verba sunt eadem, quae laudantur ab *'Hâg'i Chalfa* et Casirio. Desinit liber fol. 189. v., exaratus a *Muhammede Szâlîh bin Ramadhân bin 'Hamd bin Dâûd*, et ad finem perductus mense *Schawwâl* a. 1115. (Chr. 1704.) — Adjecit librarius fol. 190. r. carmen XIX. distichorum, cui inscripsit: قصيده عظيمه لبعضهم ، حلوا لنا فيه امان لمن جنا ، وله الكرامة والرضا لحبه ،

In margine quoque ejusdem paginae versus nonnulli adscripti sunt, et fol. 190. v. in superiore parte paginae.

*) Conf. etiam *Catal. Bibl. Reg. Paris.* n. 1595. 1596. et *Catal. Bibl. Goth.* n. 628—630. — Idem liber intelligendus in *Catal. Codd. clar. de Hammer*, *Wiener Jahrb.* vol. LXIII. *Anzeigbl.* pag. 21. n. 35.

CCXVI.

(N. 123. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 153., *Collectanea continens*, *Reiskii* manu scripta.*) *Singulae hujus collectionis partes excerptae esse videntur e codice bibliothecae Senat. Lipsiensis*, qui in *Catalogo Fleischeri* signatus est n. CCXCVI. Nam quae continet, haec sunt:

I. Fol. 1. r.***) — 2. r. *Praefatio collectionis Lipsiensis*; fol. 2. r. extr. — 4. v. *introductio historica ad insequens Ka'bi bin Zuheir poëma clarissimum in laudem Prophetae*, cujus prima sunt verba: باننت سعاد; fol. 4. v. — 20. r. ipsum poëma cum commentario. Passim adjectae sunt notae marginales, maximam partem criticae. Fluxit ex hoc apographo *Lettiana editio*, ut narrat *Reiskius* in *vita sua*, pag. 49. sq. *Conf. Schmurreri biblioth. Arab.* pag. 195. sq. — Sequitur:

II. Fol. 20. v. — 117. r. *ampla carminum collectio*, a variis poëtis compositorum, iis, ut non dubitamus, respondens, quae in *cod. Lipsiensi* leguntur fol. 15. v. — 21. r. et 108. r.—198. r. *Annotationum copia* satis magna interpretationem maxime spectat. *Subscriptio finalis*: "Finii d. 16. Sept. 1737." — Deinde:

III. Fol. 119. r.—137. r. *Caput XXIV. libri*: تحفة الظرفا, in quo *iambicis versibus de historiâ Chalifarum* egit *Muhammed bin A'hammed el-Ba'ûni*; vid. *'Hâg'i Chalfa*, vol. II. pag. 231. sq., et *Fleischerus* in *Catal. Lips.* l. I. ad fol. 50. v.—66. r.

*) Minus eleganti manu haec collectio exarata est, quam quae seriore tempore scripsit *Reiskius*; bonarum artium tum temporis studiosus erat in *Universitate Lipsiensi*.

**) Fol. 1. r. in margine annotatum est a *Reiskio*: "Incepi d. 2. Julii 1737.; quocumque die 2. horas impendi."

IV. Fol. 139. r.—142. v.: خطبة المتزوجين mentio facta est ad eodidem praecedentem.*)
 , نبعص الثرثرة*) سماحه الله .
oratio jocosae de miseris matrimonii: vid. Fleischerus l. l. ad fol. 68. r.—71. r. Subscriptio: "d. 23. Sept. 1736. in Bibl. Senat. Lips."

V. Fol. 143. r.—153. v. "Ludicra"; incipiunt a narrationibus de Chalifa Hārūn er-Reschid, in cod. Lips. fol. 71. v.—73. r. Subscriptio: "d. 1. Octobr. 1737. in Bibl. Senat. Lips."

Enumeratur hic codex in vita Reiskii, Germanice scripta, pag. 156. n. 7. Sed quae antea eodem volumine continebantur, Ibn Dureidum spectantia, infra recensimus, ubi de codicibus poëticis agemus.

CCXVII.

(N. 124. in 4to; olim N. 1. in 8vo.)

Codiculus in 4to minoris formae, foll. 29. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi, sed non totus eadem manu scriptus, varia continens, bonas litteras spectantia.

I. Fol. 1. r. et 2. r.—3. v. *Observationes nonnullae philologicae* leguntur, a diversis hominibus et soluta oratione scriptae et ligatae. ut de formis vicinis, quae pro vocabulo عنكبوت usu veniunt; de vocabulis Coranicis, litteram ظاء continentibus (في ظات القرآن); versus clarissimi grammatici G'emāl ed-din Ibn Mālik, deprompti e collectione manuscripta illustrissimi lexicographi Meg'd ed-din Muḥammed bin Ja'qūb el-Firūzābādī; versus de orthographia nominis urbis Baghdād; disticha nonnulla G'elāl ed-dini es-Sujūtī; de pronuntiatione voculae اف; de interpretatione mystica vocabulorum grammaticorum — اجد حوزة — Sequitur:

II. Fol. 4. r.—9. v. *Carmen Burhān ed-dini el-Bā'ūnī*, ejusdem, ut videtur, scriptoris, quem Hāg'i Chalfa, vol. I. pag. 237. n. 420. vocat: el-Burhān Ibrahim bin 'Abd el-La'if el-Bā'ūnī, distinguendi ab illo Bā'ūnio, cujus

هذا تلخيص تصيين
 الملحة للشهيد الاديب الفاضل بهمان الدين انباغوني تعمدته
 الله برحمته امين . Est enim carmen ludicrum, cui inserti sunt versus multi libri grammatici, quem composuit Haririus sub titulo: ملحة الاعراب .
 Infra inscriptionem de Bā'ūnio notitia festinante calamo adjecta est, in qua Dīvāni quoque ejus poëtae mentio injicitur. Ipsius carminis initium, fol. 4. v.:

أصححتُ شاعراً بليغاً نقول ،
 حمد ذي انطول الشديداً لؤلؤ ،

III. Fol. 10. r.—12. v. lin. 4.: مفاخرة السيف
 i. e. *Certatio gladii et calami*, auctore Zein ed-din 'Omar Ibn el-Werdī, notissimi compendii geographici scriptore, quem Sirāg' ed-dinum alii vocant et de quo dictum est ad cod. XCIII. sqq.

Initium hoc est: قل لما كان السيف وانقلم عدتي العجل ،
 وانقول وعمدتي اندوتة . Ejusdem tractatus, oratione ornata scripti, exemplum alterum habes in cod. nostro CCXXXI. Annexa sunt fol. 12. v.—15. r. carmina nonnulla, festinantius fere scripta, quorum primo inscriptum est: قل النقيبه
 الامام العارف العلامة شمس الدين الفلاحى المالكي مضمنا
 لايبات الملحة مدحا فقال رحه الله تعالى . Ultimum locum occupat:

IV. Fol. 17. r.—29. r. *Ibn Dureidi carmen* clarissimum, المقصورة dictum, scholiis inter lineas adjectis.

CCXVIII.

(N. 51. in fol.; olim N. 33. in fol.)

Codex in fol. formae angustae oblongae, foll. 190. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens *anthologiam*, maximam partem poëticam, quam insuam usum conscripsit Jānus quidam, fil. en-Nāsiri bin Muḥammed

*) Apud Herbelotium Burhān ed-dini nostri cognomen corruptum est in Mā'ūni; vid. Bibl. Orient. s. v. Maouni.

*) Correxerit Reiskius انظرنا .

*bin Mubârek el-Ainâli.**) Fol. 1. r. inter annotationes varias leguntur etiam haec, quae librum insequentem spectant: هذه مجموعة من الادبيات من المتناخبة من الكتب المعتمدة الادبية ، . Ceterum quod consilium, in componendo libro secutus sit, in limine ejus certiores nos non facit qui eum collegit; sed ipsa collectio fol. 1. v. post Besmelam incipit ab oratione sacra de jejuniis mensis Ramadhân, cujus hoc est initium: الحمد لله الذى رفع السماء وحرمها***) عن الزوال ، وخفض الارض ، ونصب فيها الجبال ، . Inde a fine folii 9. varia sequuntur carmina de rebus diversissimis. Poëtarum nomina interdum indicantur, ut Abû-lfat'h el-Bustî, Ibn Zeidûn, Ibn en-Nebih, Ibn Isrâil, Ibn Aibek, el-Imâm esch-Schâfi'î, Abû Nuwâs, cet. Sed nova quaedam poëmatum series incipit fol. 115. r., ubi primum caput inchoatur e viginti, quae magnam codicis partem occupant et in fronte gerunt inscriptiones hujusmodi: ا في النسب ، cet. ٢ في الاخوانيات ، ٣ في المدح ، ٤ في الشكر ، . Ejusdem poëtae anonymi esse videntur quae continentur capitibus I—XVIII.; capita vero XIX. et XX., quibus haec praefixa est inscriptio fol. 139. v.: الباب التاسع عشر والعشرون في المعاني ، variorum poëtarum carmina exhibent, in his el-Mutenabbii, el-Bustii aliorumque. Clauditur totus codex fol. 190. v. Subscriptio finalis aderat duplex, sed prior paene deleta est; scriptionis tamen mensis et annus etiamnum dignoscantur, Mu'harrem a. 872. (Chr. 1467.) Subscriptio posterior nomen prodit collectoris: جمعه لنفسه برسمه العبد الفقير — يونس وند المفسر ، . الناصر بن محمد بن مبارك الينلى الح ، . — Folia nonnulla hic illic e codice excidisse verisimile est.

CCXIX.

(N. 125. in 4to; olim N. 35. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 131. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi eleganter scriptus, col-

*) De hoc cognomine conf. Meursinge in Prolegg. ad Sojutii librum de interpret. Korani, pag. 32. not. 101.

*) Legendum videtur: جزمها .

lectionem continens, maximam partem poëticam. Sectiones distinguimus hasce:

I. Fol. 2. v.—4. r. *carmen* legitur, cujus haec est inscriptio: للربيس الجليل اى بجبى محمد ابن ابى بكر بن عاصم قدس الله تعالى روحه فيما كتب به عن السلطان امير المسلمين اى عبد الله محمد بن يوسف ابن نصر رحمه الله الى الروضة النبوية الشريفة على سادتها ، افضل الصلاة وازكى السلام . — Initium carminis: دعاك باقصى المغربيين غريب ، وانت على بعد المزار قريب ، Sequuntur deinde fol. 4. r.—13. v. ipsae illae litterae, de gestis in Hispania bellis ex urbe Gharnâta ad Prophetam datae mense Rebi' priore a. 771. (Chr. 1369.) Subjungitur aliud ejusdem auctoris *carmen* fol. 14. r.—18. v., ita incipiens:

حال دون الوداع حادى الرقاب ، ثم انتسى من عزمه غير كالب ، Hanc sectionem excipit:

II. *Collectio bipartita*, cujus prior pars (fol. 19. r.—70. r.) hanc habet inscriptionem: Dividitur ea in capita quattuor, quae sunt: fol. 19. r.: باب المدح ، fol. 51. v.: الباب الثالث فى الرثاء ، fol. 60. v.: الباب الرابع فى اوصاف ومعان ، fol. 66. r.: فى الغزل ، شتى . Primi capituli *carmen* primum ita incipit: حل قبة قد زينت بهمام ، ام سعد اخبية وبدر تمام ، Sed prosaica quoque huic parti admixta sunt, ut fol. 25. r.—30. v.: المقامة المروضية على منزع ، Fol. 70. r. فى المقامة الدوحية التى لابن عياض القرطبي ، فى الموجود: فى المقامة الدوحية التى لابن عياض القرطبي ، Fol. 71. v. incipit pars posterior: والقسم الثانى فى المنثور ، quae pertinet usque ad fol. 103. r. Ejusdem scriptoris sunt, quae hujus collectionis utraque parte continentur; nomen ejus nobis non constat, sed in Hispania vixisse et Rondam maxime, Andalusiae oppidum, habitasse e compluribus locis apparet. Suspiciamus eundem esse, cujus nomen inscriptum est fol. 2. v., Abû Ja'hjâ Muhammed bin Abi Bekr bin 'Âszim.

III. Fol. 106. r. nova incipit *carminum series*, a variis poëtis conditorum, sed eadem

manu scripta, qua collectio prior. Carmini primo inscriptum est: وللمرئيس المقدس المرحوم ابي عبد الله محمد الشيران*) الغرناطي قدس الله روحه ما كتب به عن السلطان المقدس المرحوم ابي عبد الله بن نصر قدس الله تعالى روحه. Sequuntur deinde haec: fol. 108. r. alterum ejusdem poetae carmen; fol. 109. v. disticha Abû 'Abd allâhi el-Azraq el-Ghar-nâti et carmen clarissimi Abû 'Hajjân el-Ghar-nâti (**); fol. 110. r. aliud carmen, cui inscrip-tum est: للمولى الاخ المقدس المرحوم ابي العباس احمد ابن المولى المقدس المرحوم ابي الحسن علي بن داود قدس الله روحهما الح; fol. 111. r. versus nonnulli, auc-toribus Ibn el-Chatib el-Gharnâti, Abû Is'haq el-Chafâg'i et Abû 'Umâra el-Baszri; item excerpta e libro, soluta oratione scripto, qui vocatur: كتاب الحكم والنعمة للفقيد الاديب الكاتب البارح ابي الحسن علي ابن الشيخ الرقيس ذي الوزارتين; ابي عبد الله بن الخطيب***) رحمنا الله تعالى, denique fol. 111. v.—115. v. carmen poetae ano-nymi recentioris (لبعض المتأخرين بغرناطة).

IV. Ultimo loco *specimina* leguntur *epi-stolarum*, et soluta oratione et ligata scripta-rum, fol. 116. r.—129. r.: ومن انشاء المولى الاخ قدس الله تعالى روحه من المراسلات السلطانية, Sub-scriptio finalis, fol. 129. r., de collectore ejusque aetate certiores nos non facit.—Fol. 129. v. alia manu adjecta sunt poëmata tria in laudem urbis Tunetis: للاديب ابي عبد الله محمد†) الملقى رحمه الله تعالى. Foliis 130. et 131. nihil est inscriptum.

CCXX.

(N. 36. in 8vo; olim N. 44. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 76. chartae orientalis laevigatae, partim albae, partim variis coloribus

*) Alio loco scriptum est: شيران; vid. fol. 108. r. lin. 9.

**) De quo vid. Gayangos, the hist. of the Moh. dy-nasties in Spain, vol. I. pag. 423. sqq.

***) Intelligendus sine dubio Lisân ed-dinus ille Ibn el-Chatib, cujus vitam scripsit el-Maqqari.

†) Additum h. l. in margine superiore: المعروف بأخييم الاذلسي.

tinetae, char. Neschi una eademque manu bene exaratus, varia continens scripta et excerpta, litteras maxime elegantiores spectantia. Fol. I. r. titulus legitur, potiores codicis partes recensens: كتاب الدر النفيس والحل الانيس وكتاب جنة الولدان في الحسن من الغلمان وكتاب الجوارى في الملاح من الجوارى (leg.: الجوارى) وغيره تليف شيخ الشعرا انشيب الحجازي الح. Singularum vero sectionum conspectus hic est:

I. Fol. 1. v.—10. r. lin. 1. *Quaestiones XLI. e theologia, jurisprudentia et morum doctrina cum responsis*; quarum collectionem illo titulo اندر النفيس والحل الانيس indicari vix probabile est, cum nec in ipso libro is appareat, nec ad Schihâb ed-dinum haec pertineant. Quaestiones enim hasce *Scheus ed-dinus 'Abd er-Râhîm Ibn et-Tûsi*, concionator urbis Mauszil, mense Seba'bân a. 654. (Chr. 1256.) transmisit Imâmo *Abû Mu'hammed bin 'Abd el-'Azîz bin 'Abd es-Selâm es-Sulemî*,*) Schâfi'tae, Qâhiraе degenti, cujus responsa singulas quaestiones excipiunt.

II. Fol. 10. r. lin. 2. — fol. 25. v. *Excerpta varia*, carmina maxime et breviora et longiora, additis interdum auctorum nominibus**); anno-tationes argumenti diversissimi, preces et alia. Videntur excidisse folia nonnulla, post foll. 10. 16. 17. 21. 25., ubi indices, quos in fine folio-rum apposuerat librarius, vel adulterati sunt, vel deleti, vel non conveniunt cum paginae sequentis initio.

III. Fol. 26. r.—36. v. *Libellus*, qui in prae-fatione vocatur جنة الولدان في الحسن من الغلمان, i.e. *Hortus puerorum*, liber agens de pulchris inter pueros; perinde atque in titulo codicis, fol. 1. r. Sed intercudit praefationis initium, unius fortasse

*) انسليمي; sic legitur in codice nostro, neque re-pugnat Sujûtius in libro Lubb el-lubâb.

**) Inter alios, recentiores maxime, nominantur: esch-Schâfi'l, Abû 'l-atâhije, Ibn Abi 'Hag'ale, Szafijj ed-din el-'Illî.

paginae scriptura. Ipse liber carminibus constat brevioribus, ab ipso editore compositis in laudem amasiorum ejusvis ordinis et conditionis, a Chalifa et Sultano usque ad opificem et latronem, ejusvis religionis, habitus, nominis. Scriptoris nomen hic quidem non indicatur; est vero is quem titulus prodit, auctor insequentis quoque libelli, in argumento simili versantis, ut ex ejus praefatione cognoscitur, *Schiháb ed-din el-'Higúzi*, idemque sine dubio, quem commemorat Herbelotius s. v. Schehab. Lacuna exstat post fol. 34. — Sequitur:

IV. Fol. 36. v.—42. v.: كتاب الكُنس للجواری فی الملاح* من الجواری من نظم سيدنا ومولانا الاديب الشهاب ، i. e. *Stellae currentes*, liber agens *de pulchris inter puellus*. Praefationis initium, fol. 37. r.: الحمد لله الذي جعل النساء قوام ، احوال الرجال . Libri ratio eadem est quae praecedentis.

V. Sequuntur denno, fol. 42. v.—76. v., *excerpta varia*, in his primum carmen, cui superscriptum est: كتب انقاضي جلال الدين المكرم الى الامير جمال الدين موسى بن يغمور يظلب منه ، سجاد ، alia deinde carmina, usque ad finem fol. 43., ubi index, imo folio adscriptus, lacunam arguit; fol. 44. r.—72. r. pedestris oratio, versibus intermixta; sed folia nonnulla excidisse videntur post fol. 48. Poëtarum nomina plerumque indicata sunt.

VI. Fol. 72. r.—76. v. *Excerpta e libro theologico*, quibus superscriptum: من كتاب عقد . العقايد ونبيا العوايد ولم ار اسم مصنفه ، Adjecta sunt in fine fol. 76. disticha nonnulla ex Haririo et alia.

CCXXI.

(N. 37. in 8vo; olim N. 30. in 8vo.)

Collectio scriptorum, ad litteras elegantiores pertinentium, cum soluta oratione, tum

*) In praefatione pro الحسن legitur الملاح.

ligata compositorum ab *Abû Ishâq Ibrahîm bin Abî -Ishâq bin 'Abd allâh*, vulgo *Ibn Chufâig'e* dicto et mortuo in oppidulo Hispaniae G'eziret Schuqr a. h. 533. (Chr. 1138.); codex in 8vo, foll. 119. chartae orientalis laevigatae, partim albae, partim rubicundae, char. Neschi bene scriptus. Fol. 1. r. legitur titulus: ديوان ، ابن خفاجة الاندلسي رحمه الله ام . Eodem nomine idem sine dubio liber designatur ab *Ibn Chalikâno*, edit. de Slane vol. I. pag. 19., et ab 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 245. n. 5181. Praefationis initium, fol. 1. v.: قال الوزير الفقيه ابو اسحاق ابراهيم بن ابي الفتح بن خفاجة اعزه الله تعالى يصدر بيده للخطبة جملة شعره وبعض ما اقتن به من نثره ، الحمد لله الذي عم بفضله ومن بعدله الخ ، 119. v.

CCXXII.

(N. 126. in 4to.; olim N. 84. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 103. chartae Europaeae, char. Neschi et manu satis rudi, atramento pallidiore exaratus ab homine aliquo Europaeo, linguae Arabicae tantum non penitus ignaro. Continet is *corpus scriptorum elegantiorum Schems ed-dini Abû 'Abd allâh Mu'hammed bin 'Asif ed-din Suleimân et-Tilimsânî*; eundem, ut videtur, librum, quem commemorat 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 247. n. 5196. et pag. 286. n. 5477.; conf. quae monuimus ad cod. CCXIV. Pater ejus mortuus esse dicitur a. h. 690. (Chr. 1291.) Fol. 1. r. inscriptum est ab eo, ni fallimur, qui codicem exaravit: "Divan le Schams-eddin Abou Abdala Mohammed Ebn-ulschekh Afifed-din Soliman ot tolmaiani" (sic). "Poemata Schams-eddin Abou Abdala etc. Arabice." Libri titulus auro ornatus olim legebatur fol. 1. v., sed nunc deletus est et indocta manu restitutus; infra circulo inscriptum est minio auctoris nomen, quod dedimus; hic tamen perperam scriptum est: التلماني . Repetitur idem fol. 2. r., in limine narrationis ejus generis, quod Arabes vocant

حكي بعض رواية الاخبار، consessus. Initium: مقامات ، Fol. 11. r. ومن يوكثق (يوثق: leg.) به في الاخبار*) ، sequitur: المقامة الثانية؛ quam excipiunt fol. 27. v.—102 r. poëmata, alphabetico ordine disposita. Pauca accedunt supplementa fol. 102. r. —103 r. Clausula finalis scriptionis tempus indicare debet, sed tam mendose scripta est, ut usui esse nequeat. — Ceterum conf. Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 1451.

CCXXIII.

(N. 127. in 4to; olim N. 31. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 115. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, continens librum, qui vocatur: قرة الناظر ونزحة، قرة الناظر ونزحة i. e. *Delectatio adspicientis et oblectamentum mentis*, et varia complectitur scripta, elegantiores litteras spectantia, vel soluta oratione vel ligata composita a *Nür ed-dino Abü-lmatn 'Ali bin Südü el-Beschbaghäwi* (**). Folia 1—27. ad supplendum codicem ab initio mutilum recentiore tempore adjecta esse videntur. Inscriptio folii 1. duplicem ejusdem libri designationem exhibet: هذا ديوان نزحة النفوس ومنتحك العبوس وديوان قرة الناظر ونزحة الناظر، sed hoc errore factum est librarii, qui inscriptionem exaravit, ut e praefatione cognoscitur, cujus initium fol. 1. v. hoc est: الحمد لله المنعم عند قبض النفوس بشرح الصدور، antea se composuisse similis argumenti librum,

*) Legendum fortasse: الاخبار.

**) In limine praefationis vocatur is: نور الدين أبو المنن؛ على بن الجناب السيفي الظاهري البشغوي، in titulo codici praefixo: أبو المنن الجناب السيفي على بن سودون البشغوي (leg.) (leg.) Fol. 28. r. ubi codicis pars antiquior incipit, in margine superiore annotatum est: ديوان ابن سودون، Conf. Casirius, vol. I. n. 366., ubi perperam legitur: Ali albeschbari, vulgo Ebn Sudun, et n. 448.

cui nomen indiderit: نرحة النفوس ومنتحك العبوس، i. e. *Oblectamentum animorum et risum movens austero; illi vero, quae jam prodeat, novae quasi ejusdem libri editioni, in meliorem ordinem redactae, nomen se imposuisse: قرة الناظر ونزحة الناظر، unde apparet in inscriptione hanc solam designationem fuisse commemorandam.**) — Fol. 2. v. de divisione hujus collectionis in partes duas (شهران) agitur, quarum prior seria comprehendit, ludicra posterior, in quinque capita distributa: الشطر الأول يشتمل على المدح والعدل وغيرهما: من الجدييات المنشور الثاني يشتمل على أنواع من الاذويل التيزليات وفيه خمسة ابواب، 1 في انقصايد وانتصاديق، 2 في الحكايات، 3 في الموشحات انباليه (**)، 4 في دوبييت وانواع من الموانيد (***)، 5 في نظرف العجيبه والتحف، Aliam deinde sectionem a. 856. (Chr. 1452.) Qähirae se addidisse narrat noster. Pars prior incipit fol. 3. r.; posterior fol. 34. r. extr.; appendix, cui inscribitur: وهذا ما قلنته، fol. 111. r. extr. Subscriptio finalis, fol. 115. r., absolutam esse docet codicis scriptionem mense Ramadhán a. 972. (Chr. 1565.)

*) Minus accurate 'Häg'i Chalfa quoque vol. IV. pag. 512. n. 9409. de ratione egit, inter utrumque librum intercedente. — Casirius, locis in annotatione superiore laudatis, prioris editionis titulum affert; num recte, dubitare licet. Ea enim, quae de divisione libri tradit ad n. 366, concordant cum codice nostro, et ipsa prima libri verba, quae commemorat, in eodem codice formulam sed excipiunt; finis quoque utriusque libri idem est.

**) Quid significet vox حباليه nobis non constat, sed fortasse derivata est a nomine Hibet alláhi, fil. Sená el-mulk, hominis de hoc carminum genere optime meriti; vid. quae Hammerus edidit in diario: Journ. Asiat. 3^e série, vol. VIII. pag. 163.

***) Fol. 83. v. hujus capituli inscriptio sic se habet: في ذوايبيت والترجل والموانيا، generibus conferre juvabit Journ. Asiat., l. I., pag. 163. extr.—165.

**CODICES NARRATIONES ET SIMILIA CONTINENTES, QUAE AD LITTERAS
ELEGANTIORES PERTINENT.**

CCXXIV.

(N. 38. in 8vo; olim N. 25. in 8vo.)

Codex in 8vo, foll. 81. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, continens *Consessus*, qui vocantur, XXXI., compositos ab *Abū -l-fadhī A'hmed bin el-'Husein el-Hamadāni*, vulgo *Beilī ez-Zemān* dicto, de quo vid. Ibn Challikān, edit. de Slane, vol. I. pag. 56. sq.; Silvestre de Sacy Chrestom. Arabe, 2^e edit. vol. III. pag. 259. sqq. Fol. 1. r. inscriptum est: مقامات انشاعا لاستناد للجليل ابو الفضل احمد بن الحسين اليمداني الحافظ بديع الزمان رحمه الله امين. Praemissa est fol. 1. v. praefatio brevis, de ipso scriptore ejusque consessibus agens. *Consessus* primus incipit pag. eadem, lin. antep.; clauditur codex fol. 81. r. *Consessus* illi, quos ediderunt Silvestre de Sacy in Chrestom. Arab. et Grangeret de Lagrange in Anthologia Arab., omnes in codice nostro reperiuntur. Ultima pars codicis inde a fol. 80. r. alia manu exarata est, quam quae praecedunt.

CCXXV.

(N. 39. in 8vo; olim N. 10. in 8vo.)

'Haririi Consessus quinquaginta; codex in 8vo, foll. 340. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Textus Arabicus in consessibus XXXIV. prioribus vocalium signis instructus est; reliqua char. paulo minore eleganter quidem scripta sunt, sed vocalibus carent. XXV. consessus priores notis praeterea in margine et inter lineas adscriptis aucti sunt, partim Arabicis, partim Persicis atque Turcicis. Incipit liber fol. 1. v., absolvitur fol. 340. r.

CCXXVI.

(N. 128. in 4to; olim N. 51. in 4to.)

Consessuum 'Haririi apographum alterum, in 4to, foll. 300. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptum, vocalium signis instructum passimque notis auctum, inter lineas adscriptis. Incipit praefatio fol. 1. v.; desinit liber fol. 300. r. Fol. 300. v. inter alia legitur: هذه للنفس لاوندبيوس سافر; quem sacerdotem, Halebi natum, a. 1760. Romae vixisse constat e codice CCLXIX., ejus manu exarato et 'Omari bin el-Fārīdh carmina continente.

CCXXVII.

(N. 129. in 4to.)

Codex Reiskianus in 4to, cui hunc titulum praefixit ipse Reiskius: "*Abi Mohammed el-Kasem ben Ali Haririi Quinquaginta consessus Arabici*. E codice MSS. descripsit Jo. Jacobus Reiske." Desunt tamen consessus tres priores, quos quoniam a. 1731. ediderat Alb. Schultens, describere noluit Reiskius, ut in fine pag. 23. annotavit. Est vero hoc apographum codicis Wolfiani, quondam Hinckelmanniani*), qui nunc in Biblioth. Civit. Hamburgensis asservatur sub N. CLXVIII.; vid. Reiskens Lebensbeschr. pag. 14., coll. pag. 164. n. 30. — Paginae 1. inscriptus est titulus Arabicus, adjectis iisdem fere versibus, qui leguntur in limine editionis Ill. de Sacy. Prae-

*) Ut mōnet Reiskius in praefatione ad editionem consessus ZZVI., quem ex hoc ipso codice typis exprimendum curavit. Ejusdem codicis mentionem fecerunt ipse Hinckelmannus in praef. ad Corani editionem et Wolfius in Bibl. Hebr. vol. IV. pag. 776.

fatio incipit fol. 2.; passim adjectae sunt notulae et vocabulorum interpretatio vel Latina vel Germanica. Scholia Arabica e regione textus paginae sequenti inscripta sunt. Pagg. 24—26. scholia nonnulla longiora ad consessus tres priores continent, quae suo editionis Schultensianae exemplo commode adscribere non potuit Reiskius. Pagg. 27. et 28. excisae sunt; nihil tamen deesse videtur. Pag. 29. incipit consessus IV. Inde a pag. 41. scholia Arabica in ipso margine juxta textum Arabicum scripta sunt. Desinit liber pag. 596., ubi notatum est: "Incepi d. 24. Jan. abs. d. 4. April. 1737. Jo. Jac. Reiske. Laus sit Deo." — Pag. 597—602. carmen legitur, cui inscriptum est: *ولله الحريى رحمه الله بمدح نصير الدين سعد الملوك*. Adjecta est in margine interpretatio Latina. Aliud sequitur carmen pag. 602—607.: *كتب الامير نجم الدولة احمد بن ابي الفتوح اختار محمد بن ابي الخبير الى الحريى رحمهما الله تعالى*, et responsum 'Haririi pag. 608—613. Utrique carmini adjecta in margine interpretatio Latina*). Subscriptio in fine pag. 613. haec est: "Laus Deo d. 13. April. h. X. mat. perfeci tandem laborem longe taediosissimum sessarium et quamplurimis incommodis, sanitatisque ac oculorum noxis implicitum." In fine codicis adjectum est fol. unum, variis annotationibus repletum.

CCXXVIII.

(N. 130. in 4to.)

Consessum 'Haririi apographum quartum, in 4to, foll. 131. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum, vocalibus tantum non ubique instructum et quondam b. P. Lemmingio, cum Parisiis discederet, ab Ill. Sil-

vestre de Sacy dono datum. Cujus rei testis est inscriptio prioris e duobus foliis, codici praefixis, sed numeris non signalis. Ejusdem folii pagina altera sequentisque pag. prior quinquaginta consessuum indicem Arabicum continent. Ipsius codicis fol. I. r. titulus legitur Arabicus; praefatio incipit fol. I. v. In margine per totum codicem, paucis exceptis paginis, adjecta sunt scholia Turcica, hominis Europaei manu scripta*), et vocabulorum non paucorum interpretatio Gallica. Absolutus est codex, ut docet subscriptio finalis, fol. 130. v., mense G'umâdâ secundo a. 1171. (Chr. 1758.), manu 'Abd el-Qâdiri, fil. Musztafae, el-'Hallâq (tonsoris). Infra adscriptum est: *تملكه بالكتابة العبد الفقير الى رحمة ربه يوسف ابن شكر الله ابن البيطار*, et: *الحط يبقى زمانا بعد كتابه ، وكانت الحط تحت الارض مدفون ،*

Fol. 131. r. annotationes variae leguntur, in his notitia de 'Haririi consessibus a Schultensio Latine et a Venturio Gallice versis.

CCXXIX.

(N. 131. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 2. in 8vo.)

Codex in 4to, fol. 174.***) chartae orientalis laevigatae, partim char. Neschi, partim char. Nesta'liq, bene sed non una manu exaratus, continens *Ibn Nabbâtae Commentarium in Ibn Zeidini epistolam* laudatissimam, de qua vid. 'Hâg'i Chalfa vol. III. pag. 358. sq.,

*) Haec scholia quid valeant, de Saeyus monet in inscriptione, codici praemissa: "Illum" (Lemmingium) "monitum volumus, ne adnotationibus ad oram chartarum scriptis multum tribuat, quae nempe virum arabicae linguae cognitione non satis imbutum, autorem habuisse nobis videntur."

**) Numeris signata sunt a librario folia 172.; primum enim folium, titulum tenens et praefationis initium, signare neglexit, atque ultimum, cui index historicus inscriptus est.

*) Haec omnia e cod. Hamburgensi deprompsit Reiskius, non vero descripsit epistolas illas, ab 'Haririo compositas, quae in eod. Hamb. vocantur: *الرسالة الشيبانية*, et *الرسالة الشيبانية*, et in cod. Lipsiensi quoque leguntur; vid. Catal. Fleischeri, n. CCLXXXVI.

coll. vol. II. pag. 102. n. 2093. *) De commentario quoque vid. vol. III. l. I. et pag. 590. n. 7095.; in utroque tamen loco ipsum libri nomen corrigendum ex inscriptione codicis nostri. **) Conf. praeterea quae de Ibn Nubbâta monuit Krafftius, die Handschriften der K. K. Akad., pag. 180. ***) — Haec fere codici praemissa est inscriptio †): كتاب شرح العيون في شرح رسالة [ابن زيدون المشهورة عن لسان ولادة بنت المستنقى بالله رحمة لابين نباتة، et supra eam annotatur: ولله تعالى أم، Praefationis initium concordat cum eo, quod legitur apud 'Hâg'i Chalfam; ipsa epistola cum commentario incipit fol. 4. r. Absoluta est scriptio, ut in fine notatur, fol. 172. v., mense Rebi' priore a. 1047. aut 1049. (Chr. 1637. aut 1639.); non enim liquet, utrum سبع legendum sit an تسع.

CCXXX.

(N. 132. in 4to.)

Codex Reiskianus in 4to, ejusdem *Commentarii in Ibn Zeidûni epistolam apographum*

*) Corrigenda ex 'Hâg'i Chalfa quae minus accurate de hac epistola tradidit P. de Gayangos, the hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. 341. sq. et pag. 473.

**) Idem error corrigendus est in Catal. Bibl. Lugd. adn. 1576. Hammerus in diario Wiener Jahrbh. vol. LXIII. Anzeigbl. pag. 22. n. 88. commentarii nomen recte expressit, erravit in designando auctore.

**) Verendum ne in errorem incidit doctissimus juvenis, immatura morte patris suae litterisque nuper ereptus, duos statuens homines ejusdem plane nominis, G'elâl ed-din Mu'hammed bin Mu'hammed ibn Nubbâta el-Fâriqi (el-Miszri), quorum alter mortuus sit a. h. 762, (Chr. 1360.), alter a. 763. (Chr. 1361.) — Ceterum commentarii in epistolam Ibn Zeidûni auctor ab 'Hâg'i Chalfa quidem Abû 'Abd allâh vocatur, a Reiskio vero, librum Bandh el-achjâr seculo, Abû Bekr; utrum sit verius, dijudicare non audemus.

†) Incommodo loco huic inscriptioni insertum erat nomen auctoris hujus commentarii: لابين نباتة، المصرى، jam vero haec verba maximam partem deleta sunt.

continens, quod e codice Lugdunensi, olim Warneriano, descripsit Reiskius; vid. praefationem ad editionem epistolae Ibn Zeidûni Reiskianam, pag. V. sq.; Prodidagmata ad Hagji Chalifae tabulas, pag. 231. sq. n. 8.; Reiskens Lebensbeschr., pag. 158. sq. Conf. praeterea Schnurreri Biblioth. Arab. pag. 227. sq. Ligaturae ipse Reiskius inscripsit: "Ibn Zaiduni Resalet"; codicis vero folium primum, cui titulus videtur fuisse inscriptus, excisum est. Pag. 1. incipit "Praefatio Ibn Nebata *);" pag. 2.: "Vita auctoris et occasio scriptae epistolae"; pag. denique 7. ipsa epistola cum commentario **); Arabice omnia, cum notis marginalibus Reiskii, passimque Rasmussen. Pag. 173. subscriptio finalis codicis Lugdunensis legitur, a. h. 973. scripti; infra Reiskius annotavit: "Absolvi d. 27. Septembr. 1740. Lugd. Batav."

Fluxerunt ex hoc apographo praeter editionem epistolae Ibn Zeidûni Reiskianam, quae Lipsiae prodit a. 1755., repetitam cum commentarii specimine in Hirtii Institutionibus arab. linguae, pag. 483—515., ea quae publici juris fecit b. J. L. Rasmussen in Additamentis ad hist. Arabum ante Islamismum, pag. 1—6.

CCXXXI.

(N. 133. in 4to; olim N. 38. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 68. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus ***). Continentur hoc volumine quae sequuntur:

*) Ha Reiskius scripsit, contra auctoritatem 'Hâg'i Chalfae, vol. I. pag. 143. n. 20.

**) Sed non integrum Ibn Nubbâtae commentarium hoc codice contineri e comparatione cum codice praecedente intelligimus. Nam iis, quae ibi leguntur fol. 4. r.—15. v., ad editionis Reiskianae pag. primam et pag. secundae lineam primam pertinentia, in apographo Reiskiano cod. Lugd. una tantum pagina et quod excurrit respondet. Similiter in apographo Reiskiano desiderantur quae continentur codicis praecedentis fol. 170. r.—172. v.

***) Fol. 1. recentiore manu suppletum est.

I. Libellus, cui inscriptum est fol. 1. r.: الدرّة المنيرة في مناظرة الجسر والجزيرة أنشأه أبو الفتح محمد ، الأزهري المودن رحمه الله أم ، i. e. *Margarita splendens*, liber agens *de certatione pontis cum insula*, auctore *Abū -lfaḥ Muḥammed el-Azherī*, praefatione sacro; stilo ornato scripta disputatio de virtutibus et amoenitate pontis, ni fallimur, ejus qui ostiis canalis magni Qā-hirini impositus est,*) atque insulae, quae appellatur الوسطى eademque esse videtur, quam nunc vocant er-Raudha. Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الفتح ، والصلوة والسلام على سيد الملاح ، الحمد لله الملك البير ، الذي أجرى البحر ، لنفع كل فاجر وبير ، Compositum esse libellum a. h. 879. (Chr. 147 $\frac{1}{5}$.) peroratio docet. Subscriptio finalis fol. 18. r. nomen auctoris ita exhibet: محمد أبو الفتح بن محمد المودن الأزهري ، et codicem nostrum scriptum esse docet mense G'umādā secundo a. 1009. (Chr. 1600.) — Sequitur:

II. Fragmentum ornato stilo itidem compositum, alia manu exaratum cui inscriptum est fol. 19. r.: كتاب الوصفين الظرفيين في مفاخرة الحرمين ، الشريفين i. e. *Descriptiones lepidae duae, versantes in contentione duarum urbium sanctarum***). Continet prooemium, cujus auctor nobis ignotus se in hoc opere conficiendo virum eloquentissimum 'Ali b. Jusuf ez-Zarendi æmulatum esse dicit. Initium, fol. 19. v.: الحمد لله الذي ألبس أطواق العلياء سوائف الحرمين الشريفين ، Abrumpitur oratio in fine fol. 29.

III. Similis argumenti liber, sed simplici stilo scriptus, hanc habet inscriptionem fol. 30. r.: الحجج المبينة***) في التفضيل بين مكة والمدينة

لشيخنا الحافظ المجتهد جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي الشافعي ، i. e. *Argumenta dilucida de praeferenda Mekka aut Medina*, auctore clarissimo *G'elāl ed-din Abū -lfaḥl 'Abd er-Rāḥmān es-Sujātī*. Praefationis initium, fol. 30. v.: الحمد لله الذي فضل بعض خلقه على بعض حتى ، Dividitur hic libellus in tres sectiones: في أسماء عذبة البلدين ، et: في التفضيل بينهما ، et: في حد عذبة الحرمين ، Accedit coronis, excerpta continens e libro: اخبار المدينة للزبير ابن بكار ، Desinit liber fol. 39. r.

IV. Fol. 40. r. varia inscripta sunt poetica, eadem manu qua reliqua pars codicis usque ad finem fol. 68.; sed infra recentiore manu annotatum est: نوايح البربخشري رحمه الله تعالى ، quod proxime sequentia spectat. Nam fol. 40. v.—47. r. lin. 2. leguntur *Zamachscharii dicta* illa praeclara, quae vocantur: الكلم النوايح ، quorumque maximam partem edidit H. A. Schultens in *Anthologia sententiarum Arabicarum*. Lugd. Bat., 1772. 4to.**)

V. Haec excipit fol. 47. r. lin. 3.: الرسالة القلمية لدجلال الدواني رحمه الله ، auctore *G'elāl ed-din (Muḥammed) ed-Deuāni*, cujus mentionem fecit Ḥāg'ī Chalfa, vol. III. pag. 430. n. 6280. Conf. quae de hoc scriptore annotavimus ad codicem *Bibl. Regiae Persicum* N. VIII. — Sequitur deinde:

VI. Fol. 49. v.: الرسالة القلمية من منشآت مولانا علا اندنيا والدين علي جلبي افندي الشيبير بقنالي قاضي العسكر المنصور ، i. e. *Tractatus de calamo*, quem composuit *'Alā ed-dunjā 'ced-din 'Ali 'Celebī Efenī*, vulgo *Qanālī* dictus, de quo vid. Ḥāg'ī Chalfa l. l. n. 6282.***) Scripsit hunc trac-

*) A. C. Niebuhr in *Itineris edit. Germanica* vol. I. pag. 110. vocatur is: قنطرة عم الخليج .

**) Infra titulum et in margine carmina nonnulla minora adscripta sunt, quae ad ipsum librum non pertinent.

***) Apud Ḥāg'ī Chalfam vol. III. pag. 18. legendum est: المبينة pro المدينة .

*) Simillima haec sunt iis, quae leguntur in limine libri *الحاضرة* ، ab eodem scriptore concinnati; vid. ad cod. CZLVIII.

**) Fol. 40. v. in margine adscriptae sunt observationes variae, a *Zamachscharii* libello alienae.

***) Initium libri post *Besmelam* secundum codicem nostrum hoc est: لك الحمد يا من أكرم الخلق ،

tatum in honorem clarissimi Icti Abû -ssu'ûd, vulgo Châg'a C'elebî dicti. Desinit liber fol. 52. v. lin. 4.

VII. Fol. 52. v. lin. 5. — 53. r. paenult. leguntur *descriptions poëticae calami*, auctoribus صنبا الدين بن الأثير, موفى الدين ابن الامدى, و صبا الدين بن حجة, و تقى الدين بن حجة, aliisque, *atque atramentarii*, auctoribus شمس الدين المزين et ابن حجة.

VIII. Fol. 53. r. extr. inscriptio legitur tractatus insequentis: رسالة في السكين لابن حجة, i. c. *Tractatus de scalpro*, auctore *Ibn 'Hug'g'e*. Initium, fol. 53. v., post Besmelam hoc est: هذه رسالة السكين للفاضل تقى الدين ابن حجة الح, قال يقبل الارض التي قامت حدود مكارمها, Desinit fol. 54. v. lin. 5. Hunc libellum excipit:

IX. Fol. 54. v. — 56. v.: رسالة مفاخرة السيف, و القلم لابن الوردي رحمه الله, i. c. *Ibn el-Werdii tractatus de certatione gladii et calami*, de quo diximus ad cod. CCXVII.

X. In fine fol. 56. legitur inscriptio libelli insequentis, in eodem argumento versantis*), quem scripsit *Ibn Nubbâta* ille, de quo dictum est ad cod. CCXXIX.: المفاخرة بين السيف والقلم للشيخ الامام الفاضل الاديب جمال الدين ابي بكر محمد بن الشيخ احدث شمس الدين محمد بن محمد ابن نباتة المصري كتب فيها الى الامير ناصر الدين الدوادار رحمة الله عليهم. Initium post Besmelam, fol. 57. r.: يقبل الارض بانقر لا زالت اقلام النعم ساجدة بامر, Desinit liber fol. 64. v.

XI. Fol. 65. r. disticha nonnulla leguntur, inscriptiones coronae imperatoris Anûschirwân et praecepta varia. Quae excipiunt fol. 65. v. — 68. v. *Praecepta*, quae fautori suo *Abû Jûsuf Ja'qûb bin Ibrahîm*, supremo Baghdâdi judici, scripsit *clarissimus theologus Abû 'Hanîfa*: وصية الامام الاعظم اجتيد ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابي يوسف رضى الله عنهما. Initium hoc est: فقال يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته, Fol. 68. v. in margine adscripta est narratiuncula,

*) Hebraice quoque idem argumentum tractatum est a Charizio in libri Tachkemôni consessu XL.

Abû 'Hanîfam spectans; item disticha nonnulla ab ipso composita.

CCXXXII.

(N. 134. in 4to; olim N. 20. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 116. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, continens *collectionem narrationum lepidarum*, quae vocatur: كتاب اختار من نوادر الاخبار*, congestam a *Schems ed-dîno Abû 'Abd allâh Mu'hammed bin A'hmed el-Muqri el-Anbârî*, eodem fortasse scriptore, cujus mentionem fecimus ad cod. CXXXVIII. Praefationis initium: الحمد لله المنعم, الكريم, ذى الفضل العظيم, Dividitur haec collectio in sectiones (فصول) decem, quarum prima incipit fol. 3. r. Desinit liber fol. 111. v., absolutus mense Ramadhân a. 1173. (Chr. 1760.), manu 'Omari bin 'Omar el-Bedrâwî el-Azherî. — Narrationes XXXV. ex hoc codice deprompsit clar. Freytag, in chrestomathia Arab. grammatica hist., quae prodiit Bonnae a. 1834. Svo., pag. 31—83. Conf. censuram ejus libri, quam b. C. T. Johannsen, professor Hauniensis, inseruit diario: *Jahrbücher für wissensch. Kritik*, 1835., vol. prioris pag. 692. sqq. — Accedunt in fine codicis, fol. 111. v. — 114. v., *excerpta varia*, ligata oratione scripta, e *libro confabulationum nocturnarum* (المسامرات) clarissimi *Mu'hji ed-dîn Mu'haumed Ibn 'Arabi*, النكيرييت dicti, aliisque libris; sed haec ad praecedentem collectionem non pertinent.

CCXXXIII.

(N. 135. in 4to; olim N. 20. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 180. chartae Marocanae, char. Africano recentiore haud male scriptus, aliam *collectionem narrationum lepi-*

*) Sic legitur in titulo libri, fol. 2. r., et in ipsa praefatione, fol. 2. v. In catalogo librorum, ex 'Hâg'l Chalfa excerpto, cod. nostro CLXXII., legitur: في نوادر الاخبار,

darum continens. In limine libri, fol. 1. v., post Bismelam leguntur haec: الحمد لله هذا كتاب عجيب في الحكايات والمضحكات والغرائب، مصححات الملوك، اعلم ارشدك الله حكى انه كان شابا من اولاد التجار، الخ. Desinit liber fol. 180. v.

CCXXXIV.

(N. 136. in 4to; olim N. 80. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 50. chartae Maroecanae, char. Africano satis bene scriptus, *narrationes nonnullas fabulosas**) continens, quarum hic habes indicem: 1. Fol. 1. v.—17. v.: قصة مدينة، *Narratio de urbe aenea*, quae legitur in clarissima illa MI Noctium collectione, edit. Bûlâqensis vol. II. pag. 37—52., edit. Habichtianae, vol. VI. pag. 343—401. — 2. Fol. 18. r.—21. r.: *Narratio de splendissima urbe Irem*; vid. MI Noctium edit. Bûlâq. vol. I. pag. 451—454., edit. Habicht. vol. VII. pag. 171—175. — 3. Fol. 21. v.—28. v. med.: قصة بشر العابد مع عند رحيمنا الله، *Narratio de amoribus Bischri et Hindae*. Initium: يقال ان اول عاشق كان في الاسلام فتى من العرب، اسمه بشر بن حازم من بنى جيبينة من عرب الحجاز، 4. Fol. 28. v. med.—31. v.: حكاية وصاح اليماني مع خيم القصور ابنة الملك مكاييد واسمه زهر الرياض رحيمنا الله، *Narratio de amoribus Wadhahî Jemansis et Chair el-qusûrae*, filiae regis cujusdam Indici. Initium: ذكروا والله اعلم بغيبه انه كان فيما مضى من احاديث الامم السائفة ملكا من ملوك الهند، يقال له مكاييد الدهور واسمه زهر الرياض، قصة الجمجمة: 5. Fol. 31. v. lin. antepaen.—35. r. lin. 1.: *Narratio de calva*, quam in itinere offendit D. N. Jesus; eadem, quae versibus Turcicis expressa legitur in cod. Biblioth. Senat. Lips. CCCXV, 6. — 6. Fol. 35. r. lin. 2.—47. v.: حديث الورد في الاكام، *Narratio de amoribus el-Ward fi-lakmâmae*;

vid. MI Noctium edit. Bûlâq. vol. I. pag. 546—562., edit. Habicht. vol. V. pag. 34—95. — 7. Fol. 47. v. lin. antep.—48. r.: حديث ابلوس، *Narratio de Ibliso et Nûho* (Diabolo et Noacho). — 8. Fol. 48. r.—50. v.: *Narratio de genio et fascinatrice*.

CCXXXV.

(N. 137. in 4to; olim N. 15. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 48. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi medioeriter scriptus, continens *Historiam Meg'nûni et Leilae*, narratam ab *Abû Bekro el-Walibî*, subjunctis carminibus, quae tribuuntur Meg'nûno. Titulus fol. 1. r. inscriptus: اخبار مجنون ليلى واشعاره واسمه قيس بن الملوح العقيلي ما عنى بجمعه وتدوينه العلامة ابو بكر الوالى رحمه الله ام، Initium libri, fol. 1. v., post Bismelam et 'Hamdalam: قل ابو بكر الوالى كان من حديث مجنون بنى (sic) عامر وليلى العامرية انها كانت ابنة عمه الخ، Subscriptio finalis, fol. 47. v. extr. 48. r.: قل ابو بكر الوالى رحمه الله عدا من جملة ما تنالنا اليينا من اخبار المجنون واشعاره وما كان بخولا من قصيدة او خبر امرضنا عن كتبه والله تعالى اعلم بالصواب الخ،

CCXXXVI.

(N. 40. in 8vo; olim N. 80. in 8vo.)

Codex in 8vo minore, foll. 110. chartae Europaeae, char. Neschi bene scriptus. Hoc volumine continentur:

I. Fol. 1—41. *Historia fabulosa 'Haigârî*, Persici philosophi, qui San'hârîbi actate vixisse fertur. Fol. 1. r. inscriptum est: "L'histoire d'Aykar; c'est une fable Arabe fort belle;" et alia manu exaratum: "Ex libris Sancti Montis Carmeli. 1670.;" infra denique priore illa manu: "Ce Liure â esté appliqué par N. R. P. Prouinçial a nostre Bibliotheque de Paris." Initium libri, fol. 1. v.: نبتدى بعون الله الخ، قصة حيقار الحكيم الفارسي الفيلسوف الماهر

*) Praefixus est codici titulus, qui sic se habet: "Ignoti auctoris collectio historiarum et sermonum memorabilium. Arabice, ex Africa."

الذى كان على أيام سخاريب الملك ملك الموصل ، كان في أيام سخاريب ابن سرحادوم ملك أنور ونيينوا الحكيم الماهر ، حيقار الفارسي الخ ، Inseruntur fol. 4. v.—13. r. apophthegmata 'Haiqâri (امثال حيقار). Clauditur liber fol. 41. v., ubi triplex legitur subscriptio, prima Arabica: ما انتيا ابينا من خبر حيقار ، للحكيم الخ ، altera Arabica, sed char. Syriaco exarata: للحمد للرب العالمين امين ، ; tertia Gallica: "Ecrit par le Koury**") Shahedeh prestre Surien en Alepp." — Hanc narrationem in suam editionem interpretationis Gallicae MI Noctium recepit b. Caussin de Perceval, vol. VIII. pag. 167. sqq.; conf. Germanicam interpretationem, Wratislaviae editam, vol. XIII. pag. 86—126. — Foliis 42—46. nihil est inscriptum.

II. Fol. 47—61. Sectio bipartita, alia manu et minus bene scripta. Pars prior hanc habet inscriptionem, fol. 47. r.: "Ce liure est curieux; ce sont diuerses prieres Arabes, que font les [Pre]stres en Ensevelissant les Chrestiens orientaux, en forme d'Exhortations pathetiques;" et fol. 47. v.: بسم الله الواحد الايدى ، الازنى السمرمدى وبه نستعين ، ترتيلة تقال في جنواز

*) Sic pronuntiatione Syriaca in hoc codice usitata.

***) I. e. الخورى ، parochus.

المكاعن*) وفي أربعة وعشرين بيتًا ، incipiens fol. 54. v. lin. 5., continet consolationem de liberis mortuis: تعزية للاولاد المنتقلين. Subscriptio, fol. 61. v.: "Ecrit par le Shiammas Aslan le gret" (sic) "en Alepp." — Folia 62. 63. nihil habent scripti.

III. Fol. 64—91. *Vigiliae* in honorem S. Virginis, eadem manu scriptae, qua codicis sectio prima. Fol. 64. r.: "Seherat ou Vigiles, c'est a dire de fort belles Louanges de la ste Vierge, que les suriens chantent en Alepp," cet. Initium, fol. 64. v.: نكتب بسم الاب الخ ، ترتيب خدمة المديح الذى لا يجب ان يجلس فيه وهو لسيدتنا والدة الله الخ ، Subscriptio, fol. 91. r.: كملت السهرانه الخ ، et infra: "Cela à este Ecrit par le koury Shahedeh Prestre surien d'Alepp." Fol. 91. v.—95. r. nihil scriptum est.

IV. Fol. 95. v.—110. v. *Hymni, καθίσματα* [sessiones] nominati, qui in cod. nostro LXXVII. leguntur. Inest lacuna post fol. 102. a medio hymno VII. usque ad finem hymni XIII.; hymni vicesimi initium tantum adest**).

*) I. e. في جنازة الكينة. formae sunt linguae Arabicae recentiori propriae.

**) Turbatus est a bibliopego foliorum ordo; fol. quod nunc est 98. collocandum erat ante fol. 97., similiterque fol. 100. ante fol. 99.

CODICES POETICI.

CCXXXVII.

(N. 138. in 4to; olim N. 2. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 209. chartae orientalis laevigatae, partim albae, partim rubicundae, char. Nesehi pulchro et antiquo scriptus, corpus poetarum Arabicorum vetustissimorum continens, quod vocatur: كتاب الحماسة *el-Hamâsa*, collectum a clarissimo poeta *Abû Temmâm*. Fol.

1. r. leguntur titulus et decem capitum index; ipse liber incipit fol. 1. v. Vocalium signa per maximam codicis partem adjecta sunt, annotationes rarissime. Subscriptio finalis, fol. 201. v., absolutum esse docet hoc exemplum Damasci, mense Rebi' priore a. 738. (Chr. 1337.), a Ja'qûbo bin Jûsuf bin Abi-Imâhâsin, scriba. Accedunt fol. 202. r.—209. r. supplementa nonnulla ad Hamâsam et varia excerpta, cum

soluta oratione scripta, tum ligata, eadem, qua totus codex, manu exarata, e Mutenebbio, e collectaneis Taqijj ed-dîni bin Ma'hibûb, e scriptis 'Hasani el-Bazrî, cet. — Codex a b. von Haven Constantinopoli emtus; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, T. II. pag. 40. n. 13.

CCXXXVIII.

(N. 139. in 4to.)

Ejusdem 'Hamâsae apographum Reiskianum, cum scholiis, in 4to. Titulus codici praefixus hic est: "Hamasa Abi Temami cum scholiis excerptis Merzukii*) et Tebrizii; descripsit Jo. Jac. Reiske e cod. msto arabico Bibl. Leidens. n. 569.**)" Ipse liber occupat paginas 765. Subscriptio Reiskii: "Absolvi per Dei gratiam d. 12. Maji 1740." Conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 159. n. 14.

CCXXXIX.

(N. 41. in 8vo.)

Altera collectio carminum Arabicorum, quae innotuit sub nomine *'Hamâsae posterioris*, congesta ab *Abû 'Ubâde' el-Welîd bin 'Ubeid el-Bu'hteri***)* et e codice Lugdunensi†) Reiskii manu descripta, in 8vo. Titulus codici prae-

*) Annotavit Reiskius ad nomen Merzukii: "obiit anno 421."

**) In Catal. Bibl. Lugd. impresso n. 1569. Exaratus est is a. h. 704. — In margine Reiskius inter alia annotavit: "Haec est Hamasa orientalis. At Hamasa occidentalis est: صفوة الأدب وديوان العرب لأبي العباس أحمد بن سلام الهروي الأديب، d'Herbel. p. 797. a." Quae corrigenda ex parte ex 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 104.

***) Haec nobis verissima nominis forma visa est. Alios videmus scribere Abû 'Abbâde vel Abû 'Ibâde, quod minus probamus. In efferendo cognomine Bu'hteri secuti sumus auctoritatem libri Raudh el-achjâr, Bibl. Reg. cod. CCX.; Sujûtius tamen in libro Lubb el-lubâb formam Bu'hteri tantum commemorat.

†) Vid. Catal. Bibl. Lugd. impressum, n. 1570.

fixus*) hic est: كتاب الحماسة تأليف أبي عبيدة الوليد ابن عبيد الجعفرى اختاره من اشعار العرب لفتح بن خاقان معارضته لكتاب الحماسة الذى انقده ابو تمام حبيب بن اوس انشأه، رواية ابي العباس احمد بن محمد المعروف بابن ابي خلد ، الاحول عن ابيه عن الجعفرى ، "Hamasa posterior, quam Abu 'Obadah el Walid filius Obeidi Boh-tarita e carminibus praestantissimorum poetarum Arabum selegit jussu et in usum el Fatah filii Chakan, ad exemplum Hamasae prioris, quam collegit Abu Temam Habib filius Aus, Thajita; ex editione Abil Abbas Ahmed, vulgo Ibn Abi Chaled Paeti, quam hic publicavit ex fide sui patris, qui librum hunc studuerat, explicuerat et explicari audiverat sub et ab ipso Boh-tarita." — Folium sequens in pagina priore carmen Arabicum exhibet, cui inscriptum est: للجعفرى فى الفتح بن خاقان. Collectionis capita CLXXIV. paginas occupant 367. Pag. 368. subscriptio legitur codicis Lugdunensis. Infra annotavit Reiskius: "Nulla aderat nota scribae aut anni. Ego vero absolvi d. 10. Septembr. 1740." Conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 164. n. 32. — Ceterum de Bu'hterio praeter 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 115. et 266. sq. vid. clar. Freytagii Selecta ex hist. Halebi, pag. 92. sqq., et Hamakeri Spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 15. n. 48.

CCXL.

(N. 42. in 8vo.)

Collectio carminum, quae vulgo vocatur *Diwân Hudeilitarum*, cum commentario *es-Sukkarîi*, a Reiskio e codice Lugdunensi**) descripta, in 8vo. Titulus atque subscriptio finalis in hoc codice desiderantur; sed in dorso ligaturae Reiskii manu, ut videtur, scriptum est: "Diwan Hudeil." Conf. etiam Reiskens Lebensbeschr. pag. 163. n. 25. Totus liber

*) Praecedunt titulum folia duo, quibus annotationes nonnullas et sententias Arabicas inscripsit Reiskius.

**) Vid. Catal. Bibl. Lugd. impressum, n. 1619. — De Sukkarîo vid. ad cod. nostrum CCL.

occupat paginas 341. Initium, pag. 1., post Besmelam:

شعر مالك بن النخث ،
تقول العاذلات أدلَّ يوم ، لسرَّبة ملك عنق شحاح ،

Annotationes Reiskii passim adscriptae sunt.

CCXLI.

(N. 140. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, cui praefixus hic titulus: "المعلقات السبع" *Septem Moallekat* seu Carmina Poetarum quorundam Arabum Paganorum ante Muhammedem ob praestantiam suam communi suffragio in templo Meccano suspensa. Cum Commentario Abi Zacaria Jalij" (sic) "Tebriziensis. E codice Warneriano Bibliothecae Academ. Leidensis *) descripsi. Jo. Jac. Reiske. Lugd. Batav. 1738. mense Nov. Dec." In margine hujus folii et in praecedentibus duobus atque insequente folio varias annotationes exaravit Reiskius; ipse vero liber occupat paginas 281. Pag. 1. incipit "Tebrizii in suos ad septem Moallekat Comm. Praefatio"; pag. 2. Amru el-Qaisi carmen; pag. 58. Tarafae; pag. 101. Zuheiri; pag. 128. Lebidi; pag. 175. 'Antarae; pag. 211. 'Amri; pag. 246. el-Hâriði. Codex Lugdunensis, teste subscriptione finali, pag. 281., absolutus est mense Szafer a. 1016. (Chr. 1607.) Adscriptae sunt annotationes Reiskii permultae. In fine codicis, pag. 282. sq., idem adjicit "Nahasi**)" ad Carmen quintum aliquot notas, quas propter angustiam margini non potuit adscribere." — Conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 160. n. 15.

CCXLII.

(N. 141. in 4to; olim N. 73. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 126. chartae orientalis laevigatae, partim char. Neschi, partim char. Nesta'liq scriptus, *collectionem* continens poë-

*) Vid. Catal. impressum, n. 1560.

***) I. e. التماس ، de quo vid. Ibn Challikân, edit. de Slanc. vol. I. pag. 41. sq.

matum, in Oriente maxime celebratorum. Foliis 1. r.—5. r. varia inscripta sunt, et Arabica et Turcica, ab ipsa illa collectione aliena, traditionem prophetica spectantia, preces, disticha atque alia. Deinde sequitur:

I. Fol. 5. v.—7. v. *Et-Tantarânii* carmen notissimum, a clar. Silvestre de Sacy in Chrestomathia Arabica editum.

II. Fol. 8. v.—13. v. Clarissimum *el-Bûsirii* carmen, quod vocatur *el-Burde*.

III. Fol. 14. v.—15. r. Carmen *Taqijj ed-dini es-Subkî*, char. Nesta'liq scriptum, 'cum introductione filii ejus, Tâg' ed-dini es-Subkî. Initium carminis:

صرفتُ الى ربِّ الآلام مَعالِي ، ووجَّهتُ وجنبي نحوه ومآربي ،

De utroque scriptore vid. F. Wüstenfeld, die Academien der Araber, pag. 37. sqq. 40. sq.

IV. Fol. 15. v.—17. r. *Ka'bi bin Zuheir* carmen laudatissimum, cujus prima sunt verba: بانئت سعاد ، a cl. Freytagio editum.

V. Fol. 21. v.—22. v. Poëma Arabicum, quod *Surata psalterii* appellari solet, de quo vid. Fleischerus in Catal. Bibl. Senat. Lips. pag. 434. col. 2. 535. col. 1.

VI. Fol. 23. v.—24. v. Poëma, quod appellatur: القصيدة المنفرجة ، de quo vid. 'Hâg'î Chalfa, vol. IV. pag. 551. sqq. et Fleischerus, II. II. Incipit illud in apographo nostro ab eo versu, qui alibi quintus est:

اشتدَّى أزيمة تنفرجى ، قد آذن ليلىك بالبلج ،

VII. Fol. 25. v.—27. v. lin. 2. Poëma *Abû-lfat'h el-Bustî*, de quo egit 'Hâg'î Chalfa vol. IV. pag. 533. n. 9450., a Baillie in libro the 5 Books upon Arab. Grammar editum, vol. III.

VIII. Fol. 27. v. med.—29. v. Poëma theologicum, auctore *Sirâj' ed-dîn 'Alî bin 'Uðmân el-Ûschî el-Ferghânî*, quod a primis ejus verbis vocatur: قصيدة يقول العبد ، a b. Petro a Bohlen editum est sub titulo: Carmen arabicum, Amâli dictum, breve religionis Islamiticae systema complectens. Regiom., 1825. 4to. Conf. 'Hâg'î Chalfa, vol. IV. pag. 558. sqq.; Catal. Bibl.

Senat. Lips. pag. 434. col. 2., ubi tamen rep-
 onendum esse الاوشى pro الاويسى ipse nos edo-
 cuit Fleischerus, laudans Qâmûsum s. v. اوش
 et Sujûtii Lubb el-lubâb s. v. اوشى.

IX. Fol. 30. r. *Preces Arabicae* interpo-
 nuntur, char. Nesta'liq exaratae. Sequitur:

X. Fol. 31. v.—79. r. *Collectio poëmatum
 Chalifae 'Alî bin Abî Tâlib*, quae in praefa-
 tione appellatur: انوار العقول من اشعار وصى الرسول،
 i. e. Lumina mentium, e carminibus mandatarii
 legati divini collecta; char. Nesta'liq scripta.
 Praefationis initium: الحمد لله الذى ذلت لعزته
 الجبابرة وتضععت دون عظمته الاكاسرة،
 Ipsa car-
 mina, secundum rhythmum finalem alphabetice
 digesta, incipiunt fol. 33. v. Aliud ejusdem
 collectionis exemplum exstat in Bibliotheca
 Regia in codice Arabico-Persico, quem recen-
 sebimus infra inter codices mixtos, n. IV.*)
 Subjungitur denique **):

XI. Fol. 82. v.—111. r. *Szafijj ed-dîni
 Abû-lwâhâsin 'Abd el-'Azîz bin Serâjâ bin
 Abî-lqâsim el-'Hillî es-Sunbisi***)* poëma,
 quod vocatur: الكافية البديعية فى المدائح النبوية،
 i. e. carmen de laudibus Prophetarum, institutio-
 nem idoneam exhibens ad artem ornate dicendi,
 cum praefatione. Carminis initium hoc est:

ان جيئت سلعا فسل عن جيرة العلم،

واقتر السلام على عرب بذى سلم،

Conf. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 33. sq. In
 codicibus CCIV. et CCV. singuli versus ejusdem
 carminis in commentario critico inveniuntur. —

Accedunt:

XII. Fol. 112. r.—115. v. varia, char. Nes-

sta'liq mediocriter scripta, in his excerpta e
 libro: زبدة الامثال، i. e. *Cremor proverbiorum*,
 auctore: المولى مصلح الدين التلسولوى (?); recens
 verborum significationis oppositae: كلمات شتى
 من الاتعداد جمعتها وترتيبها كما هو المعتاد،
 tractatus denique Arabicus, cui Turcice inscriptum:
 مرحوم وغفور الشيخ وفا قدس سره حضرت تالرينك اعتقاده،
 متعلق رساله سيدر، — Fol. 125. v. preces
 nonnullae et alia leguntur, pessime exarata.
 Reliqua nihil continent scripti.

CCXLIII.

(N. 52. in fol.; olim N. 43. in fol.)

Codex in fol., foll. 85. chartae, ni fallimur,
 Europaeae, char. Africano recentiore satis bene
 scriptus, *anthologiam poëticam* continens. Fol.
 1. r. lingua Hispanica, sed char. Rabbifico
 inscriptum est: "El nombre de este libro es
 onde gabla el discreto gablas bien iguales como
 en ---; tambien cantares diferentes y so-
 nes (?) diferentes." Fol. 1. v. disticha leguntur
 duo, ex ipsius collectionis insequentis initio
 repetita. Fol. 2. r. praemissa Hamdala hunc
 exhibet titulum: هذا كناش محتوي على مقطعات اشعار
 وقصايد للمتنبى الى الطيب وغيره وبعض صنيعات
 وتوشحات واعرابي وموال وغير ذلك مما ذكره والسلام،
 Paulum diversa est inscriptio fol. 2. v.: كناش
 مشتمل على مقطعات من الاشعار وبعض قصايد من ديوان
 المتنبى عفا الله عنا وعنه الخ، Sequuntur deinde poë-
 mata varia, Mutenebbii maxime. Fol. 62. r. in
 fine paginae annotatur: انتهى ما حضر للكاتب من
 قصايد المتنبى الخ، Clauditur codex fol. 85. r.

CCXLIV.

(N. 142. in 4to; olim N. 64. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 143. chartae laevigatae,
 char. Neschi satis bene scriptus, continens
*collectionem poëmatum Schihâb ed-dîni 'Ahmed
 bin el-'Husein, vulgo Ibn el-'Alif dicti, et
 majorum ejus posterorumque*. Fol. 2. r. legitur
 titulus: ديوان للشيخ - - شهاب الدين احمد العيلف
 المدنى، nulla propinquorum ejus commemora-

*) Conf. Wiener Jahrb. vol. XCVII. Anzeigebl. pag.
 25. n. 167.

**) Foll. 80. et 81. nihil continent scripti, nisi quod
 fol. 81. v. lineae nonnullae Turcaicae orationis le-
 guntur, char. Nesta'liq male exaratae, quibus sub-
 scriptum est, si bene legimus: من مولانا النبى رحمه
 الله تع،

***) السنسبى; sic legitur in cód. nostro; at Sujûtius
 in libro Lubb el-lubâb habet: السنسبى.

tione facta et corrupto Schihâb 'ed-dîni nomine, quod rectius in praefatione scribitur: الحمد لله على العلي بن العبدانى اليمى ثم الحسين الشهير بابن العلي بن العبدانى اليمى ثم الملكى ثم الملكى الشهير بشاعر البطاحا ، الحمد لله فى الابتداء والختم والصلوة الخ ، Promittit collectionis auctor, cujus nomen nos latet: ما تيسر من كلامه (كلام شهاب الدين i. e. وكلام اسلافه الكرام واخلافه ، Ipsa poëmata, alphabetice digesta, incipiunt fol. 3. r.; desinit liber fol. 141. v. Sed folia 140. et 141. recentiore manu suppleta sunt. Fol. 142. r. et v. nonnulla inscripta sunt, quae ad collectionem nostram non pertinent, in his auctoris anonymi poëmation.

CCXLV.

(N. 143. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 47. chartae Europaeae, char. Africano recentiore atramento pallido male exaratus, *anthologiam poëticam* continens, in tres sectiones divisam. Sectio prima, fol. 1. r.—18. v., omitta Besmela hanc habet inscriptionem, quae hominem in litteris plane rudem prodit: وعاد من صبع المنسريح ، Primi carminis initium *):

سلام على الاحباب فى القرب والبعد ، سلام كما عاب المنسيم على الورد ، Poëtarum nomina non laudantur. Subscriptio, fol. 18. v.: كمل عهدا الكناس بحمد الله وحسن عونه ، — Sectioni secundae, fol. 19. r.—28. v., inscriptum est: وعادا ما تكتب من عرف اعجم الى اعرف ، اعرب مخلوف من المايه ، Subscriptio priori similis. — Inscriptio sectionis tertiae, fol. 29. r.—47. r.**): وعادا ما يستعمل من الخراج المشرف من البرون منه ايضا ، كمل عهدا ، الكناس الذى كان فيه من طبع الخزار (?) المشرق وله ايضا من رمل المايه وله ايضا من غربت الحسين وله ايضا كمل بحمد الله وحسن عونه امين ،

*) Cfr. cod. CCXLVII. fol. 69 v. sqq.

**) Fol. 46. r. tamen nihil continet scripti.

CCXLVI.

(N. 144. in 4to, olim N. 75. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 52. chartae Europaeae, char. Africano mediocriter scriptus, *Collectanea poëtica* continens. Undecim folia priora et foll. 41—44. 46. r. 47. r. 52. r. recentiore manu eaque pessima suppleta sunt; foll. 1. v. 10. v. 40. v. 52. v. nihil est inscriptum. Neque titulus adest, neque subscriptio finalis, et ipsius poëmaticis primi initium mutilum est.

CCXLVII.

(N. 145. in 4to; olim N. 77. in Svo.)

Codex in 4to, foll. 114. chartae orientalis, char. Africano mediocriter partimque pessime a diversis hominibus scriptus, usu valde tritus, *Collectanea* continens *poëtica* ejusdem fere erotici argumenti, cujus sunt duo nuper commemorati. Praemissis fol. 1. r.—4. r. versibus iisdem, quos habet cod. antec. fol. 1—4. r., fol. 4. v. post Besmelam sequitur haec inscriptio: وهذا كناس مجتمع على تجايب وغرايب ، quam excipit poëma, cujus hoc est initium *):

فاح الورد والسوسان ما بين الغصان ،

Alia deinde leguntur poëmata usque ad finem fol. 98., ubi notatur: انتيت ، Alia adduntur poëmata, fol. 99. r.—114. v., cum introductione, soluta oratione scripta. Sed haec omnia pessime scripta, ita ut legi vix possint.

CCXLVIII.

(N. 43. in Svo.)

Codex Reiskianus bipartitus, in Svo. Pars prior *Anru el-Qaisi carmina* continet. Praemissis annotationibus nonnullis, hunc Reiskius praefixit titulum: ديوان امرئ القيس ابن الحجر الكندى ، "Amrælkeisi, Principis Cenditae, Muhammedis coetanei, Carmina, ex recensione Abi Osamah; descripsi e Cod. MS. Legati Warneriani n. n.

*) Cfr. fol. 4. v. cod. antec.

901. n. v. 528.*) in Bibliotheca Leidensi, mense Febr. 1739." Ipsa carmina cum praefatione occupant paginas 1—104. Primo loco posita est Mu'allaga Amru el-Qaisi; quam excipit reliquorum poematum corpus, cujus editio debetur clar. Mac Guckin de Slane. In fine legitur subscriptio codicis Lugdunensis, a. h. 545. (Chr. 115^o.) exarati.

Altera codicis pars hunc habet titulum, paginae 1 inscriptum: "Epicedia vetusta, ex Recensione Ibn Alarabi,**) et collectione Weziri Ilkamel, Abilkasem Hosein." Occupant haec poemata, a diversis poetis condita, paginas 3—35. Unde ea depromserit Reiskius non adscripsit, neque eorum fit mentio in vita Reiskii, Germanice scripta, pag. 165. ad n. 39.

CCXLIX.

(N. 44. in 8vo; olim N. 39. in 8vo.)

G'elâl ed-dîni es-Sujûti in clarissimum poema Ka'bi bin Zuheir Commentarius, qui vocatur: i. e. كتاب كنه المراد في بيان بانث سعاد ، Ultimus terminus desiderii, commentarius in carmen بانث سعاد; codex in 8vo, foll. 105. chartae orientalis laevigatae, partim albae, partim variis coloribus tinctae, char. Neschi bene scriptus. Fol. 1. r. legitur titulus. Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الذي جعل قصيدة كعب ، على ناطقها ابرك كعب ، Commentarius incipit fol. 6. v., absolvitur fol. 105. v. Exaratus est codex mense Scha'bân a. 1116. (Chr. 1704.); librarii nomen: موصيف (sic) بن محمد الشيبير بابن الوكيل الملووى (المووى?) ،

*) In margine adscriptum est: "p. n. 476. p. v. 365.", quod respicit Catalogos Bibl. Lugd. Vid. Catal. impressum, pag. 476. n. 1665.

***) ابن الاعرابي; vid. vitam ejus apud Ibn Challikân, edit. de Slane, vol. I. pag. 690. sqq.

CCL.

(N. 45. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, quo continentur post praemissa folia duo, annotationibus repleta:

I. *Corpus poematum G'eriri bin 'Atijja Temimitae*, mortui a. h. 110. (Chr. 72^o.), de quo vid. Ibn Challikân, edit. de Slane vol. I. pag. 150. sqq., coll. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 270. Titulus, Reiskii manu scriptus, hic est: "Pars Prima [ع] الاول من ديوان جرير بن عطية ، Operum Poeticorum Gzeriri. Recensuit et scholiis illustravit Abdolwahed Ben Isa Nagzirien-sis. Descripsi ex optimo et antiquissimo Codice Warneriano.*) Lugduni Batavorum, mense Maio 1739." Sed altera pars non desideratur; incipit ea pag. 161. Totus liber paginas occupat 320. Annotationes multas in margine adscripsit Reiskius, idemque in fine annotavit: "Quod sequebatur, quia ad finem vergebat, et cum aliis sequentibus hinc illinc legi amplius non poterat, chartis humore compactis, describere nunc neglexi. In Bibliotheca Batava, d. 22. Julii 1739."

II. *Schanferae poema clarissimum*, a b. Silvestre de Sacy in Chrestomathia Arabica editum, cujus haec est inscriptio: لامية العرب ، "Schanfarii vetusti Poetae Carmen Lamicum Arabicum cum brevissimis scholiis. Descripsi e Codice Warneriano Bibliothecae Lugduno-Batavae.***) Joan. Jacob Reiske. Leidae d. 19. et 20. Martii 1739." Ipsum carmen cum subscriptione codicis Lugdunensis folia occupat tria; in margine et in dorso tituli nonnulla annotavit Reiskius.

*) In margine legitur: "n. nov. 633. p. 475. n. vel. 350. p. 350." — Conf. Catal. Bibl. Lugd. impressum, pag. 475. n. 1624.

***) In margine: "Codex legati n. 65. p. 322. vet. Cat." Novi catalogi numerum et paginam non adjecit Reiskius; sed vid. Catal. impressum pag. 474. n. 1613. Conf. praeterea Reiskens Lebensbeschr. pag. 169.

III. *Corpus poëmatum Tahmâni bin 'Amr Kilâbitae*. Titulus: ديوان طيمان ابن عمرو الكلابي. "Dahmani fil. Amru Celabitae, Poetae ex incunte secundo post Muhamedem saeculo Carmina. Recensuit et brevibus scholiis illustravit Succariensis. E Codice Warneriano Bibliothecae Leidensis *) desumsi. Lugd. Bat. 1739. 22. 23. Mart." Occupant ea poëmata folia septem. Glossae adscriptae sunt in margine.

Accedit in fine codicis praeter annotationes nonnullas, ultimo folio inscriptas, initium "Vitae Sukariensis, Auctore Anonymo, ex Schemata praemissa Diwan Hudeil, difficillime scriptae." Integrum ea exhibet nomen Sukkarii: الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العلاء بن ابي صفره المعروف بالسكري أبو سعيد، Natus est a. h. 212. (Chr. 827.)، mortuus a. 275. (Chr. 889.) — Ceterum de codice nostro conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 164. n. 31.

CCLI.

(N. 146. in 4to; olim N. 33. in 8vo.)

Prima pars corporis poëmatum Abû -l-'Ab-bâsi' Abd allâh, 'Abbâsidae, notissimi sub nomine Ibn el-Mu'tazzi: codex in 4to, foll. 101. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter et a diversis fortasse hominibus scriptus. Fol. 1. r. legitur titulus: ديوان ابن المعتز استاد اشعرا، والبلغار حه الله امين، Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الملك الوهاب الغفور انتواب، Continet praefatio variorum narrationes et judicia de poeta nostro, nato a. h. 247. (Chr. 861.)، mortuo a. 296. (Chr. 908.); ejus quoque scriptorum pars enumeratur; quorum tituli cum iis non omnino consentiunt, quae recenset Ibn Chalikhân in vita Ibn el-Mu'tazzi, edit. de Slane vol. I. pag. 363. sqq. Et hic quidem allegantur: انصيد — مفاكية الاخوان، — زهر الريان، — و الجوارح، et طبقات اشعرا، Ipsa collectio, cujus

*) In margine: "cod in 4to, num. legati Warn. n. 333. p. 348 vet. Cat." Vid. Catal. impressum pag. 475. n. 1627.

pars prima sequitur, in decem capita divisa est, diversa poëmatum genera (فنون) complectentia et alphabetice digesta, quorum tria hic continentur: المديح، الغزل، والفخر. Editoris nomen legitur in limine capitis primi: هذا ما جمعه الشيخ الامام اخذت النيام الصوت بعد واثته*)، الفن الاول، في الفخر، وفيه الالف، In fol. 56. et fol. 58—100. carmina marginem quoque occupant; subsistit vero codex versus finem capitis tertii, quo carmina encomiastica continentur. Fol. 101. nonnulla inscripta sunt, quae huc non pertinent.

CCLII.

(N. 53. in fol.; olim N. 10. in fol.)

Altera pars poëmatum ejusdem Ibn el-Mu'tazzi, in fol., foll. 144. chartae orientalis laevigatae char. Neschi distincte scripta, sed madore laesa. Fol. 2. r. inscriptus est titulus: الجزء الثاني من شعر ابي العباس عبد الله ابن المعتز بالله، وفيه المديح والخمريات والغزل والنزهة والشبيب، capitum ordo diversus est ab ea recensione, quam sequitur codex praecedens; sic enim in hoc codice disposita sunt: Cap. I. المديح fol. 2. v.—31. v., quae poëmata in ordinem alphabeticum digesta fol. 72. v.—100. v. cod. praeced. inveniuntur: Cap. II. الخمريات fol. 31. v.—75. r.; Cap. III. الغزل fol. 75. r.—fol. 126. r., quae in cod. praeced. fol. 43. v.—fol. 72. v. leguntur; Cap. IV. النزهة والشبيب fol. 126. v.—fol. 144., ubi subscriptio finalis legitur: تم شعر أبي العباس [س عبد الله] ابن المعتز بالله تامة كاملا والحمد لله الخ.

CCLIII.

(N. 147. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, continens *Ibn Dureidi carmen* clarissimum, ab Ever. Scheid- dio, Agg. Haitsma et L. N. Boisen, Dano, editum.

*) Vacuum est spatium inter voces النيام et الصوت. Ipsum nomen enim ante cognomen esz-Szauli aut esz-Szüli minio exarare neglexit librarius. De pronuntiatione cognominis الصوت vid. Sujûlii librum Lubb el-lubâb, edit. Veth. pag. 163.

Titulum codici praefixit Reiskius duplicem, alterum Latinum, Arabicum alterum: "Venustum ac illustre Poema Ibn Doreid cum scholiis excerptis Ibn Chaluwiae*) et Lachamaei, e duobus Codd. MSS. Bibl. Leidensis descripsi m. Majo 1739. Jo. Jac. Reiske". كتاب المقصورة الدرديدية من انشا الشيخ ابي بكر محمد بن الحسين بن دريد الازدي شرحه ابو عبد الله الحسين ابن خالوية وثم من نسخة عني بشرحه القاضي ابو سعيد الحسن السنيرافي، Codices Lugdunenses, quibus usus est Reiskius in concinnando hoc libro, codices esse debent Catal. impressi 1591. et 1592., continentes commentarium Ibn Chälaweihii, et 1593., qui commentarium Ibn Hischâmi el-Lachmi exhibet. Folio, quod excipit titulum, annotationes nonnullae inscriptae sunt, e codicibus Lugdunensibus depromptae. Ipsum carmen cum praefatione commentatoris occupat fol. 4—30. Scholia nonnulla leguntur in margine. — Accedunt in fine codicis ejusdem *Ibn Dureidi carmina nonnulla*, in quibus voces diversae significationis, sed formae similis et exitu tantum in vocalem brevem aut longam distinctae, artificiose copulantur. Titulus: كتاب المقصور والممدود نظماً انشا الشيخ -- ابي بكر -- بن دريد الازدي. Infra adjecta est series virorum doctorum, quorum fide genuina ejus libelli forma inde ab Ibn Dureidi tempore propagata est. Quinque paginas occupant carmina. Initium carminis primi:

لا تتركنن الى الهوى ، واذكر مفارقة الهواء ،

*) In margine adscriptum est ad nomen "Ibn Chaluwiae": "obiit a 370. v. Randh p. 49." Et sic corrigendus Herbelotius s. v. Khalouiah. Ceterum pro ابن خالوية Ibn Chaluwiae praestat scribere:

ابن خالوية *Ibn Chälaweihii*; vid. Håg'i Chalfa, vol. I. pag. 356. extr.; et Lachamaei nomen mutandum in *Lachmaei* (الشمي) vid. vitam Ibn Dureidi apud Ibn Challikânun, edit. de Slane vol. I. pag. 698. lin. 3. a fine, et apud Hamakerum in Spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 36. sq; item Prolegomena ad carminis Ibn Dureidi edit. Boisenianam, pag. 24.

CCLIV.

(N. 54. in fol.; olim N. 4. in fol.)

Corpus poematum el-Mutenebbii, in fol., foll. 183. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime exaratum. Titulus inscriptus est fol. 1. r. Incipit liber fol. 1. v. post Besselam his verbis, introductionis causa praemissis: ولد ابو الطيب احمد بن الحسين بالكوفة في كنده سنة ثلاث وثلاثماية وقال اشعر وعوصدي في المكتب فن اول شعره الخ. In fine codicis fol. 183. r. similiter legitur notitia brevis de morte Mutenebbii, mense Ramadhân a. 354. (Chr. 965.) interemti*). Foliis primis scholia nonnulla adscripta sunt.

CCLV.

(N. 55. in fol.; olim N. 3. in fol.)

Idem poematum corpus cum commentario Wähidii, in fol., foll. 437. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Titulus legitur fol. 1. r.: كتاب شرح ديوان ابي الطيب احمد بن الحسين المندي رحمه الله شرحه الشيخ -- ابو الحسن على ابن احمد الواحددي النيسابوري رحمة الله تعالى عليه ام ، الحمد لله على سوايخ. Praefationis initium, fol. 1. v.: وبعد فان اشعر النعم وله الشكر على جلايل انقسم -- وبعد فان اشعر انقا دلام واعلا نظام**). Ipsa carmina et commentarius incipiunt fol. 3. r. Subscriptio finalis, fol. 437. v.: هذا آخر ما اشتمل عليه ديوانه الذي رتبته بنفسه وعوخمسة آلاف واربعماية وعشرون وثنية وتقدر الفراغ من كتابته هذا الشرح في شعبان سنة ثلاث وثمانين واربعماية. Sed hoc de apographo antiquiore intelligendum. paucis post Wähidii mortem annis exarato. Mortuus est is a. h. 468. (Chr. 1076); vid. Håg'i Chalfa, vol. III. pag. 306.***)

*) Legitur quidem in codice nostro: a. 356.; sed minus recte. Vid. Ibn Challikân, edit. de Slane vol. I. pag. 51. sqq; Håg'i Chalfa, vol. III. pag. 306.

***) Recedunt paululum haec verba ab iis, quae laudat Håg'i Chalfa l. l.

****) Apud Casirium vol. I. pag. 74. n. CCCVI. mortuus esse dicitur a. 461.

CCLVI.

(N. 56. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 5. in fol.)

Codex in fol. min., foll. 215. chartae orientalis vetustae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, sed omissis haud raro punctis diacriticis, continens *primam partem ejusdem commentarii in Mutenebbii poëmata*. Praefatio incipit in dorso ejusdem folii, numero non signati, cui inscriptus est titulus, nunc vehementer laesus. Foll. 8—17. recentiore manu suppleta sunt. Annotationes passim adscriptae in margine. Respondet finis hujus partis primae iis, quae leguntur in cod. praecedente fol. 192. v. lin. 1. Conf. cod. CCLIV. fol. 76. v. extr.—77. r. lin. 4. Subscriptio fol. 213. r.: [ع] نجز الجز، الاول من ديوان المنندي بشرحه الخ، Absoluta est scriptio mense Mu'harrem a. 648. (Chr. 1250.)

CCLVII.

(N. 57. in fol.; olim N. 35. in fol.)

Mutenebbii poëmata cum scholiis copiosissimis, et in margine et inter lineas adscriptis; codex in fol., foll. 98. chartae orientalis laevigatae, usu aliquantum tritus, char. Neschi bene scriptus, sed omissis interdum punctis diacriticis. Fol. 1. r. versus quatuor carminis Hafizi leguntur, quorum ultimus hic est:

حافظ أب رخ خود بر در عرو سفله مریز،
حاجت آن بد که بر قاتنی حاجات یریم،

vid. Diwan. Hafizi, Calc. 1791., fol. 90. r. Incipit liber fol. 1. v., desinit fol. 98. r. in medio carmine eo, quod legitur in cod. CCLIV. fol. 180. r.—181. v. Excerpta videntur scholia e commentario maxime Wâhidii, quem exhibent codices praecedentes. Sed non pauca in hoc codice desiderantur carmina.

CCLVIII. CCLIX.

(N. 46. et 47. in 8vo.)

Poëmatum Mutenebbii apographum Reiskianum, duo volumina complectens, in 8vo. Vo-

lumi priori, post praemissum folium unum, annotationibus variis repletum, hic titulus a Reiskio praefixus est: ديوان أبي الطيب المنندي، "Abi Dai'b Motanabbii Arabis inter Principes Poetae Carmina omnia. Cum scholiis excerptis Abil Hoscin*) Ali ben Ahmed Wahediensis. E Codice Warneriano Bibliothecae Leidensis**) descripsi Jo. Jac. Reiske; mens. Martio 1739. Lugduni Batav. Tom. I." Folium sequens inter alia exhibet "Testimonium Abilolae de Motanabbio e Comm. Wahidaci ad 287. lin. antep." Carmina cum commentario occupant paginas 1—214. et 219—350. Nihil tamen deest. Passim adjectae sunt notae, Latine aut Germanice scriptae. Pag. 351. leguntur subscriptio hujus partis, e codice Lugdunensi deprompta, ipsiusque Reiskii notula: "Ego absolvi primam hanc partem die 30. Martii 1739." Pag. 352. nominum indicem continet.

Voluminis posterioris inscriptio haec est: "Pars Altera Operum Poeticorum Motanabbii cum paucis quibusdam scholiis Wahidaci. E Codice" cet. "mens. Aprili 1739. Leidae." In dorso tituli annotationes nonnullae Reiskii leguntur. Pagg. 353—626. reliquam partem poëmatum Mutenebbii cum scholiis continent atque notis marginalibus Reiskii; pag. 627. subscriptionem finalem codicis Lugd.; pag. 628. notulas aliquot Reiskianas.

CCLX.

(N. 48. in 8vo; olim N. 37. in 8vo.)

Anthologia, e carminibus Ibn el-'Hag'g'âg'î excerpta, in 8vo, foll. 122. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene, sed non eadem manu scripta. Titulus, fol. 1. r. inscriptus: تلخیص المزاج من شعر ابن الحجاج، اختيار

*) Ita Reiskius; sed praestat: Abû -l'hasan.

**) In margine: "Codex in 4to. Num. legat. 230. num. cat. rec. 542." — Vid Catal. Bibl. Lugd. impressum pag. 472. n. 1555.

الاديب الفاضل الاريب الشيخ جمال الدين محمد الشيبه
، المصرى رحمه الله تعالى ،
i. e. Blandimentum temperanti e carminibus Ibn el-'Hag'-
g'ag'i captum; collegit G'emâl ed-din Mu'ham-
med, vulgo Ibn Nebâta (Nubbâta) dictus. Conf.
'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 415. Vitam Ibn
el-'Hag'g'ag'i, mortui a. h. 391. (Chr. 1001.),
enarrat Ibn Challikân, edit. de Slane vol. I.
pag. 228. sq.; conf. quoque 'Hâg'i Chalfa, vol.
III. pag. 244. De Ibn Nubbâta, mortuo a. h.
768. (Chr. 1368.), vid. quae monuimus ad
cod. CCXXIX. Incipit Ibn Nubbatae praefatio
fol. 1. v. his verbis: الحمد لله على جد الزمان وعجزه ،
وحرزن الحال وسهله ،
نجز اختار الموجود من شعر ابن
حجاج رحمه الله وبعد في بعض النسخ زيادة لا ينفق الوقوف
عليها هكذا قل تختصره امام البلغا ملك المتاديين انشيد
جمال الدين ابن نيابة رحمه الله فيما وجد في نسخة عليها
خطه ومنه علقت هذه النسخة السعيدة وصلى الله الخ ،

CCLXI.

(N. 148. in 4to; olim N. 87. in 4to.)

*Collectio carminum clarissimi poetae Abû
-l-'Alâ, quae appellatur: سقط الزند* i. e. Scin-
tillae igniario excussae; codex in 4to, foll.
142. chartae orientalis vetustae laevigatae,
char. Neschi mediocriter scriptus et omissis
saepissime punctis diacriticis, aqua aliquantum
laesus. Nonnulla quidem scholia inter lineas
adjecta sunt, aliaque non pauca in margine
adscripta, in priore maxime codicis parte; non
tamen omnino exsecutus est librarius consilium,
quod indicat titulus, cum annotationibus variis
fol. 1. r. inscriptus: كتاب ايضاح سقط الزند وضمو [ء] ،
من شعر ابى العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان المعمرى ،
Hoc enim nomine designatur Tebrizii com-
mentarius in librum Siqt ez-Zend ipsiusque

*) Ita scriptum est in codice nostro; sed conf. quae
monuimus ad cod. CCXXX.

auctoris commentarius ضوء السقط; vid. codi-
cis sequentis Reiskiani subscriptionem finalem,
pag. 572. Conf. praeterea de ipsa hac collec-
tione et utroque commentario 'Hâg'i Chalfa, vol.
III. pag. 601. sqq. In limine libri, fol. 1. v.
lin. 1—5, brevissima legitur introductio ge-
nealogica et historica, cfr. Ibn Challikân, edit.
de Slane vol. I. pag. 47. sqq.; quam sequitur
usque ad fol. 2. r. lin. 3. inf. prooemium Abû-l-
'Alâi in سقط الزند, vid. cod. sequ. pag. 8—9. *)—
Ipsa carmina incipiunt fol. 2. v.; explicit liber
fol. 140. v. **) In epilogo Tebrizii titulus repe-
titur: هذا اخر ايضاح سقط الزند وضمو [ء] من شعر ابى
العلاء الخ. Accedit fol. 141. r. vita Abû-l-'Alâi,
cui inscriptum est: مولد ابى العلاء. In fine paginae
sequitur subscriptio librarii, quae codicem abso-
lutum esse docet mense Ramadhân a. 523. (Chr.
1129.), ab Abû -l-'Hasan 'Ali bin Nasr b. Mu-
'ammed b. 'Abd esz-Szamad el-Fandûreg'i
(الفندورجى); de quo cognomine vid. Sujûtium in
libro Lub el-lubâb s. v. Foll. 141. v. 142. r. et
v. varia leguntur, quae huc non pertinent, in his
poëmaticis Persicis, punctis tamen diacriticis
destitutum. — Ceterum conf. quae de Abû -l-
'Alâo disputaverunt Silvestre de Sacy in chre-
stom. Arab., edit. 2ae vol. III. pag. 89. sqq.;
J. Vullers in prolegomenis ad edit. Mu'allaqae
'Hâri'i, cui Abû -l-'Alâi carmina duo annexuit.

CCLXII.

(N. 49. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, *Tebrizii com-
mentarium in eandem carminum collectionem*
continens. Post folium unum, cui notulas non-
nullas inscriptis Reiskius, legitur titulus: شرح

*) Fol. 1. v. in margine adscripta est notula, quae
Abû -l-'Alâum natum esse perhibet a. h. 399. Sed
id errore uilitur hominis, qui negligenter textum
inspexerat; natus est poëta noster a. h. 363. (exceunte
a. Chr. 973.), mortuus a. 449. (Chr. 1057.)

**) Turbatus est a bibliopego foliorum ordo; collocanda
enim sunt fol. 75—121. ante fol. 60—74.

ديوان سقط الزند شعر الشيخ العلامة ابي العلاء احمد
ابن عبد الله بن سليمان التتوخى المعرى للشهيد ابي زكريا
، يحيى الخطيب التتري ، Sequuntur: pag. 1. "Te-
brizii praefatio"; pag. 3. "Abilolae *) praefatio
ad Commentarium suum proprium"، المقدمة التى
ذكر ما فى المقدمة من . pag. 6. ; قدما ضوء السقط ،
، pag. 8. ; ختبة سقط الزند ، ، الغريب ،
، Pag. 14. nihil scriptum
est; pag. 15. denique incipit "Carmen Primum
Abilolae a Jacobo Golio ad finem grammaticae
Erpen. editum, p. 228. etc." Sequuntur pag.
35. et 36. a—c. carminis secundi versus prio-
res novem cum commentario. Haec excipit
altera quasi codicis sectio, pag. 1—572., pri-
mum versus illos novem sine commentario
repetens, idem deinde carmen cum commen-
tario ad finem perducens atque sequentia car-
mina persequens. In fine adjecta subscriptio
codicis, ut non dubitamus, Lugdunensis, Catal.
impressi pag. 473. n. 1574. aut 1575.: هذا اخر
، ايضاح سقط الزند وضوء الخ .
hujus commentarii nomen continent. Exaratus
est ille codex a. h. 589. (Chr. 1193.) Ac-
cedunt pag. 573. Genealogia Abù -l-'Alâi
(نسب ابي العلاء) et de natalibus et vita ejus
notitia (مولده) eadem, quæ fol. 141. r. cod. præ-
ced. legitur. Pag. denique 574. et 575. epilogus
legitur Tebrizii, qui in cod. præced. fol. 140. v.
invenitur. — Conf. de cod. nostro Reiskens Le-
bensbeschr. pag. 164. n. 33.

CCLXIII.

(N. 58. in fol.; olim N. 7. in fol.)

*Szalâh ed-dîni Chalil bin İbck esz-Sza-
feli**)* Commentarius in clarissimum poemam
لامية العجم ، compositum ab *Abù Isma'il el-'Hu-
sein bin 'Ali*, notissimo sub nomine *el-'Tughrâi*,

*) Hanc pronuntiationem viris doctis plerisque jam
minus probari notum est.

**) Mortui a. h. 764. (Chr. 136 $\frac{2}{3}$.) Vid. quae de hoc
scriptore disputavit clar. Grangeret de Lagrange,
anthol. Arabe, pag. 134.

mortuo circa *) a. h. 515. (Chr. 112 $\frac{1}{2}$.); codex
in fol., foll. 303. chartae orientalis laevigatae,
char. Neschi mediocriter scriptus. Commenta-
rium appellavit auctor: غيث الادب الذى انسجم
، فى شرح لامية العجم ، i. e. Pluvia studiorum huma-
nitatis, effusa in explicando poemate Lâmijet
el 'Ag'em.***) Paucis eum commemorat 'Hâg'i
Chalfa, vol. IV. pag. 340. sq. Fol. 1. r. legi-
tur titulus partis prioris eleganter exornatus:
الاول من الغيث الذى انسجم فى شرح لامية العجم للامام
- - صلاح الدين خليل ابن ابيك انصافى سقا الله ثراه ،
الحمد لله الذى شرح . Praefationis initium, fol. 1. v.:
صدر من تادب ، ورفع قدر من تأمل العلم وتاحب ،
Introductionis causa vita poetæ enarratur ducibus
Ibn Challikân, 'Imâd ed-dîn, Ibn A'îr aliis-
que fol. 4. r. sqq., cui annexa est tractatio de
Alchymia fol. 5. v.—fol. 8. r.; sequuntur dis-
putatio de nomine carminis fol. 8. r.—fol. 11. v.;
fragmenta ex poësi Togrâi fol. 11. v.—16. r.;
disputatio de العروص et الغافية fol. 16. r.—20. r.,
quam excipit commentarius singulorum versuum
in tres partes divisus: المعنى ، الأعراب ، واللغة . —
Fol. 154. r. et v. subscriptio legitur partis prio-
ris: هنا انتهى الجزء الاول من غيث الادب الذى انسجم
، الخ . Indicatur fol. 154. v. nomen librarii Ibra-
him bin Mu'hammed b. el-Fadhl, et scriptionis
tempus, a. h. 831. (Chr. 142 $\frac{2}{3}$.) — Parti poste-
riori item praefixus est titulus ornatissimus, priori
similis, fol. 155. r. Totus liber clauditur fol. 303.
r., ubi subscriptio legitur, priori simillima.

CCLXIV.

(N. 119. in 4to; olim N. 31. in 4to.)

Collectio carminum, quae composuit *Abù
'Abd allâh 'Ahmed bin Mu'hammed*, vulgo *Ibn*

*) Ipsi anno 515. mortem ejus assignat 'Hâg'i Chalfa,
vol. I. pag. 255. n. 503.; sed conf. Ibn Challikân
in vita hujus poetæ, edit. de Slane vol. I. pag.
235. sq.

**) Corrigendus est hujus libri titulus apud Hammerum,
Wiener Jahrb. vol. LXIV. Anzeigeb. pag. 2. n. 106.

el-Chajjât (sartoris filius) dictus, Damascenus, mortuus a. h. 517. (Chr. 112 $\frac{3}{4}$.); codex antiquus, in 4to, foll. 137. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptus. De hoc poëta ejusque libro vid. Ibn Challikân, vol. I. pag. 65. sqq.; 'Ilâg'î Chalfa, vol. III. pag. 245.; conf. etiam Casirius, vol. I. pag. 110. sq. n. 373.; sed codex ille Esecrialensis LII. tantum carmina continet, excerpta fortasse e collectione nostra. Fol. 1. r. legitur titulus: ديوان ; الشينج اى عبد الله احمد بن محمد الخياط الدمشقى ، in margine vero recentiore manu adscriptum: هذا ديوان ابن الخياط عليه الرحمة وفي حاشيته كتاب نصيحة الملوك لحنة الاسلام الامام الغزالي برد الله مضجعه ونفعنا بعلومه . Ipsa illa carminum collectio incipit fol. 1. v. Primo carmine celebratur princeps (sic) ابو منصور اتقى ، qui Damascum venit a. h. 487. aut 489. Desinit liber fol. 137. v. Sed in margine inde a fol. 10. r. usque ad fol. 70. v. recentiore manu, eaque satis rudi, alia adjecta sunt, Arabice scripta, quae pertinent, ut in margine tituli annotatur, ad clar. theologi *Ghazâlî* librum, qui vocatur: نصيحة الملوك i. e. Admonitio regum; vid. Flügel in Wiener Jahrbh. vol. XCVII. Anzeigeb. pag. 25. n. 164.*)

CCLXV.

(N. 150. in 4to; olim N. 57. in 4to.)

Corpus poëmatum Nâszî'h ed-dini Abû Bekr A'hmed bin Muhammed b. el-Husein el-Arrag'ânî, in 4to, foll. 297. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. De hoc poëta, a. h. 544. (Chr. 1149.) mortuo, ejusque libro vid. Ibn Challikân, vol. I. pag. 69. sqq.; 'Ilâg'î Chalfa, vol. III. pag. 260. sq. Codicis nostri fol. 1. 2. nihil scriptum est; fol. 3. r. septem leguntur poëmatia a variis poëtis composita. Fol. 4. v 5. r. vita Arrag'ânii enarratur, duce Ibn Challikân. Fol. 5. r. praeterea

inscriptus est titulus: هذا ديوان القاضي الفاضل الاديب ابو (sic) بكر احمد بن محمد بن الحسين الأرتجاني الملقب بأمر*) ان الدين رحمه الله تعالى آمين ، Infra adjecta sunt disticha nonnulla, composita ab ابو انغارات طلايع بن زريك الملقب بملك الصالح**) وزبير مصر ، ابو الفرج عبد الواحد بن نصير أخزومي الشاعر et ab المعروف بالبيغا***) . Carmina alphabetico ordine disposita incipiunt fol. 5. v. Primo carmine celebratur Chalifa el-Mustazhbir billâh. Lacunae subinde exstant in codice nostro, ut fol. 55. r. sq. 99. v. — 100. v. 149. v. 192. r. 235. v. 258. r. 277. r. sq. Explicit liber fol. 294. v.; absoluta est scriptio mense Rehi' secundo a. 1099. (Chr. 1688.), manu 'Hasani bin 'Alî b. A'lmed el-Haddâd el-Mekki er-Rûmî. Disticha nonnulla in fine paginae exarata sunt, folia vero 295—297. nihil continent scripti.

CCLXVI.

(N. 151. in 4to; olim N. 30. in 4to.)

Corpus poëmatum clarissimi ICTi et poëtae Abû 'l-Hasan 'Umâre el-Jemenî, in 4to, foll. 217. chartae orientalis vetustae laevigatae, char. Neschi antiquo optime scriptum. Fol. 1. v. variae leguntur notitiae, de vita et morte maxime hujus poëtae agentes, quarum prima manu Ramadhâni ejusdam el-Ghatîfi exarata et e libro ثمرات الأدواق deprompta est, cfr. cod. CCXV. fol. 11. sq.; alia e Sujâtii libro بغيحة النوعة في نسيقات النحويين واللغة excerpta, de quo vid. Flügel in Wiener Jahrbh. vol. LX. Anzeigeb. pag. 10. n. 329.; tertia denique e Szafedii commentario in Tughrâii poëma Lâmicum, cfr. cod. Bihl. Reg. CCLXIII. fol. 253. r. Uberius de 'Umara egit Ibn Challikân, vol. I. pag. 523. sqq., sed ibi praenomen ejus est Abû Muhammed, contra auctoritatem codicis nostri. Mor-

*) Legendum est ناصح الدين et similiter corrigendum in vita ejus, fol. 4. v.

**) Vitam ejus enarrat Ibn Challikân, vol. I. pag. 335. sqq.

***) Conf. Ibn Challikân, vol. I. pag. 414. sq.; sed ibi legitur: بن نصير pro بن نصر .

*) In cod. nostro CLXXII. hic liber Persice scriptus esse perhibetur.

tuns est a. h. 569. (Chr. 117 $\frac{3}{4}$.), a Szalá'h ed-dino in crucem sublatus. Libri titulus, fol. 2. r.: ديوان شعر ابي الحسن عمارة بن ابي الحسن الحكي ، اليميني الخ. Et similiter fol. 2. v. in limine carminis primi, a. 556. compositi, scriptum est: قال الشيخ الاجل ابو الحسن عمارة اليميني ، Clauditur codex fol. 215. v., ubi in margine carmen aliquod 'Umarae recentiore manu adscriptum est et variorum hominum, qui hoc libro usi sunt, subscriptiones leguntur, in his una, a. h. 604. (Chr. 120 $\frac{3}{4}$.) exarata. Foll. 216. 217. nihil continent scripti.

CCLXVII.

(N. 152. in 4to; olim N. 19. in 4to.)

Corpus poëmatum Kemâl ed-dîni Abû 'Ihasan 'Ali, vulgo *Ibu en-Nebih* dicti et a. h. 619. (Chr. 122 $\frac{3}{4}$.) mortui; in 4to, foll. 47. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptum. Conf. 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 251. Titulus, fol. 1. r. inscriptus: عذا ديوان سيدنا ومولانا القاضي على كمال الدين ابو الحسن بن النبيه الخ. Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الذي بث ارواح العقول في اجساد الصدور. Dedicata est haec collectio Sultâno Muzhaffir ed-din Abû 'Ilat'h Mûsâ, fil. clarissimi Sultâni el-Malik el-'Adil Seif ed-din Abû Bekr bin Ajjûb. Ipsa carmina incipiunt fol. 2. r.; clauditur codex fol. 45. v., exaratus mense Szafer a. 157. (i. e. 1157., Chr. 1744.), a Chalilo ibn es-Sajjid 'Ali esz-Szamâdi (الصمادي). Foll. 46. 47. nihil est inscriptum. — Ceterum conf. Uri ad cod. Bodl. 1297.; Casirius, vol. I. pag. 90. ad codd. CCCXLII. et CCCXLIII., ejusdem poëtae carmina continentes, sed a nostra collectione fortasse distinguendos. In codice nostro carmina alphabetico ordine non sunt disposita, ut in cod. Escorialensi CCCXLIII., si modo fides habenda Casirio.*)

*) Primum carmen codicis Escur. CCCXLIII. legitur in cod. nostro fol. 3. r. sqq.; exeunt tamen versus ejus in litteram v.

CCLXVIII.

(N. 50. in 8vo; olim N. 12. in 8vo.)

Corpus poëmatum clarissimi Abû 'Hafsz 'Omar bin Abi 'Ihasan bin 'Ali, vulgo *Ibn el-Fâridh* dicti et a. h. 632. (Chr. 1235.) mortui; codex in 8vo, foll. 94. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene et accurate scriptus. Vid. vitam ejus poëtae apud Ibn Challikânun, vol. I. pag. 533. sq.; conf. 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 247. sq.; Silvestre de Sacy, chrestom. Arabe, edit. 2a, vol. III. pag. 130. sqq.; Grangeret de Lagrange, anthol. Arabe, pag. 117—121. Collegit haec poëmata 'Ali, auctoris nepos, cujus praefatio incipit in codice nostro fol. 1. v., explicit fol. 23. r. Praefationis initium: الحمد لله الذي خص حبيبه الاسنى بمقام العز والكرامه ، Subscriptio finalis, fol. 93. v.: تم الديوان الشريف الخ. Accedunt fol. 94. r. et v., alia manu exarata, carmina duo, quorum prius composuit 'Afif ed-dinus et -Tilimsâni.

CCLXIX.

(N. 59. in fol.; olim N. 58. in 8vo.)

Alterum ejusdem libri exemplum, in fol., paginarum 124., in charta orientali firma char. Neschi bene scriptum. Praefatio incipit pag. 1., sed recedunt paululum prima ejus verba ab iis, quae e codice praecedente depromsimus. Hic enim legitur: الحمد لله الذي اختص حبيبه الاسنى بمقام قاب قوسين او ادنى ، Ipsa carmina incipiunt pag. 29. Subscriptio finalis, pag. 124.: وقد نجز الغرض من عذا الديوان الشريف على التمام والكمال وقوبل على نسخته بخط ولد الشيخ قوبلت على الشيخ وعلى بذل الجيد والضائقه ، والحمد لله على ذلك وعلقها الفقير على التلماوى بخطه نفسه ، وكان كاتبه وناسخه الفقير - - القس لاوندبوس سالر الحلبى بمدينة روميه الكبرى بتاريخ شهر اب في اواخره سنة . سنتين وسبعماية و الف مسيحيه ، De hoc presbytero Lavendio Sâlim conf. ad cod. Bibl. Reg. CCXXVI.

CCLXX.

(N. 153. in 4to; olim N. 68. in 4to.)

Corpus poematum Behâ ed-dîni Abû-Ifadhli Zuheir bin Mu'hammed bin 'Alî, in 4to, foll. 129. chartae orientalis laevigatae, char. Neschii optime scriptum. Conf. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 252. n. 5445. Titulus, fol. 1. r.: هذا ديوان العلامة العدة البارح البليغ السيد الامام البحر (الخبر) الهمام بها الدين شرف الفضلا سكردان الشعرا والفصحا ابو (sic) الفضل زهير المهلبى ، الحجازى المصرى الخ . Infra praeter alia leguntur poemata duo, quibus celebratur Behâ ed-dînus noster, alterum a Sa'd ed-dîno Ibn el-'Arabî, alterum a Zein ed-dîno el-Ma'hâsinî compositum. In praefatione, fol. 1. v., cujus prima verba attulit Hâg'i Chalfa, auctoris nomen plenius hoc modo traditur: قال الوزير صاحب الفاضل الرئيس البليغ البارح الامام العالم الخبر الهمام بهاء الدين جمال الاسلام مفخر العلم شرف الفضلا سكردان (sic) الشعرا والفصحا ابو الفضل بن زهير (sic) بن صاحب محمد بن انصاحب على بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبى الصالحى ، المصرى الحجازى الازدى . Natus esse dicitur Meccae a. h. 581. (Chr. 118 $\frac{2}{3}$.) Ipse poëta deinde narrat, hoc volumen se collegisse et ordine alphabetico disposuisse carmina, quae condiderit adolescens. Incipiunt ea fol. 2. r., absolvuntur fol. 126. v. Subscriptio finalis, de vita et morte poëtae maxime agens, fol. 127. r. occupat. Mortuus esse dicitur Qâhiraë, a. h. 656. (Chr. 1255.) quocum non consentiunt quae narrat Casirius, vol. I. pag. 139. ad cod. CCCCLXXV., eadem carmina continentem. Exaravit codicem et absolvit mense Rebî secundo a. 1015. (Chr. 1606.) Zein ed-dînus bin Chalil el-Achnâi (الاحنائى). Quae fol. 128. r.—129. v. a diversis hominibus negligenter exarata sunt, ad ipsum librum non pertinent. — Ceterum conf. Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 1448. et Herbelotius s. v. Dhehir.

CCLXXI.

(N. 51. in 8vo; olim N. 29. in 8vo.)

Poëmata in laudem Prophetæ, quibus inscriptum est: هذه القصائد الوتريات i. e. carmina preces lege non praescriptas [الوتر] continentia, auctore Meg'd ed-din Mu'hammed bin Abi Bekr bin Reshid Baghdâdensi, a discipulo Mu'hammed bin 'Abd-el 'Aziz in versus quinarios redacta et edita; cod. in 8vo, foll. 67. chartae orientalis laevigatae, char. Neschii bene exaratus.*) Titulus fol. 1. r.: هذه القصائد الوتريات نظم العالم العلامة محمد الدين محمد بن أبى بكر بن رشيد الواعظ البغدادى رحمه الله تعالى أمين، الحمد لله الذى فضل بعض النبيين . E nonnullis hujus praefationis locis apparet, poëtam in Hispania a. 652, (Chr. 125 $\frac{4}{5}$.) in Aegypto a. 661. (Chr. 126 $\frac{2}{3}$.) vixisse. Praefationem editoris nuper commemorati fol. 3. r.—3. v. sequuntur inde a fol. 3. v. Qaszidæ XXIX. secundum litterarum Arabicarum numerum**), quae singulae XXI. versus continent. Exordium cujusque versus ex more celebrato orientalium tria hemistichia faciunt, auctore Mu'hammede bin 'Abd-ul-'Aziz scriba, discipulo Meg'd ed-Dîni, cujus in praefatione fol. 3. r.—3. v. nomen integrum invenitur: محمد بن عبد العزيز الوراق ابن الشيخ الفقيه محمد الدين ; محمد بن عبد الملك بن شعبان اللخمي الاسكندراني hemistichia illa versum textus quinarium [التخميس] reddunt; vid. Freytag, Darstellung der arab. Verskunst, pag. 408. sqq. — Desinit liber fol. 67. r., ubi subscriptio finalis legitur: كملت هذه القصائد مع تخميسها على يد مكلمنا الحقيير عبد الله الادكالى الخ ; exaratus est codex a. h. 1173. (Chr. 17 $\frac{2}{3}$.)

*) Folia 1—3. recentiore manu minus accurate suppleta sunt.

**) Paenultima littera est لا.

CCLXXII.

(N. 154. in 4to; olim N. 67. in 4to.)

Commentarius in Biszîrii carmen clarissimum, el-Burde dictum; in 4to, foll. 83. chartae orientalis laevigatae, char. Nesta'liq mediocriter scriptus. Commentarii auctorem, cujus nomen in codice nostro non reperitur, discimus ex 'Hâg'i Chalfa, qui vol. IV. pag. 525. sq. e praefatione in commentarium Mu'hji ed-dîni Mu'hammed bin Muszâfa, vulgo Scheichzâde dicti et a. h. 951. (Chr. 154 $\frac{4}{5}$.) mortui, eadem verba laudat, quae leguntur in limine codicis nostri, fol. 1. v. Ipsum carmen cum commentario incipit fol. 4. r., explicit fol. 82. r. Passim adjecta sunt in margine scholia, exordia versuum similia, quae in cod. antec. inveniuntur, versiones Persicae et Turcicae. Specimen exordii versus primi sit:

ما بأل قلبك لا ينفك ذا المـ ،
 مذ بان أهل الحمى والبيان والعلم ،
 وانهل مدمعك القاني بمنسجم ،

Specimen versionis Persicae sit primum distichum:

ای زیاد صحبت یارنت اندر ذی سلم ،
 اشک چشم آمیختی با خون روان کشته بهم ،
 efr. Fleischer cat. biblioth. Lips. p. 434. — Exaravit codicem 'Ali bin Scha'bân a. h. 1034. (Chr. 162 $\frac{4}{5}$.) — E duplici inscriptione fol. 83. r. et v., altera Germanica, Latina altera, hunc librum discimus ad spolia ex expugnatione urbis Budae a. 1686. reportata pertinuisse, et a. 1717. Lehmanno, Krempensium in Holsatia antistiti, dono datum esse.

CCLXXIII.

(N. 155. in 4to.)

Ejusdem carminis el-Burde apographum Reiskianum cum commentario, in 4to. Titulum codici praefixit Reiskius, pag. 1.: "Al Bordah, carmen Arabicum laudes Muhammedis prophe-

tae celebrans, ex gemino codice msto Bibl. Regiae Dresdanae descripsit mense Febr. 1748. Jo. Jacobus Reiske." Idem infra notulas nonnullas adscripsit. Pag. 2. legitur "Particula praefationis ad codicem A. Dresdanum." Est ea praefatio commentarii, quem scripsit 'Ali bin Meg'd ed-din es-Suhraverdi el-Bistâmi, de quo vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 525.) Sequitur pag. 3. "Praefatio ad codicem B. Dresdanum, e quo solo sequentia describemus;" et haec quidem praefatio in commentarium Châliidi bin 'Abd allâh**) el-Azheri; vid. 'Hâg'i Chalfa, l. l. pag. 526. In fine ejusdem paginae ipsum poëma incipit atque commentarius. Explicit liber pag. 25. Subscriptio Reiskii: "mense Febr. 1748." — Conf. Catal. Bibl. Reg. Dresd. n. 219. et Reiskens Lebensbeschr. pag. 165. n. 40.*

CCLXXIV.

(N. 156. in 4to.; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 2. in 4to.)

Carminis el-Burde apographum, ab Europeo aliquo homine scriptum et Europaeorum more a sinistra incipiens. Titulus, codici praefixus: "Carmen in Laudem Mohammedis scriptum ex MSS. codic. qui in Biblioth. Colleg. Emanuelis Cantabrigiae asservantur." Sequuntur folia 17., quorum in parte anteriore inscriptum est illud poëma cum variis lectionibus; in parte aversa annotationes et supplementa nonnulla leguntur. Sequitur fol. 18. r. 19. r. 20. r. "Praefatio Autoris in hoc Carmen compositum in laudem Mohammedis." Fol. 21. r. 22. r. ex libro aliquo MS. exordia bina singulis versibus praemissa, transscripta sunt; — alterum

*) Sed ibi pro es- Suhraverdi impressum est esch-Schâhrûdi, idemque nomen Fleischerus deprompsit e cod. Dresd. 219.

**) Fleischerus ad cod. Dresd. 219. pro 'Abd allâh habet 'Ubeid allâh. Eundem tamen scriptorem esse suspicamur, cujus mentio facta ad cod. CXG.

quinque hemistichia continens Muhammedis bin el-Wefâ [cfr. Hâgî Ch. T. IV. p. 533.], alterum, quod in margine Cod. CCLXXII. legitur, tria.

CCLXXV.

(N. 157. in 4to.; olim N. 65. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 263.*) chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens *collectionem poëmatum Szafijj ed-dini 'Abd el-'Azîz bin Serâjâ bin 'Alî el-'Hillî*, mortui a. h. 759. (Chr. 1358.); de qua vid. Hâgî Chalfa, vol. III. pag. 291.; clar. Bernstein in Prolegomenis ad Szafieddini carmen, a. 1816. Lipsiae editum, pag. 3. sq.

Fol. 1. r. inscriptus est titulus: عَذَا دِيَوَانِ . الصَّفِيَّ الحَلِّيِّ رَحِمَهُ اللهُ . Praefationis initium, fol. 1.

v.: . الحمد لله الذي علم الانسان البيان ومن عليه به .
Dividitur totus liber in capita XII., sectiones XXX. complectentia:

Cap. I. fol. 4. r.—fol. 20. r.

في الفخر والمجاسة والتكريص على الرياسة ،

Cap. II. f. 20. r.—f. 78. v.**)

في المدح والثناء والشكر والهناء ،

— Duæ hujus capitis sectiones titulos inscriptos habent المنصريات et انصاريات ، encomia continentes Nâszir ed-Dîni Muhammedis b. Qalawûn, domini Aegypti, et Manszûri Nag'm ed-dîni Abû-l-Fat'h b. Gâzi.

Cap. III. f. 78. v.—f. 90. v.

في انطرديات [Cynegetica] وأنواع الصغاف ،

Cap. IV. f. 90. v.—f. 113. v.

في الأخوانيات ومدور مرسلاته ،

Cap. V. f. 113. v.—f. 145. r.

في مرانتي الأعيان وتغزى الأخوان ،

Cap. VI. fol. 145. r.—f. 177. v.

في الغزل والنسيب وظرايف التشبيب ،

Cap. VII. fol. 177. v.—206. r.

في الحمريات والتبذ والرهريات ،

Cap. VIII. f. 206. r.—f. 219. r.

في الشكوى والعتاب وتقاضى الوعد والجواب ،

Cap. IX. fol. 219. r.—f. 229. r.

في الهدايا والأعتذار والاستعفاف والاستغفار ،

Cap. X. f. 229. r.—f. 239. v.

في العوبص والالغاز والتقييد للايجاز ،

[De arte vocis varia significatione adhibendae punctis diacriticis mutatis; de aenigmatis et versibus memorialibus.]

Cap. XI. f. 239. r.—f. 252. v.

في المذبح والأهاجى والإسماص والتناجى ،

Ultima sectio hujus capitis poëmata lasciva et obscoena continet.

Cap. XII. f. 252. v.—f. 261. r.

في الأدب والرهديات ونوادير مختلفات ،

Subjunguntur fol. 261. v. 262. r. disticha haec, auctore clar. Qanâli Zâde [ابن امر الله المعروف بقنلى زاده] supremo Anatoliae judice, de quo vid. ad cod. CCXXXI.:

أرى في صدغك الموعج ذالاً ، عليها نقتنه من مسك خالك ،
فأصبح داله بالتفقط ذالاً ، فبنا أنا عائلك من أجل ذالك ،
et carmen eroticum, cujus hoc est initium:

سلام على من ليس يحفظ لى عيدى ،

ومن دأبه نسيان ما صدح من ودى ،

Codex Qahirac emptus a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis litt. Briefwechsel, vol. II. pag. 40. n. 12.

CCLXXVI.

(N. 60. in fol.; olim N. 14. in fol.)

Codex in fol., foll. 286. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi magno optime scriptus, poëmata continens in laudem Prophetarum, condita a Schems ed-dîno Abû 'Abd allâh Muhammed bin 'Abd allâh bin Muhammed, vulgo

*) Non pauca codicis folia recentiore manu suppleta sunt, ut foll. 1—3. 9—20. 35. 38. 42. 47. 50. 246—261.

**) Falso sectio II. Cap. 1. في التكريص على الرياسة. fol. 38. r.—f. 59. v. Cap. II. a librario adscripta est.

el-Chaffáf dicto. Vocatur haec collectio, ut docet subscriptio finalis: بذل الاستنطاعة في مدح صاحب الشفاعة, i. e. Largitio obsequii, liber agens de laudibus optimi deprecatoris. Poëmata secundum ordinem alphabeticum rhythmorum finalium digesta et vocalium signis maximam partem instructa sunt. Codex, ab initio mutilus, fol. 1. r. incipit a verbis: واذن لي في حرف الهمزة, الكلام فقلت, quae excipit ipsius carminis primi initium;

يا اصل دآي في الهوى ودوآي,

يا راحتى ابداء وطول عنآي,

Adjicitur in fine codicis fol. 285. v. 286. r. epilogus poëtae, soluta oratione scriptus, sed desinens in disticha haecce:

لقد قال كعب في النبي قصيدة,

وقلنا عسى في مدحه نتشارك,

فان شملتنا بالجوايز رحمة,

كرحمة كعب فيو كعب مبارك,

Clausula finalis, scriptoris ipsiusque libri nomen prodens, legitur fol. 286. v. Absoluta est scriptio mense Mu'harrem a. 787. (Chr. 1385.)

CCLXXVII.

(N. 158. in 4to; olim N. 66. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 88. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens *poëmata* partim in laudem prophetae, partim theosophici et erotici argumenti, de quorum auctore nobis non constat. Inscriptus est quidem fol. 2. r. titulus in hunc modum: هذا ديوان العارف بالله تعالى سيدى محمد بن وفا نفعنا الله تعالى; ببركاته آمين, sed infra alia manu adscriptum est: وفيه ديوان ونده سيدى على وفا قدس الله تعالى سرهما, quae verba utrum correctionis causa adjecta sint, an supplementum tituli exhibeant, non liquet. Deinde haec sequuntur, minio exarata:

من (من) من من من آمن الامتنان, على الفقير الى الغنى ائتمان, المقصر سليمان, الحولاني الحنفي, عامله المولى, et infra alia manu scriptum est: ايضا في هذا المجموع المبارك ديوان الشيخ الولي العارف الى

الفضل ابن وفا قدس الله سره. Videntur igitur olim diversorum, sed ejusdem familiae poëtarum carmina eodem volumine fuisse comprehensa; sed ea, quae nunc exstant, unius videntur esse scriptoris, aut *Mu'hammedis bin Wefâ*, aut filii ejus, qui truncato sine dubio nomine appellatur *'Alî Wefâ*. Diwânnum 'Alî bin el-Wefâ, Alexandrini, Schâdilitae, mortui a. h. 807. (Chr. 140 $\frac{1}{2}$.), commemorat 'Hâg'î Chalfa, vol. III. pag. 251.*) G'emâl ed-dînum Mu'hammed bin el-Wefâ idem laudat, vol. IV. pag. 532. extr.; Casirius, vol. I. pag. 153. ad cod. DXXI., mentionem fecit Abû -lfadhli bin Wefâ. — Incipit codex noster fol. 2. v. a carmine in laudem Mu'hammedis M. versus continente, cujus hoc est initium:

لبيبت فوادى في سبيل محجتي, تحج قلوب للأحبة حنت,

In fine ejus carminis, fol. 28. v., notatur: تمت القصيدة الموسوية بحمد الله تعالى وعونه. Desinit codex fol. 88. r.

CCLXXVIII.

(N. 159. in 4to; olim N. 27. in 8vo.)

Codex in 4to minore, foll. 78. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, continens *collectionem* autographam, ut videtur, *poëmatum* 'Abd el-Qâdiri bin Abî Bekr bin Chidhr ed-Dimâszî. Libri nomen auctorisque prodit titulus, fol. 1. r. inscriptus: كتاب الدر المنتقى من نظم كاتبه العبد - عبد القادر بن ابى بكر بن خضر الدماصى الحنفي, Eiusdem poëtae est ille liber: المنتخب الصغير من الديوان الكبير, quem descripsit Casirius, vol. I. pag. 137. n. CCCCLXXI., auctorem floruisse tradens circa a. h. 859. (Chr. 1455.) Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد

*) Idem esse videtur scriptor, cujus mentionem facit Casirius, vol. I. pag. 113. n. CCCLXXII. — Alium poëtam, Sajjid 'Alî Wefâ appellatum et Damasci natum, commemorat idem, vol. I. pag. 130. n. CCCCLXIII., eumque sexto post fugam saeculo floruisse tradit.

، لله الذى علم بالغلم علم الانسان ما لم يعلم*) ،
Ipsa carmina, alphabetico ordine disposita, incipiunt
fol. 2. r., desinunt fol. 77. r. Accedit epilo-
gus poëtae, fol. 77. r. — 78. r., ubi sequitur
subscriptio finalis: وحذا آخر الديوان والحمد لله ،
تم على يد نظمہ العبد الحج. Absolutus est liber
mense Rebi' secundo a, 892. (Chr. 1487.)

CCLXXIX.

(N. 160. in 4to; olim N. 28. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 98. chartae orientalis
laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Continet
collectionem poëmatum argumenti theosophici
Schihâb ed-dini A'hmed el-Qusautini, Schâdilitae,
Mâlikitae, ut docet titulus, libro praefixus,
fol. 1. r., ubi tamen scriptum est: انقسنطوني pro
انقسنطوني، quod legitur in limine praefationis, fol.
1. v.**) Carmina incipiunt fol. 2. v. Accedunt in
fine codicis, inde a fol. 85. v., varia, soluta oratione
scripta, ut narratio de revelationibus Schihâb
ed-dino per somnia transmissis, quorum unum
accidit a. h. 881. (Chr. 1476.); precatio alia-
que, ab eodem poëta partim a. h. 898. (Chr.
1493.) conscripta, usque ad fol. 96. r., ubi
sequitur subscriptio 'Alii cujusdam, Icti Tune-
tani, qui hanc collectionem descripsit mense
Mu'harrem a. 919. (Chr. 1513.); sed infra ad-
jicitur, si bene legimus: -- ومن خطه كتب الفقير --
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن
، احمد انستراوى بلدا وانشافى مدعبا الحج ،
quidem exarata sunt mense Mu'harrem a. 920.
(Chr. 1514.) Adjicitur praeterea fol. 96. v. —
98. r. epimetrum Icti illius Tunetani, in quo
de fatiis hujus collectionis agit atque narrat,
quomodo ad se ea pervenerit. — Fol. 98.
v. inscripta est notitia de natalibus 'Imâd ed-
dini cujusdam 'Abd er-Ra'him Ja'hjâ bin 'Abd

el-Qâdir bin Bedr ed-din Mu'hammed b. Sche-
ref ed-din 'Abd el-Wahhâb el-Muwaqqi' el-
'Ifanefi.

CCLXXX.

(N. 161. in 4to; olim N. 94. in 4to.)

Codex in 4to minore, foll. 38. chartae
orientalis, char. Neschi optime scriptus, sed
aqua vehementer laesus, continens poëmata
clarissimi Sultâni *Qûnszâh el-Ghauri*, qui Ae-
gypti imperium tenuit annis h. 906—922. (Chr.
1501—1516.) Fol. 1. v. post Besmelam haec
legitur inscriptio: من نظم انقمام الشريف مولانا
، انسلطان الملك الاشرف ابو (sic) النصر وتصوه انغورى ،
Deinde sequuntur carmina majore ex parte asce-
tici argumenti; inscripti sunt tituli fol. 4. 10.
قصيدة صوفية، fol. 7. قصيدة خمربة
، et moduli can-
tum saepissime indicati sunt. Desinit codex,
vocalium signis ubique instructus, fol. 38. r.

CCLXXXI.

(N. 162. in 4to; olim N. 35. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 403. chartae orientalis
laevigatae, partim variis coloribus tinctae, char.
Neschi bene scriptus, continens corpus poë-
matum *Imâmi Mu'hammed bin A'hmed bin 'Abd
allâh*, vulgo dicti *Mâmâi er-Râmî* et mortui
a. h. 987. (Chr. 1580.); de quo vid. 'Ilâg'i
Chalfa, vol. III. pag. 313. n. 5661. Fol. 1. r.
inscriptus est titulus: عذا ديوان الشبيخ -- ماملى
، الرومى خلد الله روحه فى الجنان امين ،
احمد الله تعالى حمد من ابتكر . Praefationis
initium, fol. 1. v.: عرائس ابتكار الافكار فى بيوت النظام ،
Fol. 2. r. lin. 4.
et 3. a fine pag. miuio exprimendum erat nomen,
quod Diwâno suo imposuit auctor; sed
incuria librarii praetermissum est explere lacunam.
Ipsa poëmata varii argumenti incipiunt
fol. 2. v.; epexegeses poëticae, quae تخميس
appellantur, saepissime inveniuntur; sic in poë-
ma celeberrimum 'Omari bin el-Fâridh الحمريّة

*) Eadem verba vide infra, n. CCCIV., in fragmento secundo.

**) Vocatur idem *A'hmed bin Abi Behr* fol. 94. r. et v.

dictum fol. 133. v.—139. v.; in alia carmina ejusdem auctoris 140. v. et 175. v.; in carmen Behâ ed-dîni Zuheiri fol. 150. v. [cfr. Cod. CCLXX. fol. 111. r.]; in carmen satis longum Abû-s-Su'ûdi fol. 154. r.—168. r.; in carmen minus Muhammedis Wefâi fol. 168. r., quod quidem in cod. nostro CCLXXVII. non reperitur; in celeberrimum carmen Burde dictum fol. 291. r.—315. v. — Desinit codex fol. 403. r., ad finem perductus mense G'umâdâ posteriore a. 1060. (Chr. 1650.)

CCLXXXII.

(N. 163. in 4to; olim N. 21. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 74. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte quidem, sed non eleganter, neque eadem manu scriptus, continens *poëmata in laudem Prophetæ*, composita a *Schems ed-dîno Mu'hammed esz-Szâ-lîhî*, Damasceno. Titulus, fol. 1. r. inscriptus: هذا الديوان النبوي للمرحوم الشيخ العلامة شمس الدين محمد الصالحى الدمشقى الحج. Introductionem poëticam, ejus initium hoc est:

عد ظبي زروء على العيون كما كان ،
 أم حال وصدت دوين ذلك ازمون .
 carmina in ordinem alphabeticum disposita sequuntur.

Desinit liber fol. 74. r.; absoluta est scriptio mense Mu'harrem a. 1026. (Chr. 1616.)

CCLXXXIII.

(N. 61. in fol.; olim N. 19. in 8vo.)

Codex in fol. minore, foll. 235. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi medioeriter scriptus, continens *collectionem poëmatum Schihâb ed-dîni el-Chafâg'i*, ejusdem, ut videtur, poëtae, quem clar. de Hammer vocat: Schihâb ed-dîn A'hmed bin Mu'hammed bin 'Omar el-Chafâg'i, et mortuum esse tradit a. h. 1069. (Chr. 1658.); vid. Wiener Jahrb. vol. LXXXVI. Anzeigebl. pag. 41. et 51. sqq. Idem scripsit

commentarium in librum celeberrimum 'Harîrii *درة الغواص* et Sultano Turcico Murâdo IV. dedicavit; cfr. fol. 26. v. codicis nostri. Vid. praeterea 'H. Ch. T. III. p. 206. Fol. 1. r. annotatur: ديوان الشهاب للفاجى رحمه الله تعالى الحج ، et infra: شهاب افندى رحمه الله تعالى امين ، ما انتظم من عقد ثناء في جيد الايام ، Carmina incipiunt fol. 4. r., desinunt fol. 235. r.

CCLXXXIV.

(N. 164. in 4to; olim N. 46. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 74. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi eleganter quidem scriptus, sed minus accurate, continens *corpus poëmatum*, quae composuit *A'hmed bin Abi-lqasim el-Chalûf el-Andalusi*. Fol. 1. r. legitur: هذا ديوان العلامة بن خلوف الاندلسى عفى عنه . Initium praefationis, a collectore scriptae, et ejusdem, quae in cod. sequenti fol. 1. v. lin. 1—12. legitur, fol. 1. v.: هذا لمن خلق الانسان، ومن عليه ، بديع البيان ، وخص الخواص ببلاغة التبيين ، Poëtae nomen plenius exhibet praefatio, pag. eadem: فهذا ما وجد من نظم العبد الفقير -- احمد بن ابى انقسم ، للخلوف رحمه الله تعالى ، يقول ، Deinde incipiunt ipsa poëmata, ad alphabeticum ordinem disposita, exceptis minoribus, quae collectionem claudunt fol. 64. v.—74. v. Scriptio absoluta in Aegypto mense Aû-l'hig'g'e a. 1118. (Chr. 1707.)

CCLXXXV.

(N. 62. in fol.; olim N. 25. in fol.)

Codex in fol., foll. 39. chartae orientalis, char. Neschi satis bene scriptus, continens *collectionem poëmatum*, quae composuit *Ibu Meug'ek Bâschâ*.*) Titulus, fol. 1. r. recentiore manu inscriptus: هذا ديوان الاديب ، ابن متجك باشا رحمه الله تعالى الحج ، Praefationem praemisit idem editor anonymus operis antee-

*) Si modo ita pronuntiandum est hoc nomen: متجك باشا .

dentis, cujus initium, fol. 1. v., hoc est: **حمد** لمن خلق الانسان ومن عليه ببديع الامتنان ، In hac praefatione nomini Ibn Meng'ek Bäschâ adjicitur: ابن المرحوم محمد باشا ، Poëmata incipiunt fol. 3. r., desinunt fol. 38. v., ubi subscriptionem finalem sequi debebat collectio carminum beati *Ibn ed-Durre*; sed praeter inscriptionem nihil reperitur.

CCLXXXVI.

(N. 165. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 376. chartae Europaeae, char. Africano satis nitide sed litteris minusculis et minus distinctis exaratus, *carmen Maqszûra Imâmi Abû-l-Hasan 'Hâzimi*, Carthagine nova Hispaniae sec. XIII. p. C. degentis, cum *commentario amplissimo Mu'hammedis bin Ahmed Granadensis* continet.

Fol. 1—4. nihil scripti continent; fol. 5. r. titulus legitur: شرح الفقير الامام ابي عبد الله محمد بن احمد الشريف الغرناطى على مقصورة حازم رحمه الله بتمه ، Infra titulum et in margine traditio de liberalitate Hasani bin Sahl Veziri, quae apud Ibn-Challikânum ed. de Slane p. 209. invenitur, et versus aliquot Zubeiri bin Bekkâr atque 'Abd el-Qâdiri Gilâni theologi celeberrimi leguntur.

Fol. 5. v.—6. v. praefatio commentatoris post Bismelam sic incipiens: الحمد لله الذى علم بانقلم وحدانا الخ ، ubi nomen poëtae exhibetur:

--- مقصورة الامام الواحد ابي الحسن حازم بن محمد بن حسن ابن حازم الانصارى القرطاجنى ، quam excipit usque ad fol. 17. r. prooemium poëtae in particulas commentario illustratas divisum, quarum prima haec est: قال الامام ابو الحسن رحمه الله الذى انطقنا بافصح اللسان ووقفنا الى التمييز بين ما يقبح من الكلام وما يحسن وصلى الله على سيدنا محمد افضل من sequitur fol. 17. r. —26. v. tractatio uberior commentatoris de nominibus troporum, qui in loco prooemii occurrunt. Fol. 26. v. initium carminis metro الرجز compositi et initio exarati commentario subjecto legitur:

لله ما قد حجت يا يوم النوى ،

على فادى (sic) من تباريح الجوى ،

لقد جمعت الظلم والاضلام ان ،

واريت شمس الحسن في وقت الضحى ،

Poëma el-'Hâzimi mille versus continens, quare quoque nominatum est, et ad exemplar carminis celeberrimi Maqszûra Ibn-Dureidi compositum saepissime ut illud res gestas Arabum commemorat; Sultano Africae Mustansziro-billah ex familia Hafszidarum dedicatum est, cujus nomen fol. 7. r. legitur:

للخليفة المستنصر بالله أمير المؤمنين أبوا (sic) عبد الله

— هو صاحب افريقية أبوا (sic) عبد الله محمد بن الأمير أئى

زكرياء بجيبى بن أبى عبد الواحد بن أئى حفص

[cfr. Casiri T. I. N. CCCLXXX. et T. II. p. 226].

Regnum Tuncetanum is tenuit sec. XIII. p. Ch.;

confudit eum Casirius sub numero CCCCLII.,

ubi idem carmen commemoratur, cum Ch-

lifa Fathimidico Mustansziro billah [† 427.

p. II.]; a quo poëta noster praemium mille

denariorum aureorum accepisse dicitur fol. 15.

r. lin. ult.: وقد ذكر أن أمير المؤمنين أبا عبد الله

المستنصر صاحب افريقية وصل أبا الحسن حازما على مقصورته

خذت بألف دينار من الذهب ائعين بحساب دينار نكد بيت ،

— Epilogus commentatoris f. 374. v. legitur, et

infra eadem pagina nomen scribae على مصطفى بن

invenitur; absolutus est codex noster a. 1241. p. II. = 182 $\frac{6}{7}$ p. Ch.

Fol. 375. r. poëmatum 11. versus continens

adjunctum est, quo opus praecedens celebratur.

Accedunt foll. 375. v. et 376. particulae

duae Ibn-Challikâni, vita Abû Suleimâni bin el-

Qirriat et fragmentum vitae Hammâdi

dicti, quod verbis abrumpitur: فقلت في نفسى من: هذا كنت اخاف

et 240.

Codex noster ad libros b. Falbii pertinens

a bibliotheca regia cum aliis codd. orient. suis

locis commemorandis comparatus est.

CODICES DE AMORE ET RE VENEREA.

CCLXXXVII.

(N. 166. in 4to; olim N. 36. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 304. chartae Europaeae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens librum, qui vocatur: كتاب تزيين الاسواق، كتاب تزيين الاسواق، بتزيين احوال العشاق، i. e. *Fora, amantium condicionibus belle expositis ornata*. Hoc enim nomine in ipsa praefatione (fol. 4. r.) designatur, in titulo tamen, fol. 1. r. legitur: كتاب تزيين الاسواق بتفضيل اسواق العشاق تأليف الشيخ العلامة داود البصير الحكيم رحمه الله رحمة واسعة ام، Sed haec mendose scripta sunt et reponendum est: ut est in cod. Gothano, de quo egit Kosegarten in praefat. ad chrestom. Arab. pag. X. Aliud ejusdem libri exemplum sine dubio continet cod. Gothanus 956. Auctorem Möllerus vocat Sein ed-dîn David et-thabib; de quo nos quidem nihil compertum habemus.*) Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الذى اطلع فى بروج اعتدال القدود، Librum suum profitetur auctor esse compendium libri: اسواق الاشواق، concinnati ab Abû-ſ Hasan Ibrahim bin Hasan b. Omar er-Rabbât**), noti sub nomine el-Beqâi, qui vestigia pressit Abû Bekri Muhammedis bin Hunein el-Baghdâdi es-Serrâg***)) in libro: مصارع العشاق، Dividitur liber Davidis nostri in introductionem, quinque capita, coronidem; indicem e cod. suo MS. dedit Hammerus, Wiener Jahrb. vol. LXIII. Anzeigebl. pag. 16.: sed

*) A clarissimo medico Davide Antiocheno, coeco, nostrum distinguit codicis titulus, adjecto epitheto: البصير.

**) In cod. Bibl. Reg. CLXXII. idem scriptor vocatur: البقاعى ابراهيم بن فزه،

***)) In cod. CLXXII. vocatur is: ابو محمد جعفر بن احمد المعروف بالسراج القارى، Conf. Kosegarten, l. l. pag. X. sq.

in nostro codice hae sunt capitum inscriptiones: ١ فى مصارع محب الله تعالى، ٢ فى عشاق الجوارى، ٣ فى عشاق الغلمان، ٤ فى ذكر خلق العشق فيما سوى البشر، Et hoc quidem caput divisum est in duas sectiones (نوعان)، quarum prior est: فى الجن؛ فى الحيوان والنبات والمعدن والعناصر والافلاك، posterior: نكت وعجائب ولطائف وغرائب من اصول هذه الصناعة، Introductio incipit fol. 5. r.; clauditur coronis fol. 301. v., ubi in subscriptione finali hoc modo expressum est libri nomen: تزييد الاسواق بتفضيل اشواق العشاق، — Excerpta nonnulla e cod. Gothano publici juris fecit Kosegarten in chrestom. Arab. pag. 22—27.

CCLXXXVIII.

(N. 167. in 4to; olim N. 34. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 176. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, continens librum, qui vocatur: كتاب تحفة العروس، i. e. *Donum sponsi et oblectamentum animorum*, auctore Abû Abd allâh bin Abî Abd allah Mu'hammed bin A'hmed bin Mu'hammed bin Abî Iqâsim et -Teg'ânî; de quo vid. Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 232., Casirius, vol. I. pag. 164. n. DLIX. Libri titulus auctorisque nomen leguntur fol. 2. r. Praefationis initium, fol. 2. v.: الحمد لله الذى سوغنا الفضل جزيلا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، Dividitur totus liber in capita XXV., quorum primum incipit fol. 5. r., desinit ultimum fol. 176. r. Absoluta est scriptio mense Schawwâl a. 1125. (Chr. 1713.); librarii nomen: محمد مطر، Edita sunt hujus libri praefatio et Capita I., VII., VIII. transscriptione lithographica et caractere Africano, Parisiis et Algeriae a. 1848.

CCLXXXIX.

(N. 168. in 4to; olim N. 78. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 64. chartae orientalis laevigatae, char. Africano bene scriptus. Continet:

I. Librum obscoenissimum, qui vocatur:

، كتاب الرّوض العاطر في نزهة الخاطر، i. e. *Hortus fragrans de deliciis animi*, auctore *Abū 'Abd allāh 'Omar bin Mu'hammed en-Nefzāwi*, ut legitur in limine libri, fol. 1. v. Praefationis initium: *لحم لله الذي جعل اللذة الكبرى للرجال في فروج النساء*، Idem scriptor jam antea minoris molis librum composuerat, in eodem argumento versantem, cui titulus: *تنوير الواقع في اصرار الجماع*، nostrum scripsit instigante *Mu'hammed bin 'Awāne ez-Zewāwi*, *Wezīro 'Abd el-'Azīzi*, principis Tunetaui. Divisus est in capita XXI., quorum primum incipit fol. 4. r., desinit ultimum fol. 61. r. Absoluta est scriptio mense *Ramadhān* a. 1133. (Chr. 1721.); librarii nomen: *عبد الخالق بن الشاحلي الشاوي ثم الوروي نسبة*، *ابن المتنوفى اصلا*، — Sequitur:

II. Fol. 61. v.—64. v. *Initium narrationis de Mejnāno et Leilā*, eadem manu scriptum, qua superior liber. Inscriptio: *قصة ليلى العبرية*، *مع عشيقها قيس بن الملوح رحمة الله عليهما*، Conf. cod. Bibl. Reg. CCXXXV.

CCXC.

(N. 169. in 4to; olim N. 18. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 50. chartae orientalis, char. Neschi bene scriptus, continens librum, qui appellatur: *i. e. نوعة الشاكى ودمعة الباكي*، *Afflictio querentis et lacrima flentis*. Est idem liber obscoenissimus, qui reperitur in cod. Bibl. Senat. Lips. CCXCVI. fol. 21. r.—49. v.; vid. *Fleischerum* pag. 533. sq. Adscribitur in titulo codicis nostri, fol. 2. r., *Gemāl ed-dīno Jūsuf*, concionatori in templo *Szalā'hico* *Babylone* (الخليب بالجامع الصلاحي ببابل). Sed in

codice sequenti, eundem librum continente, in cod. *Escorialensi* CCCCXXIX. *) et in cod. *Gothano* 100., **) auctor fuisse perhibetur clar. *Szalā'h ed-dīnus ez-Szafedī*, de quo vid. ad cod. CCLXIII.; atque apud *Hāg'i Chalfam* T. V. p. 344. liber ejusdem nominis adscribitur *Zein ed-dīno* cuidam *Mauszūr*; ita ut de ea re non satis constet. Incipit liber fol. 1. v., clauditur fol. 49. v., exaratus manu *Suleimāni bin 'Husein ibn el-Emīr G'anum* (جانم) *el-Jeschbeki*. Comparavit hunc librum in Oriente b. von Haven, teste inscriptione folii 50. r.: *صح انه بقى هذا الكتاب ملك الخواجا فون هاون*،

CCXCI.

(N. 170. in 4to; olim N. 82. in 4to.)

Ejusdem libri exemplum alterum, in 4to, foll. 69. ***) chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptum, sed minus accurate, quam codex superior. Titulus fol. 1. r. in-scriptus: *كتاب نوعة الشاكى ودمعة الباكي للشبيخ الامام*، *انعام العلامة صلاح الدين الصفدى رحمه الله تعالى*، Incipit liber fol. 2. r., desinit fol. 69. r.

CCXCII.

(N. 52. in 8vo; olim N. 40. in 8vo.)

Codex in 8vo, foll. 142. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter exaratus †), continens librum, qui in praefatione vocatur: *كتاب نزهة الالباب فيما لا يوجد في كتاب*، i. e. *Oblectamentum cordium, de rebus agens*,

*) Codex CCCLXXXV. (*Casir. vol. I. pag. 114.*), in quo nomen scriptoris non reperitur, eundem plane librum continet, quem codices *Hannenses*.

**) Non erat referendus hic codex inter codices theologicos, si eundem librum continet, quem codices nostri.

***) Foll. 1—8. et 64—69. recentiore manu eaque satis rudi suppleta sunt.

†) Foll. 1—30. recentiore manu suppleta sunt.

quae in libris non reperiuntur. In titulo fol. 1. r. post vocem الباب perperam additum est: والمستنطاب. Auctoris nomen ibidem ita scriptum est: للشيخ أحمد التينغاشي المالكي المغربي. Legendum videtur: التينغاشي aut التيفاشي; conf. Flügel in prooemio ad 'Häg'i Chalfae vol. II. pag. IV.; Fleischer in catal. Bibl. Senat. Lips.

pag. 507. not. Sed num is recte auctor habendus sit obscoenissimi hujus libri, affirmare non possumus. In praefatione fol. 4. v. et in limine capitis primi scriptor solo nomine Ahmed designatur. Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الذي علم طبع الانسان في الملل وعجزه عن تحمل الانتقال. Dividitur liber in capita XII. Desinit codex fol. 142. v.

CODICES DE ARTE PHYSIOGNOMICA ET ONEIROCRITICE.

CCXCIII.

(N. 171. in 4to; olim N. 16. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 48. chartae orientalis laevigatae, partim char. Nesta'liq, partim char. Neschi mediocriter scriptus, continens librum, qui vocatur: كتاب كشف الخال في وصف الخال, i. e. *Detectio condicionis, qui liber versatur in describendis naevis*, auctoremque habet secundum 'Häg'i Chalfam T. V. p. 204. *Szald'h ed-dinum esz-Szafedi*, eundem de quo diximus ad cod. CCLXIII. In hoc quidem codice nostro neque auctoris nomen reperitur, neque libri nomen integrum; sed conf. codicem sequentem. Fol. 1. r., Europaea, ni fallimur, manu inscriptus est titulus: كتاب في وصف الخال وما جاء في تشبيهه, ووصفه. Praefationis initium, fol. 2. r.: الحمد لله على ما ألهم وحقق ما أشكل سببه وأبهم. Dividitur liber in tractatus introductorios duos, quorum hae sunt inscriptiones: المقدمة الأولى في الخال لغة وما له بذلك من التعلق, المقدمة الثانية في حقيقته معنى وسبب وجوده في الأبخار وما يدل عليه في اختصاصه, et in conclusionem (نتيجة): فيما جا في ذلك من رقيق. Poëmata hujus partis ad ordinem alphabeticum disposita sunt. Incipit liber fol. 3. r., desinit fol. 47. v. Absolvit codicem mense Mu'harrem a. 996. (Chr. 1587.) Suleimán bin Dâüd Efendi.

CCXCIV.

(N. 172. in 4to; olim N. 32. in 8vo.)

Ejusdem libri apographum alterum, in 4to, foll. 58.*) chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptum. Fol. 1. r., magnifice exornatum, titulum exhibet, litteris Kuficis scriptum: كشف الخال في وصف الخال. Infra char. Neschi elegantissimo et auro obducto exaratum persem الخزانة العالية العلابية ابن فضل الله صاحب دواوين الانشاء الشريف. Incipit praefatio fol. 1. v., desinit codex fol. 58. v.

CCXCV.

(N. 173. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haur. N. 6, 1. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 31. chartae, ut videtur, Europaeae, char. Neschi satis rudi scriptus, continens *fragmentum libri de oneirocritice*, qui in praefatione appellatur: كتاب الاشارة في علم العبارة, i. e. *Liber indicii, agens de scientia interpretationis somniorum*. Idem liber est, quem 'Häg'i Chalfa, vol. I. pag. 307. n. 760., vocat: اشارة الى علم العبارة, et conscriptum esse

*) Foliorum ordo a bibliopego nonnihil turbatus est; quod nunc est fol. 9., praecedere debebat folium 7.

narrat ab *Abū 'Abd allāh Muḥammed bin Ahmed bin 'Omar es-Sālimī*. Fol. 1. r. in limine libri titulus legitur, mendosissime scriptus, et sic fere ad mentem ejus, qui haec scripsit, restituendus: *هذا الكتاب تعبير الاحلام تمت*, Praefationis initium congruit cum eo, quod expressit 'Hāg'i Chalfa. E quinquaginta libri capitibus, quae recensentur fol. 4. v.—7. v., fragmentum nostrum octo priora et noni partem continere debebat, sed folia nonnulla desunt post fol. 8. et 26. Abrumpitur codex fol. 30. r.

CODICES VARII ARGUMENTI.

CCXCVI.

(N. 174. in 4to; olim N. 27^b. in 4to.)

Codiculus in 4to, foll. 6. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, continens tractatum, qui vocatur: *كتاب ترغيب*, *كتاب ترغيب*, i. e. *Exhortatio fidelium ad habitandam Syriam*, conscriptum ab *'Izz ed-dīno Abū Muḥammed 'Abd el-'Azīz bin 'Abd es-Selām*, mortuo a. h. 660. (Chr. 126 $\frac{1}{2}$.); vid. 'Hāg'i Chalfam, vol. II. pag. 281. sq.)* Titulus libri auctorisque nomen leguntur fol. 1. r. Initium, fol. 1. v.: *المجد لله ذي الجود والاحسان*, *والفضل والامتنان*. Fol. 3. v. incipit sectio, cui inscribitur: *فصل في تفصيل دمشق على الخصوص*. Desinit liber fol. 5. r. — Junctus erat antea hic tractatus cum codicibus LXXII. LXXIII. XLVIII. LII.

CCXCVII.

(N. 175. in 4to; olim N. 26. in 8vo.)

Szalāh ed-dīni Chalil bin Aibek es-Szalāfedī liber, qui vocatur: *كتاب تشنيف السمع في* *كتاب تشنيف السمع في*, i. e. *Exornatio auris, liber qui versatur in describendis lacrimis*; codex in 4to, foll. 88. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus sed aqua nonnihil laesus. Titulus auctorisque nomen leguntur fol.

2. r. Praefationis initium, fol. 2. v.: *الحمد لله الذي جعلني ممن سما بالعلم وسمع*, Eodem modo quo codices CCXCIII. et CCXCIV. compositus, duos continet hic liber tractatus introductorios: *المقدمة الأولى في ما يتعلق بالدمع من اللغة وذكر ما ترادفه* وبيان أسماء العين الخ، *المقدمة الثانية في ذكر سببه نقلا وما ورد في ذلك من الأحاديث وذكر سببه عقلا الخ*, et conclusionem (*تنبيهة*) in 37 sectiones divisam, anthologiam poëticam exhibentem. Incipit tractatus prior fol. 17. v., posterior fol. 21. v., conclusio fol. 28. v. Desinit liber fol. 88. r., ad finem perductus mense Rebi' secundo a. 1006. (Chr. 1597.), manu 'Alii bin Muḥammed bin 'Isā el-Bu'heiri el-Azheri. — De libri auctore conf. ad cod. CCLXIII.

CCXCVIII.

(N. 176. in 4to; olim N. 85. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 123. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus. Titulus, fol. 1. r. inscriptus, hic est: *كتاب الاشربة* واختلاف الناس فيها تأليف أبي محمد عبد الله ابن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى أمين، وكتاب تباشير السرور في الشرب تأليف أبي العباس عبد الله بن المعتز بالله أمير المؤمنين رحمه الله عليه أمين، *والحمد لله وحده الخ*, Continet enim hoc volumen:

I. Clarissimi *Ibn Quteibae* librum de potentis diversisque de iis hominum sententiis, quem laudant *Ibn Challikān*, edit. de Slane vol.

*) Idem est scriptor, ejus mentio facta est ad cod. CCZZ.

I. pag. 352. et 'Hâg'i Chalfa T. V. p. 43. Initium libri fol. 1. v. post Besmelam atque enumerationem virorum doctorum, quorum fide genuina libri forma servata erat: الحمد لله الذى ، حمدانا لدينه المرتضى ، exaratus mense *Āu* -l'hiġ'g'e a. 981. (Chr. 1574.) — Sequitur deinde, eadem manu scriptus:

II. *Ibu el-Mu'tazzi similis argumenti liber*, cujus nomen integrum legitur fol. 53. r.: كتاب ، فصول التماثيل فى تباشير السرور ، Praemittitur libro notitia de vita auctoris et chalifae sequentis Muqtadiri billah († 320. p. II.), fol. 52. v. et inferiori parti fol. 53. r. transversis lineis inscripta; conf. quae annotavimus ad cod. CCLI. Initium, fol. 53. v.: الحمد لله اجلا لوحيدانيته ، واخلاصا له بوبيته ، Dividitur liber poetas quamplurimos laudans in sectiones (فصول) quattuor; desinit fol. 123. r.

CCXCIX.

(N. 177. in 4to; olim N. 62. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 290. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus*), continens librum, qui vocatur: حلبنة**), q. d. *Hippodromus equi fuscii*; sed subest allusio ad tritissimam apud Arabes vini appellationem, in quo describendo et laudando hunc librum maxime versari notum est; conf. 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 106. sq.; G. de Lagrange, anthol. Arabe, pag. 164.; clar. E. W. Lane in annotationibus ad librum: the thousand and one nights, vol. I. pag. 216. Auctoris nomen in titulo codicis, fol. 3. r., ita expressum est: الشيخ العلامة العدة اللوزي (اللوزي) محمد ، النواجي رحمه الله تعالى ، Idem apud 'Hâg'i Chalfam vocatur: *Schems ed-dîn Mu'hammed bin*

*) Recentiore manu, eaque non indocta, suppleta sunt folia 63—73. 164—180. 201—281.

**) Errant qui pro حلبنة exprimaunt: حلبنة; vid. Catal. Bibl. Paris. ad cod. 1566; Herbelotium s. v. Heliat al Comait.

*el-Hasan en-Nawwâg'i**), et mortuus esse dicitur a. h. 859. (Chr. 1455.) Conf. etiam Casirius, vol. I. pag. 88. ad cod. CCCXXXVII. Praefationis initium, fol. 3. v.: الحمد لله الذى ادار ، كوس الادب على احمد الذوق ، Dividitur totus liber in capita XXV. et coronidem. Caput primum (فى اسمها الخمرة) incipit fol. 6. r.; desinit liber fol. 287. r. Absoluta est scriptio mense Rebi' priore a. 1032. (Chr. 1623.) — Fol. 287. v. et 288. r. narratiunculae nonnullae leguntur atque alia, quae ad librum superiorem non pertinent, negligenter exarata.

CCC.

(N. 53. in 8vo.)

Collectio litterarum mercatoriarum et alius argumenti, quae continet: 1. 2. Indices mercium Alexandria a navigatore Gallico, Andrea Dardique [اندريا دربيك] nominato, vectarum; tempus indicatum est: dies septimus mensis Reg'eb a. 1067. (Chr. 1657.). — 3. Litteras Arabicas ad Emirum quendam, cujus nomen est 'Ali, in Syria habitantem, mercatorem quendam Europaeum commendantes, de cuius nomine nobis non constat. Subscriperunt nomina sua duo homines, quorum alteri nomen A'hmed. — 4. Apographum mandati, quo Imâmus Szan'âae C. Niebulrium ejusque itineris socios suae ditionis magistratibus commendavit mense Mu'harrem a. 1177. (Chr. 1763.) E bibliotheca b. Adleri.

CCCI.

(N. 17*. in 8vo; ex codd. Falbii.)

Cod. in 8vo, foll. 208. chartae Europaeae, char. Neschi satis bene scriptus, precesiones, formulas talismanicas, similia, quae ad superstitionem Arabum attinent, partim lingua Turcica composita continet. Inter quae notanda sunt:

*) Ita Flûgelius; sed praestat fortasse pronuntiatio: en-Neuâg'i.

fol. 5. r.—16. v. Calendarium Christianum cum descriptione mensium ejusdem argumenti, quod in cod. XLIX. IV. legitur;

— 21. r.—38. v. الحزب الكبير auctore Abû-1-'Hasan esch-Schâdîli [+656.=1258.p.Ch.], cujus

initium: *إن الله اشترى من المومنين أنفسهم أضع*،

— 49. r.—52. r. حزب البحر ejusdem auctoris vid. 'Il. Ch. T. III. p. 56. sqq. cfr. Cod. XLIX. IV.

— 53. فصل في فوائد خاتم علي بن أبي طالب،

— 57. v.—62. r. قصيدة دمياطى، cujus initium hoc est:

بدأت بيسم الله والحمد أولا، على نعم لم تحص فيما تنزلا،
cfr. Fleischer. Cat. biblioth. Sen. Lips. p. 435.

— 81. r.—90. r. Annus Christianus cum descriptionibus mensium duodecim; eodem modo descriptus annus Muhammedanicus.

— 90. r.—130. r. Astronomica et Astrologica, inter quae hic titulus: *هذا القوائين الايام طبيبات* (sic) tractationi Turcicae inscriptus est.

— 152. r.—156. v. carmen, المنفرجة i. e. consolatorium dictum, cfr. Cod. CCXLII. N. VI. et Fleischeri Cat. bibl. Sen. Lips. p. 435. Titulus hic inscriptus est: (sic) *هذا لدعاء منفرجى* et versus primus sic legitur:

أشدد ازيمة تم فرجى، قد اذن ليلى بانبلجى،

— 189. r.—203. v. Opusculum, cui inscriptum est: *هذا لكتاب المسى بسبحة العشاق* (sic) *corona precatoria amantium*, poema Turcicum, commentarium in centum traditiones propheticas continens auctore Latifi. Cfr. 'Il. Ch. T. III. p. 576. Cetera folia varia *تسبيح* continent.

In locis quibusdam codicis annus scriptio- nis indicatur 1244. et 1247. (1828. et 31. p. Ch.); in fol. 1. r. annus 1251. legitur.

CCCH.

(N. 54. in 8vo.)

Ingens collectio foliorum non compactorum in 8vo, *precreationes* continentium, *formulas talismanicas, similia*, quae Arabum superstio-

nem spectant, diversis temporibus a diversis hominibus char. Africano scriptorum.

CCCH.

(N. 178. A. et B. in 4to; ex codd. Falbii.)

A. Fragmenta, char. Africano varia manu mediocriter exarata, varii argumenti. Fol. 1. r. desinit narratio de palatio aureo, cujus subscriptio finalis haec est: *انتهى ما وجدناه مقيدا من حديث قصة قصر الذعب أضع*

Fol. 1. v.—33. v. sequitur opusculum, cui titulus inscriptus est: *كتاب الترحم الفائق في وصف من كتاب الترحم عن الذنوب والقبائح*, i. e. *„liber floris odoriferi de descriptione vivorum, qui culpis et maleficiis immunes fuerunt*. Traditiones multifarias argumenti paracnetici continet.

Fol. 33. v.—48. tractatio historici argumenti, cui inscriptum est: *غزوة تكريت لعلي بن أبي طالب،* *Expediit Tacritensis 'Alii bin Abi Tulib,* quam initio chalifatus contra praefectum Tacritensem Satih el-Gassani, qui rebellaverat, fecit.

Fol. 48. v. in epilogo scribae annus 1157. (17 $\frac{1}{3}$ p. Ch.) invenitur; in fine 5. versus leguntur, quorum hoc est initium:

كتبنت وقد أيقنت لا شك أتنى،

ستغنى يدى يوماً ويبقى كتابنا،

cfr. cod. CCIV. — Accedunt 3. folia traditiones et alia nullius momenti continentia.

B. Fragmenta historiae 'Antari manu Europaea exarata; inscriptio legitur in medio libro: *هذا كتاب السابح (sic) من سيرة الامير عنتر بن شداد*. Cfr. Cat. Cod. orient. Bibl. Bodleyanae P. II. vol. II. p. 150. N. CLXV.

CCCIV.

(N. 179. A. et B. in 4to.)

A. *Collectio fragmentorum rariorum*, in 4to, unde pauca hoc loco commemoratione digna videntur; in his:

I. Initium tractatus, qui vocatur: *ذخر* *انعايدىن*, i. e. *Thesaurus adorantium*, auctore

Corrigenda et Addenda.

- P. 14. I. l. 12. continuo I. continuo.
- 22. I. l. 22. رَوَيْتُ I. رَوَيْتُ.
- 40. II. l. 19. انصحيح I. انصحيح.
- — l. 8. inf. تم I. حم.
- 44. II. l. 12. يعم حكمه I. يعم حكم.
- — l. 14. المنقلبة I. المنقلبة.
- 46. I. l. 13. inf. في ذكر الصلوة I. في الصلوة.
- — II. l. 7. inf. سعيد سليمان الجزى I. سعيد سليمان الجزى.
- 47. I. l. 2. رُقَيْكَ I. رُقَيْكَ.
- 48. I. l. 6. quibæ I. quæ.
- 49. I. l. 4. بن الاشعث I. سليمان الأشعث.
- 52. I. l. 13 inf. Pro verbis: „Commentarius in librum“ legendum est: Commentarius in poëma didacticum metro المرحز compositum, versus 314. continens, cui nomen: المرشد المعين الخ.
- 52. II. Ad n. 4. notandum est: tractatus es-Senüsii [عقيدة] sub titulo editus est: El-Senusi's Begriffsentwicklung des muhammedanischen Glaubensbekenntnisses von M. Wolff. Leipzig, 1848. quem Fleischerus in cat. biblioth. Dresd. n. 216, 2. commemorat.
- P. 53. II. De codice LXII. notandum est. cum apographum cod. superioris esse.
- 54. I. l. 8. يامن لا يحوط leg. يامن لا حوط.
- — l. 5. inf. المختصر I. المختصر. de quo opere cfr. II. Ch. T. V. p. 451.
- 55. II. l. 9. inf. وتسعة I. وستة. et quae sequitur adnotatio de congruentia versuum numeri in cod. Dresd. omittenda est.
- 58. I. l. 11—12. والبشريات النذيرات I. والبشريات والنذيرات.
- 59. I. l. 5. الاسكندري I. اسكندري.
- — II. l. 3. الاسكندري I. اسكندري.
- 61. II. l. 7. De significatione verbi „cathismata“ cfr. Relandi de religione Muhammedica ed. alt. Trajecti ad Rhenum 1717 p. 91. adn. b.
- 70. I. l. 13. continuatio I. continuatio.
- 73. II. l. 6. N. LVI, 5. l. N. LXI, 5.
- 73. II. Ad. N. XCIII. notandum est:

- Desinit cod. inde a f. 209. v. in carmen versus 119 continens, cui inscriptum est:
 عدّه قصيدة جامعة لغالب ما تقدم من احوال يوم
 القيامة واسمها قلادة الدرّامة: شور في ذكر البعث والنشور
 cfr. N. XCV.
- P. 74. I. l. 2 inf. et sqq. Ad verba: Incipit
 codex etc. notandum est:
 Fol. 3. ante fol. 2 errore bibliopecti posi-
 tum est, ita ut unum tantum folium inter-
 cidisse videatur.
- 75. I. in adn. l. 3 inf. bibliopecta l. bibliopecto.
 — II. l. 11 inf. tabulas IX — leg. tabulas
 VIII —
- 76. I. l. 5. — نلاديب I. نلا.
- 79. II. l. 7. Ante verbum „Absolvitur“ in-
 serendum est: Fol. 435. r. haec adnotatio
 legitur: تمّ في النسخة التي نقلت منها هذه هناك
 فيها بياض نحو عشرين سطراً ثم عقب ذلك بقوله
 [leg.: ببيزة]; sequitur tractatus de arte
 faleonaria in مقدمة و مباحث 3, divi-
 sus, qui fol. 442. v. his verbis concluditur:
 فهذا جماع ما تدعو اليه الحاجة من هذه الصناعة وما
 عداه فتضويل بلا فائدة والله سبحانه الخ
- 80. II. l. 9. انغدا l. انغدا.
 — — l. 12. Post verba: „varia medica-
 menta“ adde: numero 550.
- 85. I. l. 3. add. Chrest. Ar. par de Saey.
 T. 1. p. 390. sq. et Anth. Gr. p. 433.
- 85. II. lin. ult. post: شيباب الدين adde no-
 men: احمد.
- 86. II. lin. 11. G'enabii l. G'ennabii.
- 88. I. l. 8—10. Verba: „omisso — اما بعد —
 delenda sunt; codex enim ut superior in-
 cipit.
- 88. II. l. 9. „Omari“ leg. „U'mani“, et
 l. 11. pro „sequitur vita etc.“ leg. „con-
 tinuantur traditiones de U'mano Chalifa,
 quas excipiunt etc.“
- P. 89. II. l. 4. inf. زخير I. زخير.
- 93. II. l. 17. Pro „Caput primum“ l. Prae-
 fatio [المقدّمة], et post „fol. 3. v.“ adde:
 caput primum fol. 9. r. Legitur fol. 82. r.:
 هذا اخر ما يسر الله جمعه من هذا التاريخ وقد رأيت
 ان اذبت عنها الارجوزة التي نظمتها لما شملتها المسماة
 أحسن السلوك في نظم من ولد مدينة الزبيد من الملوك
 quod poëma vita auctoris sequitur inde a
 fol. 85. r.—87. r.
- 95. I. Ad N. CXLIII. addendum est: Ver-
 sio Anglica hujus operis sub titulo edita
 est: the history of the temple of Jeru-
 salem translated from the Arab. Ms. of
 the Imâm Jalal-Addin al-Siuti with notes
 and dissertations by the Rev. James Rey-
 nolds London 1836.
- 95. II. l. 8. كتاب I. كتاب.
- 96. I. Ad N. CXLVII. I. notandum est:
 Inter foll. 8. et 9. aliquid excidisse vide-
 tur; ad II. l. 14. inf. pro „a. 930.“ l. 902.
 [Chr. 14⁹⁶/₉₇]; numerus Arabicus enim ثنتين
 legendus esse videtur, ita ut emendatione
 explicationis sequentis non opus sit.
- 100. II. l. 11. Post verba „vel potius ab
 a. 591.“ addendum est: deest enim fol.
 unum.
- 101. I. l. ult. حميت I. حمية.
- 102. II. l. 2. Pro Abi-rrebi' Suleimân l.
 Jûsuf Abi Ja'qûb.
- 106. I. l. 16. inf. et II. l. 11. inf. pro foll.
 240. l. foll. 237., quo errore numeri in
 columnis sequentibus minus accurate indi-
 cati sunt; sic quoque in adnot. l. 4.—3.
 inf. l.: „ut folium 26. excipiant quae nunc
 sunt folia 28. 29. 27. 31. 32. 30. 35. 33.
 34. 36.“ et l. 2. inf. pro „fol. 38.“ leg.
 37.; l. 5. inf. leg. „bibliopecto“.

- P 108. I. l. 11. inf. Pro *به فبغها* I. *بها فبغها* , et II. l. 5. pro *عمن سواد* I. *عمده سواد* .
- 109. I. l. 5. inf. *مقتضب* I. *مقتضب* .
- 110. II. l. 3. In nota ad verba *وانقضب على* و*انقضب على* addendum est: „et cfr. N. CLXXXIII, IV., ubi idem opus adest“, quare verba: „sed in bibliotheca Regia non reperiuntur“ tantum de utroque opere antecedente valent.
- 110. II. Ad N. CLXXVI. notandum est: De auctore commentarii ex locis hujus operis in cod. CLXXXIV. ad verba allatis, ubi nomen indicatum est, certo statuendum est, Ibn el-*Hâg'ib* hunc commentarium *لايضاح* nominatum conscripsisse.
- 111. I. l. 4. Pro *رب يسر* I. *زف لسر* , sic ut verbum *الله* initium textus sit, quod sequitur explicatio commentatoris: *أجبر على الخ* ; I. 5. pro *للأمر* I. *للأمر* .
- 112. II. l. 3. inf. Post verba „commentarium in Ibn el-*Hâg'ibi Kâfiam*“ addendum est: editum Calcuttae a. 1818.
- 113. II. Initium descriptionis Cod. CLXXXIV sic emendandum est: „*Commentarius in Ibn el-Hâg'ibi tractatum de flexione grammatica et orthographia*, qui *الشافية* vocatur, auctore ignoto. Textus plerumque lineis rubris distinctus est.
- 114. II. Ad N. CLXXXVII. notandum est: de Bedr ed-Dino el *'Aini*, scriptore illustrissimo, cfr. Quatremère *histoire des Sultans Mamlouks* T. I. Partie II. p. 219—228, ubi opus nostrum p. 225. 10. nominatum est.
- 115. I. l. 12. *المفتن* I. *المفتن* .
- — l. 16. *رقين* I. *رقين* .
- — l. 22. *Szin'hâg'i* I. *Szin'hâg'i* .
- P. 117. I. l. 9. Pro „*Hasani bin Jusuf*“ I. *Jûsuf bin 'Hasani*.
- 117. II. l. 4. inf. *رحمة الله* I. *رحمة الله* .
- 118. II. De cod. CXCIX. cfr. *Hag'i Chalfa* T. V. p. 586.
- 119. I. in adm. lin. ult. „es“ leg. „est“.
- 121. I. l. 12. Ut sensus verborum Arabicorum prodeat, post *الوقف* hoc inserendum est:
- وعلى ذلك يتخرج المغر المة بمور وحق قوله
إن عند المديحة الحسنة وأي من أضمرت تحلي وفاة
- 121. II. l. 19. Post nomen „el-*Hilli*“ addendum est: quorum singuli versus in commentario afferuntur.
- 122. In indicatione paginae 122. pro 221. leg.
- 122. I. l. 9. Post verbum „videtur“ supplendum est: sic quoque lacuna post f. 78. adest.
- 122. I. In lin. ult. notae ultimae post „pag. 5. sqq.“ addendum est: *cujus excerpta germanice vertit et publici juris fecit: Zeitschrift d. d. m. Gesellsch. 5ter Band II. III. Heft. p. 179. sqq. et 289. sqq.*
- 123. I. Ad n. II. supplendum est: cfr. editio cl. *Fleischeri: 'Alî's 100 Sprüche* Leipzig 1837.
- 124. II. l. 1. *أبدايه* I. *في بدايع بدايه* .
- 124. I. Sub n. CCX. l. 5. post nomen *محمد* لأنى *أحمد* inserendum est.
- 126. I. l. 13. Ante verbum „*Continet*“ inserendum est:
„In opere illo majore versus poetarum in quinque classes divisi erant: *المطرب*, *المترقص*, *المنزوك*, *المسموع*, *والمقبول*“

- fol. 2. v.—3. r. leguntur, unde utriusque prioris, المرقتص et المطرب, specimina in hoc libro afferuntur.
- P. 127. I. l. 15. Pro „pag. 42—44. capitis tertii etc.“ l. „pag. 42—44. capitis tertii ejusdem sectionis pars et capitis quarti partis secundae libri primi particula: de ignibus Arabum“.
- P. 129. II. l. 20. Pro الدول I. الدولة.
- 130. I. l. 14. Post „el Busti“ inserendum est: cujus idem poema celeberrimum allatum est, quod in Cod. CCXLII. VII. legitur; post Ibn en Nebih: „cfr. Cod. CCLXVII. f. 17. r.“.
- 131. I. l. 18. الخطيب I. الخطيب.
- 143. II. l. 2. inf. العليف I. العيلف.

INDICES.

I.

INDEX

scriptorum Arabicorum, quorum in hoc catalogo
mentio facta est.

Nomina cum verbis ابن et أبو composita.

ابن ابي حنبل - p. 95. I.; 127. II.; 131. II.	ابن خروف - p. 158. II.
أبي رندفة - p. 109. I.	الخياط - p. 151. I.
ابن عصيبة - p. 108. II.	دريد - p. 105. I.; 129. II.; 147. I.; 159. II.
أثير - p. 150. II.	الدرّة - p. 159. I.
أجرم - p. 115. I.	الربيع - p. 93. II.
اسرايل - p. 130. I.	زيدون - p. 130. I.; 135. II.
الاعرابي - p. 125. II.; 138. II.; 145. I.; 153. I.	الساعاتي - p. 54. I.
الانباري - p. 119. II.	السبكي - p. 82. II.
ايبك - p. 130. I.	السكيت - p. 119. II.
بسام - p. 103. I.	سودون - p. 133. I.
البواب - p. 107. I.	الشحنة - p. 85. I.
البيطار - p. 79. II.; 80. I. sq.	شقرة - nomen falsum p. 86. I.
الجرار - p. 79. I.	شيبه - p. 88. II.
جرنة - p. 80. I.	الطوسي - p. 131. II.
الحاجب - p. 110. II.; 111. II.; 112. I. sq.; 113. II.	ضافر - p. 123. II.
حجه - p. 121. I.; 128. I.; 138. I.; 166. I.	عبد السلام عز الدين - p. 59. I.; 163. I.
الحجاج - p. 148. II.	عنا الله السكندري - p. 59. I.
حجر - p. 166. I.	اعليف - p. 143. II.
خالويه - p. 147. I.	عباس القرظي - p. 130. II.
خطيب النصرية - p. 93. II.	فارس - p. 119. II.
الخطيب الغرناطي - p. 131. I.	فراة - p. 89. I.
خفاجه الاندلسي - p. 132. II.	قتيبة - p. 81. I.; 82. I.; 163. II.
خلدون - p. 84. II.	القرية - p. 159. II.
خلكان - verba ejus de Abû-I-Faragio laudan- tur p. 84. I.; 89. I.; 150. II.; 159. II.	مالك - p. 113. II.
	مرشد - p. 120. II.

ابن المعتز p. 126. I.; 146. I.; 146. II.; 163. II.
 - عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن ملك
 II.; 54. I.
 - متجك باشا p. 158. II.
 - المداعيي p. 125. I.
 - نباتا s. نباتا: p. 58. I.; 115. I.; 135. II. sq.;
 138. I.; 149. I.
 - النبيه p. 130. I.; 152. I.
 - هشام p. 121. I.; 147. I.
 - الوردى p. 73. II.; 129. II.; 138. I.
 - انونا p. 156. I.

ابو احمد بن الخطيب قاسم بن يعقوب الأماصي p. 124. I.
 - اسحاق ابراهيم بن ابي الفتح ابن خفاجة p. 131. I.;
 132. II.
 - اسحاق انقاسم محمد بن عمر الرمحشري p. 83. II.
 - ائبقاي العكبري p. 110. II.
 - بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني p. 110. I.
 - بكر محمد بن الوليد القرشي الفيمري الطرطوشي p.
 109. I.
 - بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي p. 105. I.
 - بكر بن محمد بن أبي بكر الفارسي p. 80. II.
 - بكر محمد بن زكريا الرازي p. 78. II.
 - بكر بن علي الحموي ابن حجة p. 121. I.; 128. I.
 - تمام حبيب بن أوس p. 126. II.; 140. I.
 - جعفر أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد p. 79. I.
 - الحسن الأشاذلي p. 46. II.; 165. I.
 - الحسن علي بن محمد الجهمي بن ابن خنيزب النصرية p.
 93. II.
 - الحسن علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي p. 102. I.
 - الحسن علي ابن بسام p. 103. II.
 - الحسن علي الدندي p. 126. II.
 - الحسن علي ابن ذي النورانيين ابن عبد الله ابن الخطيب p.
 131. I.
 - الحسن عمارة بن أبي الحسن الحكي p. 152. I.
 - الحسن حارم p. 159. I.
 - الحسين مسلم بن الحجاج القشيري p. 49. I.
 - الحسين أحمد بن محمد ابن حمدان القدوري p. 54. I.
 - الحسين عبد الرحمن بن عمر انصوفي الرازي p. 67. II.
 - الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن علي الابنوسي p.
 89. II.

ابو حشيشة p. 107. I.
 - حفص عمر p. 55. II.
 - حنيفة p. 55. II.; 138. I.
 - حيان الغرناطي p. 131. I.
 - داود سليمان بن الأشعث السجستاني p. 49. I.
 - زيد سعيد بن أوس p. 119. II.
 - زديا التبريزي p. 126. II.; 141. I.; 142. I.; 150. I.
 - سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي p. 78. II.
 - السعود p. 113. I.; 158. I.
 - شراعة p. 107. I.
 - شامه p. 100. I.
 - صخر p. 107. I.
 - الصنبي v. الطيب
 - العباس أحمد بن أحمد بن محمد } p. 46. II.
 - ابن عيسى ابن نوسى المدعوي زروق }
 - العباس أحمد ابن عطاء الله السكندري p. 59. II.
 - العباس أحمد بن يوسف بن أحمد اندمشقي p. 86. II.
 - العباس محمد بن يزيد p. 105. II.
 - العباس أحمد بن سلام الروزي p. 141. I.
 - عبد الله محمد بن علي الاندلسي } p. 45. II.
 - الحاج انشاضي التزغوري }
 - عبد الله محمد بن اسمعيل الجعفي البخاري p. 49. I.;
 93. II.
 - عبد الله محمد بن يوسف السنوسي p. 52. II.
 - عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن سليمان } p. 73. I.;
 74. I.
 - ابن ابي الربيع القبيسي الأندلسي انغرناطي }
 - عبد الله ياقوت بن عبد الله p. 75. II.
 - عبد الله محمد بن ابي نصر الحميدي p. 104. II.
 - عبد الله محمد بن داود الصنيجي p. 115. I.
 - عبد الله الازرق الغرناطي p. 131. I.
 - عبد الله محمد المانقي p. 131. I.
 - عبد الله بن ابي عبد الله محمد التنجاني p. 160. II.
 - عبد الله عمر انقراوي p. 161. I.
 - عبد الله محمد بن أحمد الساملي p. 163. I.
 - عبد الله محمد انشوران الغرناطي p. 131. I.
 - عبد الله محمد المقرئ p. 91. II.; 138. II.
 - عبادة الوليد ابن عبيد الجحتمري p. 141. II.
 - ابو العيم p. 107. I.
 - العنانية p. 131. II.
 - عثمان النهدي البصري p. 88. II.
 - العز عبد المغيب بن زهير الكرمي p. 89. II.; 90. I.

- p. 80. I. - علي يحيى بن عيسى ابن جزلة
 p. 126. II.; 149. I.; 150. I. - انعلا احمد المعري
 p. 131. I. ابو عماره البصري
 p. 49. I. - عيسى محمد بن عيسى انزلي
 p. 107. II. - انجيل انزلي
 - غائب احمد بن الحسن بن احمد بن عبد الله بن ابينا
 p. 89. II.
 - انغارات ضايح بن رزيق الملك الصالح
 p. 151. II.
 p. 130. I.; 142. II. - انفتح انبستي
 p. 137. I. - انفتح محمد الازخري
 p. 75. II.; 84. I. - الفداء
 p. 83. II. - انفرج
 p. 151. II. - انفرج انبغا
 p. 106. I. sq. - انفرج علي بن الحسين بن محمد الامدباني
 p. 57. II. - انفرج ابن الجوزي
 p. 134. I. - انفضل احمد بن الحسين انبمدي
 p. 52. II. - انقسام بن تنجوا
 p. 89. II. - انقسام عبيد الله بن عثمان بن يحيى بن جنيف
 p. 118. II. - انقسام عبد الكريم بن محمد انرافي القزويني
 p. 125. I. - انقسام محمد بن ابراهيم بن خيرة بن المداعي
 p. 92. I. - مدين
 p. 48. II. - محمد الحسين بن مسعود انقراء انبغوي
 p. 52. I.; 53. II. - عبد الله بن ابي زيد انقيرواني
 p. 52. I. - عبد الواحد بن عاشر الاندلسي ثم انقاسي
 p. 81. I.; 163. II. - عبد الله بن مسلم بن قتيبة
 p. 77. II. - انبلنسي انبدي
 p. 89. II. - اسمعيل بن علي بن اسمعيل الخدي
 p. 103. I. - عبد الملك ابن محمود الوراق
 p. 131. II. - بن عبد العزيز انسلمي
 p. 134. II. sq. - انقسام بن علي الخيري
 p. 122. I. sq. - منصور عبد الملك انشعاني
 p. 126. II. - منصور الجواني
 p. 105. II. - موسى سليمان بن محمد
 p. 126. I. - انصر انعتي
 p. 118. I. - نصر اسمعيل بن حماد الجوزي
 p. 130. I. - نواس
 p. 49. II. - حريرة
 p. 85. I. - انويد محمد بن الشحنة
 p. 88. II. - انويد عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن
 اني العاص ابن امية ابو انعباس الاموي

- p. 92. II. - انويد محمد بن عبد الله بن احمد الازرق الملكي
 p. 58. II. ابو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسمعيل ابن نباتا
 p. 110. I. - يحيى زكريا الانصاري
 p. 130. II. - يحيى محمد بن ابي بكر بن عاصم
 p. 119. I. - يعقوب يوسف انسداني
 p. 135. I. - يوسف يعقوب بن ابراهيم

ا

- p. 107. I. ابن بن عبد الحميد
 p. 111. II. ابراهيم بن احمد الخالي
 p. 90. I. ابن ابراهيم بن ابي الحسن علي بن محمد بن المبارك بن بطروس
 p. 98. I. ابراهيم ابن وصيف شاه
 p. 110. I.; 113. I. اثير انديين مقتصد بن عمر الابيري
 p. 70. I. احمد بن احمد عبد الحنف انبباني
 p. 158. II. - ابن ابي انقسام الحارثي
 p. 162. I. - انبباني
 p. 166. I. - ابن الحسين الاصمعي
 p. 104. II. - ابن عريشاه
 p. 105. II. - انجمي
 p. 116. I. - ابن علي بن مسعود
 p. 118. II. - ابن محمد بن علي انقري انقبومي
 p. 70. II. - انشرفي
 p. 54. I. - انقري
 p. 107. I. - ابن يوسف
 p. 103. II. - ابن يحيى بن احمد بن عميرة الضبي
 p. 63. II. - انصاف بن حنين
 p. 55. II. scriba - انصاف بن احمد بن عروسه
 p. 107. I. اسمعيل انقراييسي
 p. 68. II.; 71. II. - انور بيك بن شدرخ بن تيمور لوردي
 p. 126. I.; 142. I.; 144. II.; 166. II. امرء انقيس
 p. 49. II. - انس بن مالك
 p. 55. II. - اويس ابن عامر
 p. 60. II. - ايوب ابن زار

ب

- p. 151. II. انبغا
 بدر انديين ابو عبد الله محمد بن احمد سبط المارديني
 p. 69. II.; 70. I.; 70. II.; 71. I.

- بدر الدين أبو محمد محمود العيني p. 114. II.
 بديع الزمان الهمداني p. 126. I.; 134. I.
 برغان الدين أبو الفتح ناصر المطرزي p. 111. I.
 - الدين الباوي p. 129. I.
 بطرس فرماج p. 166. II.
 بكر بن خارجة p. 107. I.
 بيها الدين أبو الفضل زهير بن محمد بن علي p. 153. I.;
 158. I.
- ت
- تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي p. 82. II.; 142. II.
 تقي الدين أحمد بن محمد انشمي p. 114. I.
 - الدين بن حجة p. 138. I.
 - الدين السبكي p. 142. II.
 - الدين محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي المكي p. 92. I.
 تميم p. 126. I.
 تويت p. 107. I.
- ث
- ثابت ابن قره الخرائي p. 63. II.
- ج
- جامع p. 112. II.
 جبريل بن فرحات الماروني p. 117. I.
 جبرامرد الناصري p. 90. II.
 جرير بن عطية p. 145. II.
 جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السبيوني p. 90. II.;
 96. I.; 129. I.; 137. II.; 145. I.
 جلال الدين لدواني p. 137. II.
 - الدين القاضي p. 132. I.
 - الدين محمد ابن نباته الفارقي p. 136. II.; 138. I.;
 149. I.
 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي } p. 56. I. sq.
 بن محمد بن الجوزي الحنبلي }
 - الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك p. 113. II.; 129. I.
 - الدين أبو الحسن علي بن طاهر p. 123. II.
 - الدين ابن الجري p. 71. I. (bis.)
 - الدين عبد الله المارديني p. 69. II.; 70. I.
- ح
- الحارث p. 142. I.
 حازم p. 159. I.
 حافظ p. 148. I.
 حبيش p. 64. II.
 الحجاج ابن يوسف بن مطر p. 63. II.
 حذيفة ابن اليمان p. 88. II.
 حسام الدين p. 113. I.
 - nomen scribæ in Corano Cufico obvium p. 43. I.
 حسن باشا ابن مولى علاء الدين الأسود p. 111. I.
 الحسن بن وحب p. 107. I.
 الحسين بن محمد بن الحسن النديار بكرى p. 87. II.
 الحسين بن محمد بن الحسن الصغاني p. 50. I.
 حماد الراوية p. 159. II.
 حمزة بن الحسن الاصمعياني p. 83. I.
 حنين بن اسحق p. 64. II.
- خ
- خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزعري p. 115. II.;
 الخفاف p. 156. I.
 الخبير الاندلسي p. 131. I.
- د
- داود الانطاكي p. 79. I.
 ديكنقوز sive دينقوز p. 116. II.
- ر
- الراعي p. 107. I.
 ربيعة العدوية p. 47. I.
 رضوان افندي p. 71. II.
- ز
- الزبير بن العواء p. 88. II.
 زبير بن بكار p. 159. I.

- زروق p. 46. II.
- زفر p. 55. II.
- زغير p. 142. I.
- زين الدين دويد الطيب p. 160. I.
- الدين منصور p. 161. II.
- زين الدين عمر ابن الوردى p. 73. II.; 129. II.
- س
- السراج ابوبكر محمد p. 160. I.
- {سراج الدين ابو حفص عمر بن مظفر بن محمد
ابن عمر ابى الفوارس ابن الوردى القرشى البكرى
- p. 73. II.
- سراج الدين على بن عثمان p. 142. II.
- سعد الدين مسعود بن عمر انتفتازانى p. 119. I.; 120. I.
- vertit Catechismum Lutheri. p. 63. II.
- praeceptor Fred. Rostgardii. p. 61. II.
- سليمان بن وهب p. 107. I.
- سلمان الفارسى p. 88. II.
- سيبويه p. 44. II.
- ش
- شاعر البطحا p. 144. I.
- شرف الدين ابو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيرى p. 46. II.
- الشريف بن اليبارية p. 74. II.
- {شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن
اقيماز انتر كمانى الفارقى الدمشقى الذوى
- p. 88. II.
- شمس الدين ابو عبد الله محمد بن عقيف الدين التلمسانى p. 132. II.
- شمس الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد p. 155. II.
- {شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد
ابن ابراهيم بن ابي بكر بن خلكان
- p. 89. I.
- {شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قرة على
سبط جمال الدين ابي الفرج ابن الجوزى
- p. 57. II.; 83. II.
- شمس الدين ابن النوسى p. 131. II.
- الدين محمد p. 81. II.
- الدين محمد بن ابي نائب الانصارى p. 74. II.
- {- الدين محمد بن ابي السروين محمد بن
ابى السروير البكرى انصديقى
- p. 101. I.
- شنفرى p. 145. II.
- {شهاب الدين ابو العباس احمد بن يحيى بن
ابى بكر التلمسانى ابن ابي حبللى
- p. 95. I. 127. II.
- شهاب الدين احمد بن الحسين ابن العليف p. 143. II.
- الدين احمد الفسنينى p. 157. I.
- الدين احمد المقرئ الفاسى p. 85. II.; 86. I.
- الدين الحجازى p. 132. I.
- الدين عبد الرحمن بن اسمعيل بن ابراهيم المقدسى p. 100. I.
- شيخ زاده p. 154. I.
- ص
- صخر الغى p. 106. II.
- صلى الدين الخلى p. 121. II.; 131. II.; 143. I.; 155. I.
- صلى الدين احمد بن على ابن حجر p. 166. I.
- صلاح الدين خليل بن ابيك الصغدى p. 150. I.; 161. II.; 162. I.; 163. I.
- ض
- ضياء الدين ابن الأثير p. 138. I.; 150. II.
- ط
- طاهر بن اسلام بن قاسم الانصارى الكوارزمى p. 55. I.
- طرفة p. 126. I.; 142. I.
- طلحة ابن عبيد الله p. 88. II.
- طهمان ابن عمرو الكلابى p. 146. I.
- ع
- عبد الله بن ابي جعفر p. 96. I.
- بن ابي معقل p. 107. I.
- بن ابي انعلا p. 107. I.
- بن دحمان p. 107. I.
- بن محمد الهبطى p. 52. II.
- بن عباس p. 49. II.
- بن مصعب p. 107. II.
- بن المعتز p. 126. I.; 146. I. sq.; 163. II.
- بن يحيى p. 107. I.
- عبد بنى الحساساس p. 106. II.
- الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري p. 120. II.

عبد الرحمن الأشموني	p. 106. II.
- الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي	p. 84. II.
- الرحيم ابن العباس	p. 120. I.
- الروف المناوي	p. 122. I.
- الصمد بن يحيى بن احمد بن يحيى الصالحي	p. 96. II.
- القادر الجبلاني	p. 47. II.; 59. I.; 159. I.
- القادر بن أبي بكر بن خضرمي	p. 156. II.
- اللطيف بن عبد العزيز بن امين	p. 50. I.; 54. I.
- الواحد بن عيسى النغزري	p. 145. II.
عبيد	p. 107. II.
العديل	p. 106. II.
عروة بن حزام	p. 107. I.
عز الدين ابو الفضائل ابراهيم النجاشي	p. 116. I.
عز الدين الموصلي	p. 121. II.
عصام الدين ابراهيم بن محمد بن عبدشاه الاسفرائي	p. 44. II.
عصام الدين علي	p. 112. II.
علي بن أبي طالب	p. 49. II.; 123. I.; 143. I.
scriba. علي بن أحمد بن محمد الماحتي	p. 48. II.
علي بن أبي أمية	p. 107. I.
- بن مجد الدين النسيهروزي	p. 154. II.
- بن يوسف الزرندي	p. 137. I.
- جلي قناني	p. 137. II.
- وفا	p. 156. I.
علاء الدين ابو الحسن علي بن فخر الدين عثمان المارديني الحنفي	p. 48. I.
علي محمد بن علي النمسي الجدي بن موسى	p. 104. I.
عماد الدين عبد الرحيم يحيى بن عبد القادر	p. 157. I.
عماد الدين محمد بن محمد الاصفهاني	p. 107. II.; 150. II.
عمارة	p. 107. II.
عمار ذو كبار	p. 107. II.
عمارة ابو الحسن	p. 152. I.
عمرو	p. 142. I.
عمر بن الخطاب	p. 49. II.
عمر بن محمد بن يوسف الكندي	p. 96. I.
عمر بن القارن ابو حفص	p. 134. II.; 152. II.; 157. II.
عمرو بن سعيد وخالد بن المعتد	p. 107. II.
عمرو ذو التلب	p. 106. II.
عمر الميواني	p. 107. I.
عنان	p. 107. I.
عنترة	p. 126. I.; 142. I.

ف

الفردق	p. 126. I.
فضل الله العبيدي	p. 68. II.
الفقد	p. 107. I.

ق

قنصوة الغوري	p. 157. II.
القنال	p. 107. I.
القحيف	p. 107. I.
قسطا بن لوطا البعلبي	p. 64. I.
scripsit comment. in Logicam Qazwinii.	p. 110. II.; 113. I.
قطب الدين محمد بن احمد المكي	p. 93. I.
قناني قاضي	p. 137. II.; 155. II.

ك

الكامل أبو القاسم	p. 145. I.
الكبريت الأحمر	p. 138. II.
كعب بن زهير	p. 126. I.; 128. II.; 142. II.; 145. I.
كمال الدين ابو الحسن علي ابن النبيه	p. 152. I.
كمال الدين ابو القاسم عمر بن أحمد بن العديم الخدي	p. 94. I.
كمال الدين محمد بن أبي شريف الحضرمي	p. 94. II.

ل

لاونديوس سالم	p. 134. II.; 152. II.
ليبيد	p. 126. I.; 142. I.
لقيط	p. 106. II.

م

مالك ابن انس	p. 55. II.
- بن الربيب	p. 106. II.
- بن الحارث	p. 142. I.
ماني	p. 107. I.
المنتدي	p. 130. I.; 143. II.; 147. II.; 148.
المنتحل	p. 107. I.
مجد الدين محمد بن أبي بكر بن رشيد	p. 153. II.
محرز بن خلف	p. 46. II.
محمد امين بن صدر الدين الشرواني	p. 45. I.

- محمد الامين الحبي p. 108. I. sq. مضمير الدين احمد بن علي بن ثعلب ابن الساعاتي p. 54. I.
 - بن احمد بن محمد الفاسي الشننير بمبارزة p. 52. I. موسى بن شيخ أمين p. 45. II.
 - بن ابراهيم بن يحيى بن علي الخطبي p. 56. I. موسى بن محمد قاضي زاده p. 68. I.
 - بن اسحق النديم p. 64. I. موفق الدين ابن الامدي p. 138. I.
 - بن احمد الجعفي p. 68. II. شيخ مهران ابن شيخ مخدوم لقب فارسي مآ p. 57. II.
 - بن احمد الباوي p. 128. II.
 - بن احمد ماماي الرومي p. 157. II.
 - بن احمد الغزنوي p. 159. I.
 - بن الحسن الشيباني p. 55. II.
 - بن سعيد المرغني السوسى p. 53. I; 73. I. نجم الدين ابو حفص عمر بن محمد النسفي p. 55. I.
 - بن سليمان الجزولي p. 46. I. II.; 47. I. - الدونة احمد بن ابي الفتوح محمد بن ابي الخير p. 135. I.
 - بن عبد المعطي بن ابي الفتوح بن احمد المنوفي الاسحاقى p. 99. II. - الدين علي بن عمر القزويني p. 113. I.
 - بن عبد الملك الزيات p. 107. I. نصر بن نصر p. 80. II.
 - بن عبد الرحمن القزويني p. 119. I. نصيب p. 107. I.
 - بن عبد العزيز الوراق النخعي p. 153. II. نصير الدين الطوسي p. 64. II.
 - بن عبد اللطيف بن فرسنه p. 166. I. النمر بن تولب p. 106. I.
 - بن العفيف التلمساني p. 127. II.; 132. II. نور الدين ابوالحسن علي بن جابر p. 46. II.
 - بن علي بن احمد الدودي المانكي p. 106. I. (نور الدين ابوالحسن علي بن موسى بن احمد بن عبد الملك العنسي الاندلسي p. 125. II. sq.
 - بن محمد بن الحسين النخعي p. 70. I. نور الدين ابوالمتن علي بن الجناب البشباغوي p. 133. I.
 - بن محمد اللادقي p. 72. I.
 - بن محرم التكوني p. 112. II.
 - بن محمود السلواقي p. 108. I.
 - بن موسى بن عيسى بن علي الدميري p. 78. I; 103. I.
 - بن انوفا p. 155. I.; 156. I. sq.; 158. I.
 - العلمي p. 58. I.
 - الكندي p. 72. II.
 - المغربي p. 68. I.; 72. II.
 - النواجي شمس الدين p. 164. I.
 - محبي الدين p. 113. I.
 - الدين محمد بن مصطفى شيخ زاده p. 154. I.
 - مرة p. 107. I.
 - بن حكان p. 106. II.
 - مرعي بن يوسف الخنبلي المقدسي p. 99. I.
 - المرغني p. 53. I.; 73. I.
 - مروان بن ابي حفصة p. 107. I.
 - مصطفى بن ابراهيم p. 101. II.
 - مصدق الدين الكلسولي p. 143. II.

ن

النابعة p. 124. II.; 126. I.

ناصر الدين الأرجاني p. 151. I.

نجم الدين ابو حفص عمر بن محمد النسفي p. 55. I.

- الدونة احمد بن ابي الفتوح محمد بن ابي الخير p. 135. I.

- الدين علي بن عمر القزويني p. 113. I.

نصر بن نصر p. 80. II.

نصيب p. 107. I.

نصير الدين الطوسي p. 64. II.

النمر بن تولب p. 106. I.

نور الدين ابوالحسن علي بن جابر p. 46. II.

(نور الدين ابوالحسن علي بن موسى بن احمد بن عبد الملك العنسي الاندلسي p. 125. II. sq.

نور الدين ابوالمتن علي بن الجناب البشباغوي p. 133. I.

و

وجيه الدين عبد الرحمن بن علي ابن الربيع p. 93. II.

الوطواط p. 56. II.

ولي الدين ابوزرعه p. 92. I.

ولي الدين أبو عبد الله محمود p. 49. II.

ي

يقوت p. 75. II.

يحيى بن ضائب p. 107. I.

- الشرواني p. 47. I.

scriba. يحيى العبادحور p. 39. I.

يزيد بن ابي حبيب p. 96. I.

يعقوب p. 55. II.

- بن سيد علي p. 111. II.

- بن الليث الصقار p. 89. I.

يونس ابن عبد القادر ابن احمد المرشدي p. 71. I.

- بن عبد الاعلى p. 91. I.

- بن الناصر بن محمد بن مبارك الأينائي p. 130. I.

مرعي بن يوسف V. يونس المقدسي

II.

INDEX

operum Arabicorum, quorum nomina in hoc catalogo inveniuntur.

- ا
- أخفاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى p. 94. I.
- أخبار الدول وأثار الاول p. 86. II.
- الارجوزة p. 52. II.
- أزهار الروضتين في أخبار الدولتين p. 100. I.
- أساس البلاغة p. 119. II.
- استغفار ألى مدين p. 92. I.
- اسفار الملوك p. 60. II.
- اسواق الاشواق p. 160. I.
- اصطلاح المنطق p. 119. II.
- العجاز والايجاز p. 122. II.
- اغائة العارفين وغاية منى الواصلين p. 47. II.
- الافتتاح p. 111. I.
- ألفية p. 113. II.; 114. II.
- الانباب في شرح مشكلات الكتاب p. 45. II.
- انوار العقول من اشعار وصى الرسول p. 143. I.
- الانيس المطرب بروض القراض في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس p. 102. I.
- الايضاح p. 110. II.
- ايضاح سقط الزند وضموه p. 149. I.
- ايساعوجى في المنطق p. 110. I.; 113. I.
- ب
- بانة سعاد p. 142. II.; 145. I.
- بحث المطالب وحث الطالب p. 117. I.
- البحر الزخار والعيلم النيار p. 86. II.
- البيديعية p. 121. II.
- بذل الاستنطاعة في مدح صاحب الشفاعة p. 156. I.
- البرق اليماني والفتح العثماني p. 93. I.
- بطاركة الاسكندرية وانطاكية p. 62. II.
- بغية الطلب في تاريخ حلب p. 94. I.
- بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد p. 93. I.
- الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس p. 103. II. sq.
- انفس في حل الشمس p. 72. I.
- الوعاة في طبقات الخويين واللغة p. 151. II.
- ت
- تائية الشيخ محمد العلمي p. 58. II.
- تاريخ الاسلام s. تاريخ الذهبي p. 88. I. sq.
- الأمم p. 83. I.
- الحلفا p. 90. II.
- الحميسى p. 88. I.
- مختصر الدول p. 84. I.
- مصر خط p. 101. II.
- تباشير السرور في الشراب p. 163. II.
- تنبيه الاشتراع p. 61. I.
- تحفة الالباب وخبذة العجاب p. 73. I.
- الانام في تاريخ الاسلام p. 88. I.
- التحفة البيبية في تملك آل عثمان الديار المصرية p. 101. I.
- تحفة الظرفا p. 128. II.
- العروس ونزعة النفوس p. 160. II.
- الكرام باخبار البلد الحرام p. 92. I.
- تذكرة اولى الالباب والجامع للحجب العجاب p. 79. I.
- ترغيب اهل الاسلام في سكرى الشام p. 59. I.; 163. I.
- تزيين الاسواق بترتيب احوال العشاق s. بتفضيل اشواق العشاق p. 160. I.
- تسابيح p. 61. I.
- تشنيف السمع في وصف الدمع p. 163. I.
- تصوير صور الكواكب لعبد الرحمن الصوفي p. 67. II.
- تعزية للاولاد المنتقلين p. 140. II.
- التعليم المسيحى على مذهب الفضيل مرتينوس لوطيروس p. 63. II.
- تقديم الى بكر p. 121. I.
- تقويم البلدان p. 75. II.

تقويم السنة الشمسية	p. 72. I.
تلخيص المفتاح	p. 119. I.; 120. I. sq.
تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاج	p. 148. II.
التنويم في اسقاط التنديب	p. 59. II.
تنويم الوقع في اصرار للجماع	p. 161. I.
التنذيب	p. 110. II.; 119. II.
التوراة	p. 60. I.

ث

ثمرات الاوراق	p. 128. I.; 151. II.
ثمرات القلوب	p. 122. I.

ج

جامع المرقصات والمطربات وما يغنون به عن سائر الطبقات	p. 126. I.
الجامع الصحاح	p. 93. II.
جداول النسبة الستينية	p. 69. I.
الجمعية المسجبة انقائوليقية	p. 62. I.
الجمان في مختصر اخبار الزمان	p. 85. II.
جنة الولدان في اللسان من الغلمان	p. 131. II.
جوامع البحور ووقوع الامور وعجائب الدهور	p. 97. I.
- السلوك فيمن ملك مصر من الملوك	p. 98. I.
جوامع الفقه	p. 54. II.
- القرآن	p. 51. I.
الجوهرة الالامعة والنتيجة الجامعة	p. 71. II.
- النقى في الرد على البيهقي	p. 48. I.

ح

الحاشية الجليلية على الفوائد الضيائية	p. 112. II.
حاشية على تفسير القاسمي البيضاوي	p. 44. II.
الحجج المبينة في التفصيل بين مكة والمدينة	p. 137. I.
حديث انليس مع نوح	p. 139. II.
- ارم ذات العباد	p. 139. I.
- الفتى للجنى مع امرأة الساحر	p. 139. II.
- الورد في الاكمام	p. 139. I.
حزب الاقسام	p. 46. II.
- الحاربية	ibid.
حزب الصغير s. حرب النجم	p. 46. I.; 165. I.
- اتنوسل	p. 46. II.:
- الخمس	
- الفلاح	

حرب الكبير	p. 165. I.
حسن الحاضرة في اخبار مصر والقاهرة	p. 97. I.
حكاية وضاح اليماني مع خير القصور	p. 139. I.
حكمة الكيت	p. 164. I.
الحماسة	p. 126. II.; 140. I.
الخميس rectius للخميس	p. 87. II.
حيوة الحيوان الكبرى	p. 78. I.; 103. I.

خ

خاتمة	p. 104. II.
الخبصصى على التنذيب	p. 110. II.
خريدة العجائب وغريدة الغرائب	p. 73. II.
خريدة القصر وخريدة العجم	p. 107. II.
خطبة امثروجين	p. 129. I.
الخلافيات	p. 55. II.
الخميس في احوال نفس نفيس	p. 87. II.
خواص من الاقرب اباذينا ومنافع غير واحد	p. 81. II.

د

دبر يمين	p. 60. II.
الدر الثمين والموارد المعين في شرح المرشد	p. 52. I.
المعين على الضرورى من علوم ائدين	
الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب	p. 93. II.
- المنتقى	p. 156. II.
- المنصود في عجائب الوجود	p. 75. I.
- النفيس والحد الانيس	p. 131. II.
الدرر الفاخرات في العمل ببيع المقنطرات في	p. 70. II.
جميع الاقطار والحيات	
درة الغواص	p. 158. II.
الدرة المنتخبة في الادوية الحريفة	p. 80. II.
- المنيرة في مناظرة الجسر والجزيرة	p. 137. I.
دفتر الكتب في جامع الازهر	p. 109. II.
دكما كاتسما	p. 61. II.; 140. II.
دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلوة	p. 46. I.
على ائدى مختار	
ديوان ابي الحسن عمارة بن ابي الحسن	p. 152. I.
- ابن الحيات	p. 151. I.
- ابن المعتر	p. 146. I.
- ابن متحك باشا	p. 158. II.

- ديوان الادب p. 119. II. روض الأختيار المنتخب من ربيع الأبرار p. 124. I.; 136. II.
- الأرجان - p. 151. I. الروض العاطر في نزهة الخاطر p. 161. I.
- امرئ القيس ابن الحجر الكندي - p. 144. II. روضة المناظر في علم الاوائل والاواخر p. 85. I.
- بها الدين ابي الفضل - p. 153. I. ربحان الألباب وربيعان الشباب في مراتب الاداب p. 125. I.
- شمس الدين محمد الصالحى } p. 158. I. ز
- الديوان النبوى s. } p. 158. I. زاد المسافر في علاج الادواء p. 79. I.
- الشهاب الخفاجى - p. 158. I. زبدة الامثال p. 143. II.
- شهاب الدين أحمد العليف - p. 143. II. زهر الرياض p. 146. I.
- الصبابة - p. 127. II. الزهر الفاتح في وصف من تنزه عن الذنوب والقبائح p. 165. II.
- الصفى الحلى - p. 155. I. س
- طهمان ابن عمرو الكلابى - p. 146. I. سبحة العشاق p. 165. I.
- على وفا - p. 156. II. سراج الملوك والخلفا ومنتاج الولاة والامرا p. 109. I.
- عمر بن الفارض - p. 152. II. سقط الزند p. 149. II. sq.
- كمال الدين ابي الحسن ابن النبيه - p. 152. I. سكردان مولانا السلطان p. 95. I. sq.; 127. II.
- المنننى - p. 147. II. sq. سيرة الامير عنتر بن شداد p. 165. II.
- محمد بن وفا - p. 156. II. ش
- البيديلى - p. 141. II. الشافية p. 113. II.
- ن ذكر بلاد افريقية وحدودها ولما سميت افريقية } p. 77. I. شرح السلم للناظم p. 110. II.
- العابدين - p. 165. II. القاضى زكريا p. 110. I.
- عقد الملك السعيد على بنت الامير } p. 101. I. الشرح الكبير p. 118. II.
- سيف الدين قلاوون الالفى - p. 102. II. شرح مراح الأرواح p. 116. I. et II.
- الملوك الادرسيية - p. 102. II. الشمسية p. 110. I.; 113. I.
- ذيل على خريدة انقصر وجريدة انصرم p. 107. II. الشواهد الكبرى والصغرى p. 114. II.
- لب اللباب - p. 106. I. ص
- ر ربيع الابرار p. 124. I. الصحاح p. 117. I.; 118. I.; 119. II.
- الرسالة في اسرار الذكرو الخت عليه p. 46. I. صفوة الادب وديوان العرب p. 141. I.
- رسالة في السكين p. 138. I. الصيد والجوارح p. 146. I.
- في العجل بالربيع الموسوم بالمقنطرات p. 70. II.; 71. I. ض
- الرسالة في المدخل الى علم جمل من واجب أمور اديانة p. 52. I. ضوء السقط p. 149. II.
- الرسالة اقليمية p. 137. II. (bis) ض
- رسالة المسائل الشيايية p. 79. I. في الطب النبوى p. 82. II.
- مفاخرة السيف والقلم - p. 138. I. طبقات الشانعية p. 82. II.; 88. II.
- في العجل بالربيع المجيب - p. 70. I.; 71. I. طبقات الشعرا p. 146. I.
- الميقاة - p. 70. I.
- الرسالة الخوية p. 118. II.

ح	
حجامة القرأ للراغب في تاريخ أم القرى	p. 92. II.
العور والغور في علم الاخلاق لابن الكندي	p. 56. I.
غرر للخصائص النواحة وعرر النقائص النفاحة s.	
العزى	p. 116. I.
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين	p. 92. II.
عقد العقائد وضيا الفوايد	p. 132. I.
عقود الجبان في علم المعاني والنبهان	p. 120. II.
العقيدة	p. 52. II.
عماد البلاغة	p. 122. I.
عمدة اهل التنوير في شرح عقيدة اهل التوحيد	p. 52. II.
عنوان المرفصات والمطربات	p. 125. II.
عيون الانباء في طبقات الاضباء	p. 108. II.
غ	
غزوة تكريت لعلى بن ابي طالب	p. 165. II.
غيبث الادب الذى انسجم في شرح لامية العجم	p. 150. II.
ف	
فتوح البصائر لعبد القادر	p. 47. II.; 59. I.
فتوح بينسا	p. 91. II.
فتوحات عراق للواقدي	p. 91. I.
فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد	p. 114. II.
فصول التماثيل في تباشير السرور	p. 164. I.
فضائل حرز الانسام وخواصه	p. 46. II.
الفوائد الضيائية	p. 112. II.
- العلية في تأييد الفوايد الضيائية	p. 112. II.
فوائد في معرفة العجل بنصف دائرة المعدل	p. 70. I.
ق	
القاموس	p. 118. I.
قانون زامه	p. 111. I.
القرآن	p. 35—44; 166.
القرطاس الصغير	p. 102. I.
قرة الناظر ونزحة الخاطر	p. 133. I. sq.
قصة بشر العابد مع حند	p. 139. I.
- المحجمة مع سيدنا عيسى	p. 139. I.
- حيقار الحكيم الفارسي	p. 139. II.
- قصر الذهب	p. 165. I.
- ليلى العامرية مع عشيقها قيس بن الملوح	p. 161. I.
- مدينة النحاس	p. 139. I.

القصيدة الدائبة	p. 124. II.
قصيدة الادمياني	p. 165. I.
القصيدة الزينية	p. 123. II.
قصيدة عمرى بن العاص	p. 93. II.
القصيدة المنفرجة	p. 142. II.; 165. I.
القصيدة الموسوية	p. 156. II.
- اليمرية	p. 46. II.
قصيدة يقول العبد	p. 142. II.
القصائد الثوريات	p. 153. II.
القطب على الشمسية	p. 110. II.
ك	
كاتما	p. 61. II.; 140. II.
الكافية	p. 111. II.; 112. I. sq.
كتاب ايسقلايس	p. 64. I.
- الابل	p. 78. II.
- الأربعين في أصول ائدين	p. 51. I.
- الاشارة في علم العبارة	p. 162. II.
- الاشتقاق	p. 105. I.
- الاشربة واختلاف الناس غيب	p. 163. II.
- الاغانى	p. 106. I.
- اقليدس	p. 63. II.
- بدائع ابدائه	p. 123. II.
- برو ساعة	p. 78. II.
- بناء الامثلة	p. 116. I.
- الجبال والامكنة والمياه	p. 83. II.
- حاوى المختصرات في العجل بربع المقنطرات	p. 69. I.
- الحكم وانعم	p. 131. I.
- الخطبة	p. 58. I.
- الرياضات	p. 166. II.
- انشاء	p. 78. II.
- انصرف	p. 115. II.
- الطب	p. 80. II.
- عمل العنبريات	p. 79. I.
- فضائل مصر	p. 96. I.
- كشف رمز الحروف	p. 103. I.
- الكواكب الثابتة s. كتاب انصور السماوية	p. 68. I.
- المدهش	p. 56. I.
- المرتجل	p. 57. I.
- المعارف	p. 81. I.
- المقصور والممدود	p. 147. I.

- المصباح في اللغة s. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير p. 119. II.
- المصاف والمنسوب p. 122. II.
- المطلب في العمل بالربيع الحبيب p. 69. II.
- المطلع p. 110. I.
- المطلع على مسائل المقنع p. 53. I.; 73. II.
- المطول p. 119. II.
- معاهد التنصيص على شواهد التلاخيص p. 120. I.
- معجم البلدان p. 75. II.
- معدن العلوم ومرسل الهموم p. 51. II.
- المعرب p. 119. II.
- المعلقات السبع p. 142. I.
- المغرب في حلى أهل المغرب p. 126. I.
- المعنى p. 121. I.
- مفاخرة السيف والقلم p. 129. II.; 138. I.
- مفاخرة الاخوان p. 146. I.
- مفتاح العلوم p. 119. I.
- المفصل p. 110. II.
- المقاصد الخوية في شرح شواهد شروح الالفية p. 114. II.
- مقامات الهمداني p. 134. I.
- المقدمة الجرمية p. 115. I.
- المقصود p. 116. I.
- المقصورة p. 129. II.; 159.
- مقطعات من مرآة p. 145. I.
- المقنع في علم ابي مقرف p. 53. I.; 73. I.
- المقياس p. 103. I.
- ملحة الاعراب p. 115. I.; 129. II. (bis)
- الملخص في علم الهيئة p. 68. I.
- المنتفع في شرح المقنع p. 53. I.; 73. II.
- منبهات على الاستعداد ليوم المعاد p. 166. I.
- المنتخب الصغير من الديوان الكبير p. 156. II.
- المنفرجة p. 165. I.
- منهاج البيان فيما يستعمله الانسان p. 79. II.; 80. I.
- منهج السالك الى الفية ابن مالك p. 114. I.
- منير القلوب p. 58. I.
- المواعظ والاعتبار في ذكر الخط والاثار p. 95. II.
- ن
- نتيجة الافكار في اعمال الليل والنهار p. 72. I.
- نخبة الزهر في عجائب البر والبحر p. 74. II.
- نزهة الالباب فيما لا يوجد في كتاب p. 161. II.
- كتاب المنظومة في الخلاقات والعيون p. 55. II.
- الوصفين الطريفيين في مفاخرة الحرمين الشريفين - p. 137. I.
- كشف الخلال في وصف الخلال - p. 162. I.
- الظنون عن أسماء الكتب والفنون - - p. 109. II.
- كفاية القنوع في العمل بالربيع المقطوع p. 70. I.
- الكلم النوايح p. 137. II.
- الكَنَس الجوارى في الملاح من الجوارى p. 131. II. sq.
- كنه المراد في بيان بانث سعاد p. 145. I.
- الكواكب والصور p. 67. II.
- ل
- لامية العجم p. 150. II.; 151. II.
- لبّ اللباب في تحرير الانساب p. 105. II.
- لطائف اخبار الأول فيمن تصرف في مصر من ارباب الدول p. 99. II.
- لوعة الشاكي ودمعة الباكي p. 161. I. sq.
- م
- مأية عامل p. 110. I.; 111. II.
- كلمة لعلى بن ابي طالب - p. 123. I.
- مبارق الازهار في شرح مشارق الانوار p. 49. II.
- المتنوى p. 70. I.
- المجمل p. 119. II.
- محاضرة الابرار p. 125. II.
- المختار من نوادر الأخبار p. 138. II.
- المختصر p. 54. I.; 120. I.
- مختصر تاريخ الخلفاء p. 89. II.
- Annales Islamici Abilfedae المختصر في احوال البشر p. 84. I.
- مراجح الارواح p. 116. I.; 166. II.
- مرآة الزمان p. 57. II.; 83. II.
- المرشد المعين على الضرورى من علوم الدين p. 52. I.
- مروج الذهب p. 82. I.
- مزامير داوود p. 61. I.
- المسامرات p. 138. II.
- مشارك الانوار في صحاح الاخبار p. 50. I.
- المشرق في حلى اهل المشرق p. 126. I.
- مصاييح السنة s. المصاييح p. 48. I.
- مصارع العشاق p. 160. I.
- المصباح p. 111. I. sq.

نزهة الناظرين في تاريخ من ولد مصر من الخلفاء والسلاطين	p. 99. I.
نزهة النفوس ومضحك العيوس	p. 133. II.
النصيحة الرضية الى الطريقة المحمدية	p. 58. I.
نصيحة الملوك للغواي	p. 151. I.
نفاحة الريحانة ورشحة طلاء الخانه	p. 108. I.
نباية الارب في فنون الادب	p. 87. I; 126. II.
نوايع	p. 137. II.

عديّة العبد القاصم الى الملك الناصر	p. 96. II.
البيباكل السبعة	p. 47. II.
الوجيز	p. 119. I.
ورد حضرة سلنجان المشايخ السيد يحيى الشرواني	p. 47. I.
وصية ابي حنيفة النعمان بن ثابت لابي يوسف	p. 138. I.
وفيات الاعيان وأبناء الزمان	p. 89. I.

III.

INDEX

nominum gentilium et geographicorum, quae in hoc catalogo
occurrunt.

ا	انقروى	p. 39. I.
الابنوسى	اوسينندى	p. 60. II.
الاخنائى	الأوشى	p. 142. II.
الأدكاي	الأيناى	p. 130. I.
الأرجانى	ب	
الأزدى	البابلى	p. 88. II.
الازرقى	البابوى	p. 128. II.
الازهرى	البيحترى	p. 141. II.
p. 93. I; 108. II; 109. II; 119. II;	البحارى	p. 49. I.
137. I; 138. II; 154. II.	البيدرى	p. 119. II.
الاسحاقى	البيدراوى	p. 138. II.
الاسقرانى	البيرسلى	p. 68. II.
الاشموى	البيرتوسى	p. 46. II.
الاصيهبى	البيسى	p. 130. I; 142. II.
الاصمى	البيسطامى	p. 154. II.
افريقية	البيشبعوى	p. 133. I.
الانقى	البيصرى	p. 88. II.
الاماسى	البيعلبكى	p. 64. I.
الاموى	البيغدادى	p. 76. I; de orthographia nominis
الانبارى	بيغداد	p. 129. I.
الاندلوسى		

البغوى p. 48. I.; derivatum ex بغ v. بعشور ibd.
 البقاي p. 160. I.
 البكري p. 73. II.; 101. II.
 البلخي p. 70. I.
 البلنسي p. 77. II.
 بينسا p. 91. II.
 البوتيجي p. 119. II.
 البوصيري p. 93. I.; 142. II.; 154. I.
 البيضاوي p. 44. I. et II.
 البيهقي p. 48. I.

ت

التبريزي p. 126. II.; 141. I.; 142. I.; 149. sq.
 التجاني p. 160. II.
 الترماني p. 88. II.
 الترمذي p. 49. I.
 الترعوري p. 45. II.
 التفتازاني p. 119. I.; 120. I.
 التكوني p. 112. II.
 التلمايي p. 152. II.
 تلمسان p. 77. I.; 95. I.; 132. II.
 التنوخى p. 126. II.
 التيفغاشى s. التيفغاشى p. 162. I.

ث

الثعالبي p. 122. I.; II.

ج

الجبريني p. 93. II.
 الجرحاني p. 110. I.; 111. II.; 113. I.
 الجزولي p. 46. I., II.; 47. I.
 جزيرة الاندلس p. 77. II.
 الجعفي p. 49. I.
 الجعيمي p. 68. I.
 الجناني p. 86. II.
 الجيني p. 121. II.
 الجوانبيقي p. 105. II.; 126. II.
 الجوختي p. 36. I.
 الجوزي p. 83. II.
 الجوهرى p. 117. I.; 119. II.
 الجيماني p. 113. II.
 الجيلاني p. 47. II.

ح

حاجة p. 77. I.
 الحرائي p. 63. II.; 89. II.
 الحريري p. 115. I.; 126. I.; 129. II.; 134. I. sq.;
 158. II.
 الحسني p. 92. I.
 الحصري p. 84. II.
 الحارثي p. 89. I.; 121. II.; 143. I.
 الحلي p. 115. I.
 الحموي p. 76. I.; 121. I. sq.
 الحميدي p. 104. II.

ش

الخطبي p. 89. II.
 الشفاجي p. 131. I.; 158. I.
 الشوارزمي p. 55. I.
 الشولاني p. 156. I.

د

الدماصي p. 156. II.
 الدمسيسي p. 80. I.
 الدمشقي p. 88. II.; 113. II.
 الدميانى p. 165. I.
 الدميري p. 78. I.; 103. I.
 الدواني p. 137. II.
 الدياربيكري p. 87. II.
 دينور p. 67. II.

ذ

الذعبي p. 88. I. sq.

ر

الرازي p. 67. II.; 78. II.; 80. I.
 الرافي p. 119. I.
 الرشدي p. 71. I.
 الرفي p. 59. II.
 الرملة p. 91. I.
 الرودي p. 141. I.
 الروضة p. 137. I.
 الرومي p. 76. I.

ز

الزرنامة p. 68. I.
 الزنبيدي p. 89. II.

انزندی p. 137. I.
 انزحشبی p. 44. I.; 83. II.; 110. II.; 119. II.;
 124. I.; 137. II.
 انزواوی p. 161. I.

س

السالمی p. 163. I.
 سالوسی p. 53. I.
 انسکی p. 82. II.; 142. II.
 انسجستانی p. 49.
 انسریاقوسبییة p. 118. I.
 انسداکی p. 119. I.
 انسدری p. 141. II.; 146. I.
 انسکندری p. 59. II.
 انسلمی p. 131. II.
 انسنباطی p. 70. I.
 انسنبسی p. 143. I.
 انسنوسی p. 52. II.
 انسیروردی p. 154. II.
 انسودانی p. 114. I.
 انسوسی p. 53. I.
 انسولاتی p. 108. II.
 انسیرانی p. 147. I.
 انسیوضی p. 90. I.; 94. II.; 97. I.; 105. II.; 120. II.;
 129. I.; 137. II.; 145. I.

ش

انشادانی p. 46. II.; 59. II.; 165. I.
 انشافی p. 55. II.; 130. I.; 131. II.
 انشاوی p. 161. I.
 انشیراوی p. 110. II.
 انشروانی p. 45. I.; 47. I.
 انشاشبی s. انشاشبی p. 45. II.; 86. I.
 انشمی p. 114. I.
 انشیبانی p. 55. II.

ص

الصکر اوی p. 88. I.
 انصدیقی p. 101. II.
 انصغانی p. 50. I.
 انصفادی p. 150. I.; 151. II.
 انصمادی p. 152. I.
 انصنجانی p. 115. I.

صوفیا p. 51. I.
 الصور p. 146. II.

ض

الضبی p. 103. II. sq.

ذ

الذئی p. 113. II.
 الذرفوتی p. 109. I.
 الذغرای p. 150. II.; 151. II.
 الذنظرائی p. 142. II.
 الذنوسی p. 131. II.

ح

العاملی p. 88. I.
 العبدری p. 77. II.
 الععدزی p. 144. I.
 الععدویة p. 47. I.
 العزمی p. 99. I.
 العشماری p. 109. II.
 الععنوی p. 107. I.
 العکبری p. 110. II.
 العکلی p. 144. I.
 العلمی p. 58. II.
 العرمی p. 120. II.
 العیسی p. 114. II.

ط

الطردی p. 73. I.; 131. I.; 159. I.
 الطرالی p. 51. I.; 119. I.; 151. I.

ف

الفرائی p. 119. II.
 الفارسی p. 80. II.; 88. II.
 الفارق p. 88. II.; 136. I.
 الفاسی p. 52. I.; 85. II.; 92. I.
 فریبش p. 76. I.
 فرخش p. 76. I.
 افغانی p. 142. II.
 افلاحی p. 129. II.
 افندورجی p. 149. II.
 افغبری p. 109. I.
 افغبروزادی p. 118. I.; 129. I.
 افغیومی p. 118. II.

- ق
- القاذري p. 98. I.
 القادسي p. 39. I.
 القادوري p. 54. II.
 القراطيسي p. 107. I.
 قرة كوزبيك p. 50. I.
 القرشي p. 73. II.; 109. I.
 القرطاجني p. 159. I.
 القرطبي p. 130. II.
 القزويني p. 113. I.; 118. II.; 119. I.
 القسطنوني p. 84. I.
 القسنطيني p. 157. I.
 القشيري p. 49. I.
 القظامي p. 107. II.
 القطبي p. 93. I.
 القيرواني p. 52. I.
 القيسي p. 73. I.
- ك
- الكتبي p. 72. II.
 الكروي p. 166. II.
 الكلصولي p. 143. II.
 الكندي p. 96. I. sq.; 126. II.
 الكيلاني p. 59. I.
- ل
- اللاذقي p. 72. I.
 اللخمي p. 147. I.; 153. I.
 اللطيفي p. 165. I.
 اللمتوني p. 161. I.
 اللوزعي p. 164. I.
- م
- المارديني p. 48. I.; 69. II.; 70. I.
 المالقي p. 131. I.
 المحاسني p. 153. I.
 المحلي p. 48. II.
 المخزومي p. 151. II.
 المدني p. 144. I.
 المهرزوقي p. 141. I.
 المرغني p. 53. I.; 73. I.
- المسعودي p. 82. I.
 المطرزي p. 111. I. sq.; 118. II.; 119. II.
 المعري p. 126. II.; 149. I. sq.
 المغربي p. 68. I.; 72. II.; 86. I.
 المقدسي p. 99. I.
 المقرئ p. 85. II. sq.; 91. II.; 118. II.; 138. II.
 المقريزي p. 95. II.
 مكا p. 76. II.
 المكي p. 92. I.; 144. I.
 المنوفي p. 99. II.
 المهدي p. 153. I.
 الميداني p. 107. I.
- ن
- الناصرى p. 90. II.
 النستراوى p. 157. I.
 النسفى p. 55. I.
 النغزوى p. 145. II.
 النغزوى p. 161. I.
 النهدي p. 88. II.
 النواجي p. 164. II.
 النويهي p. 87. I.; 126. II.
 النيسابوري p. 147. II.
- د
- الديبضي p. 52. II.
 الديبلي p. 141. II.
 اليمداني p. 126. I.; 134. I.
- و
- الواحدى p. 147.; 148.
 الواسني p. 121. I.
 الواقدى p. 91. I.
 الوراوى p. 161. I.
 الوردى p. 73. II.
 الوفاى p. 106. II.
 الوفوى p. 106. II.
- ي
- البيشبيكي p. 161. II.

Z Copenhagen. Kongelige biblio-
6621 tek
C77 Codices orientales Biblio-
07 thecae regiae haviensis
pars.2

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

